

فکرِ پرویز اور قرآن

(علامہ غلام احمد پرویز کی قرآنی بصیرت کا علمی جائزہ)

حیدر علی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام کتاب : فکرِ پرویز اور قرآن
مصنف : حیدر علی 0321-9664574
سن اشاعت : 2008ء
اہتمام :
مطبع :
تعداد :
قیمت :

انتساب

زندگی میں اپنے بہترین دوستوں
محمد شاہد پرویز اور محمد اشرف مغل
کے نام

فہرست مضامین

| صفحہ نمبر | الباب | صفحہ نمبر | الباب |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 140 | حضرت ابراہیمؑ | | باب اول |
| 140 | آگ کا ٹھنڈی ہونا | 9 | قرآن فہمی |
| 143 | پرندوں کا زندہ ہونا | 9 | ترجمہ |
| 149 | حضرت داؤدؑ | 16 | مادہ |
| 151 | حضرت سلیمانؑ | 26 | تصریف آیات |
| 159 | حضرت یونسؑ | 45 | دین اور مذہب کا فرق |
| 162 | حضرت عیسیٰؑ | 51 | قرآنی اصطلاحات |
| 173 | پیدائش مسیحؑ | 81 | تضاد |
| 190 | معجزات | 92 | مضحکہ خیز طرز استدلال |
| 192 | وفات | | |
| 193 | ہجرت | | باب دوم |
| 197 | رفع الی السماء | 101 | مجازی مفہوم |
| 206 | نزول مسیحؑ | | |
| 208 | حضرت محمدؐ | | باب سوم |
| 215 | واقعہ معراج | 118 | معجزات |
| 218 | شق القمر | 118 | عصائے موسیٰ |
| | | 123 | ساحرین سے مقابلہ |
| | باب چہارم | 125 | سمندر کا پھٹنا |
| 220 | قانون | 137 | قتلِ ابناء |

| صفحہ نمبر | البواب | صفحہ نمبر | البواب |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| 348 | قیام | 225 | عالم خلق - عالم امر |
| 350 | رکوع | 232 | کلمۃ اللہ - سنۃ اللہ |
| 353 | سجدہ | 238 | لو شاء اللہ |
| 362 | ذکر | 240 | ما شاء اللہ |
| 366 | تسبیح | 242 | ان شاء اللہ |
| 371 | صلوٰۃ | 244 | من یشاء |
| 386 | صلوٰۃ اور فحشاء و منکرات | 256 | دعا |
| 387 | موجودہ نماز تفرقہ کا مظہر | | |
| 388 | جزئیات | | باب پنجم |
| | | 265 | معاشی نظام |
| | باب ہفتم | 265 | رزق کی ذمہ داری نظام مملکت پر |
| 389 | ہنرش نیز بگو | 290 | زمین کی انفرادی ملکیت |
| 389 | تصوف | 297 | ارض اللہ |
| 393 | ختم نبوت | 300 | وصیت، انفاق، صدقات |
| 396 | حدیث | 306 | معاوضہ محنت کا |
| | | 310 | قل العفو |
| 400 | نقد امتیاز | | باب ششم |
| | | 316 | صلوٰۃ (نماز) |
| | | 341 | عبادت |

تمہید

الحمد للہ، آج میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ اس کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے۔ میں نے قریباً دس سال فکرِ پرویز کی نشر و اشاعت میں گزارے۔ پرویز صاحب سے میرا تعارف 1989ء میں ہوا۔ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اور پھر میں نے باقاعدہ طور پر ان کے (ویڈیو) دروس میں جانا شروع کیا۔ جس کا اہتمام مقامی بزمِ طلوعِ اسلام کر رہی تھی۔ لیکن کتب کی بہ نسبت پرویز صاحب کا اندازِ تقریر زیادہ مسحور کن تھا۔ ضمناً عرض کرتا چلوں کہ اس وقت مختلف دوستوں کے ساتھ بحث کی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ اتفاق سے ایک دوست کا رابطہ جامعہ سلفیہ کے کچھ غیر ملکی طلباء سے ہو گیا ان سے اکثر دینی موضوعات پر گھنٹوں بحث ہوا کرتی تھی۔ اور کتب کا بھی تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ہم نے ان طلباء کو پرویز صاحب کا درس سنوایا۔ اور درس کے اختتام پر ہم نے کہا کہ اب بحث کا آغاز کریں۔ مگر ان دوستوں نے کہا کہ ”پرویز صاحب نے ہمیں بیٹا نائز کر دیا ہے۔“

اس وقت فکرِ پرویز کی بنیاد پر کچھ عملی تحریکیں موجود تھیں۔ جن میں سے میرا تعلق ’اقراء‘ سے ہو گیا۔ جس نے بعد میں تین تحریکوں کے ادغام سے ’المسلمون‘ کے نام سے کام کا آغاز کیا۔ میری زندگی کا فکری موڑ اس وقت آیا جب تحریک کے اندر نماز کے مسئلہ نے شدت سے سراٹھایا۔ اور اس پر باقاعدہ طور پر نشستوں کا آغاز ہوا۔ تو تیاری کے دوران میں نے مختلف موضوعات کا مطالعہ شروع کیا اور عبادت کے موضوع پر جب قرآنی آیات کو اکٹھا کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہ ہم تو عبادت کو اللہ کی محکومیت اور اس کے قوانین کی اطاعت ہی سمجھتے تھے۔ مگر جب قرآن نے یہ الفاظ استعمال کئے **قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ هَ أَتَى لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ه** (67-66/21) (حضرت ابراہیم) نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ کوئی نقصان (تکلیف)۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں

رکھتے۔“ من دون اللہ کے الفاظ نے عبادت کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ یعنی جیسی عبادت بتوں کی کی جاتی تھی، ویسی ہی اللہ تعالیٰ کی کرنے کا زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کا باقاعدہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری فکر کا زاویہ 360° پر گھوم چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے نماز میں باقاعدگی پیدا کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔

2000ء میں، میں نے باقاعدہ طور پر پرویز صاحب پر تنقید لکھنا شروع کی۔ اور حافظ محمد یوسف صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ چونکہ تم اس فکر سے عرصہ دراز تک وابستہ رہے ہو۔ اس لیے تم جو بھی لکھو گے اس میں باقی لوگوں کی بہ نسبت تمہاری بات زیادہ وزنی ہوگی۔ اس طرح میں نے مختلف دوستوں سے پرویز صاحب کی کتب لے کر دوبارہ سے ان کا مطالعہ شروع کیا۔ اور ان پر تنقید لکھنا رہا۔ اس عرصہ میں معاش کے سلسلہ میں اڑھائی سال تک سعودیہ مقیم رہا۔ جہاں اس کام کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگا سکا۔ اس کے بعد واپسی پر میں نے تنقید لکھنے کا فیصلہ منسوخ کیا۔ کیونکہ میں نے سمجھا کہ آخر یہ لوگ تعداد میں ہیں ہی کتنے کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ لیکن دوبارہ حافظ محمد یوسف صاحب کی رغبت پر کام کا آغاز کیا۔ کام خاصا کٹھن تھا، اور معاشی معاملات سے فراغت کے بعد بہت ہی کم وقت دستیاب تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ زیادہ کٹھن تھا یعنی نظر ثانی کا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں دو شخصیات تھیں کہ جن میں سے ایک، اس کام پر نظر ڈال دے اور مجھے تسلی ہو جائے کہ فکری اعتبار سے میرے کام میں کجی تو نہیں ہے۔ وہ تھے جناب عبید الحمید فاروقی صاحب اور جناب افتخار تبسم صاحب۔ افتخار صاحب سے عرصہ دراز سے رابطہ نہیں تھا۔ مگر قدرتی طور پر ان سے دوبارہ رابطہ ہو گیا۔ اور پھر فطرت نے ایسا سبب پیدا کیا کہ ضروری کام کے سلسلہ میں ان کو فیصل آباد میں دس دن تک قیام کرنا پڑا۔ اس دوران میں انہوں نے مسودہ ملاحظہ کیا۔ اور میری مزید حوصلہ افزائی کی اور رہنمائی کی۔

اور پھر جناب افتخار تبسم صاحب کی کاوشوں سے محترم امتیاز صاحب نے اس کتاب کی اشاعت کا بار اٹھایا۔ اور پروف ریڈنگ بھی کی۔ اور ساتھ ہی میری تحریر پر تنقیدی نوٹ لکھے۔ جن کو اس کتاب کے آخر میں من و عن شائع کیا جا رہا ہے۔

میری یہ کاوش کیلانی صاحب اور قاسمی صاحب سے کچھ مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں

الفاظ یا جملوں پر پکڑ نہیں کی گئی۔ بلکہ تصورات اور اساسات پر تنقید کی گئی ہے۔ اور اس کو خالص قرآن کریم کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ چونکہ پرویز صاحب کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اگر کوئی فرد ان کی فکر پر قرآن کریم سے کوئی دلیل لاتا ہے تو وہ فوری رجوع کر لیں گے۔ اب پرویز صاحب تو دنیا میں نہیں رہے۔ اس لیے متبعین پرویز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی فکر پر دوبارہ سے تدبر کریں اور میرے اٹھائے گئے نکات کا قرآن کریم کی روشنی میں جواب دیں۔ یا پھر اس کو قبول کر کے فکر پرویز سے تائب ہو جائیں۔

میری پرویز صاحب سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کوئی بھی بات یا نظریہ سامنے آجائے تو اس کی پرکھ صرف اور صرف قرآن کریم ہی کی روشنی میں کرنی ہے۔ اب میں نے ان کی فکر کو ہی قرآن کریم کی روشنی میں پرکھا ہے۔ ان کی تعلیم نے مجھے قرآن کریم کے بہت قریب کر دیا ہے۔ اور غیر از قرآن چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ اسی لیے میں نے آخری باب ان کے نام کیا ہے۔

آخر میں پرویز صاحب کے الفاظ میں، اگر میری اس کاوش سے کسی ایک فرد نے بھی فکر پرویز چھوڑ کر خالص قرآن کی تعلیمات کو قبول کر لیا، تو میں سمجھوں گا مجھے میری عرق ریزیوں کا صلہ مل گیا۔

حیدر علی

ستمبر 2008ء

فیصل آباد

قرآن فہمی

ہم سب سے پہلے علامہ غلام احمد پرویز کے قرآن کریم سمجھنے کے انداز کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا انداز دیگر اکابرین امت کے انداز سے بالکل مختلف ہے لیکن نیا نہیں۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو پرویز صاحب کا کام آئمہ معتزلہ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور برصغیر میں اس انداز کے کام کا آغاز سرسید احمد خان نے کیا لیکن پرویز صاحب نے اسے تحریر و تقریر کے ذریعے تکمیل کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سرسید احمد خان کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ تمام کائنات work of God ہے اور قرآن کریم word of God۔ اس لیے ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ چونکہ سلسلہ کائنات علت و معلول کی جگڑ بندیوں پر مشتمل ہے اور اسے بعید از عقل چیزوں سے کوئی کلام نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ اصول متعین کر لیا کہ قرآن کریم میں کوئی بھی چیز ماورائے عقل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا مفہوم اس طریقہ سے بیان کیا جائے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پورا پورا اتریں۔ اسی اصول کو پرویز صاحب نے مد نظر رکھا اور اسی کے مطابق ہی قرآنی تعلیمات کو بیان کیا۔ قرآن فہمی کے سلسلہ میں پرویز صاحب نے چند اصول متعین کئے ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیں گے۔

ترجمہ

پرویز صاحب کا تصور ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا صرف مفہوم بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم مروجہ تراجم سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں

”کتب احادیث و تفاسیر کے بعد تراجم کی طرف آئیے۔ اردو کے موجود تراجم میں شاہ عبدالقادر کا ترجمہ مستند ترین سمجھا جاتا ہے۔ اس ترجمہ کا انداز اس قسم کا ہے۔

مَنْظَرُهُمْ كَمَنْظَرِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا ۖ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ۗ صُمُّ بُحْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۗ لَا اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ

ظَلُمْتُ وَرَعْدٌ وَبُرُقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط
 وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ه (2/17-19)

مثال ان کی ہے جیسے مثال اس شخص کی جلاوے آگ۔ پس جب روشن کیا جو کچھ گرد اس کے تھا، لے گیا اللہ روشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے نہیں دیکھتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں پھر آتے۔ یا مانند مینہ کے آسمان سے بیچ اس کے اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی۔ کرتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ کانوں اپنے کے کڑک سے ڈرموت کے سے۔ اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔

اس ترجمہ پر تنقید مقصود نہیں، لیکن یہ تو واضح ہے کہ جب ایک تعلیم یافتہ نوجوان اس کی شکایت کرے کہ اس ترجمہ سے قرآن کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی یہ بات ایسی نہیں جس پر اسے جھڑک دیا جائے۔ اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔

ترجمہ مفہوم کو واضح کر ہی نہیں سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، خواہ وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کیوں نہ ہو، قرآنی مفہوم کو واضح کر ہی نہیں سکتا۔۔۔ حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ کی جگہ، خود عربی زبان کے دوسرے الفاظ رکھ دیئے جائیں تو بھی بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا انداز اور اسلوب بالکل نرالا ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ الفاظ تو اس کے عربی زبان ہی کے ہیں، لیکن ان میں جامعیت اس قدر ہے کہ نہ ان الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ترتیب میں رد و بدل کرنے سے وہ بات باقی رہ سکتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے ترجمہ میں اس کا پورا پورا مفہوم آ نہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ (متوفی 728 ھ) کتاب القرطین میں عربوں کے مختلف اسالیب بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

”قرآن کریم کا نزول، ان تمام اسالیب کلام کے مطابق ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں (کما حقہ) نہیں کر سکتا، جیسا کہ ترجمہ کرنے والوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے حبشی یا رومی زبان میں کر لیا تھا، ایسے ہی زبور اور تورات کے تراجم کی وہ

وسعت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں **وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْتَ لِلَّهِمْ عَلِيٌّ سَوَاءٌ** ط (8/58) تو آپ قیامت تک ایسے الفاظ مہیا نہیں کر سکتے جو ان معنوں کو ادا کر دیں جو اس آیت میں ودیعت ہیں۔ بجز اس کے کہ آپ اس نظم و ترتیب کو توڑ کر الگ الگ چیزوں کو ملائیں اور جو چیزیں اس میں ودیعت کی گئی تھیں انہیں اس طرح ظاہر کر دیں، اور یوں کہیں کہ ”اگر تمہارے درمیان اور کسی قوم کے درمیان صلح اور معاہدہ ہو، اور تمہیں ان سے خیانت اور نقض عہد کا اندیشہ ہو، تو پہلے انہیں بتادو کہ جو شرائط تم نے ان کے لئے منظور کی تھیں، تم نے انہیں توڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو تا کہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کو جان لینے میں برابر برابر ہو جاؤ۔“ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا لا (18/11)

اگر آپ چاہیں کہ اس مضمون کو کسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر دیں تو اس سے وہ مضمون قطعاً نہیں سمجھا جاسکے گا جو ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم نے انہیں چند سال تک سلائے رکھا“ تو اب بھی آپ نے مضمون کا ترجمہ تو کر دیا، مگر الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکے۔

ایسے ہی قرآن کریم کی تیسری آیت ہے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (25/73)

اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اس کے الفاظ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک معلق بات بن جائے گی۔ اور اگر آپ یوں کہیں گے کہ ”وہ لوگ اس سے تغافل نہیں برتتے“ تو اس سے آپ نے مضمون کو دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا ہے۔ ترجمہ نہیں کیا۔ (قرطین جلد دوم۔ صفحہ 163)

ایک مستشرق کی رائے

یہ تو اپنوں کی رائے ہے۔ غیروں میں سے بھی جس نے قرآن کریم کا مطالعہ بنظر غائر کیا ہے وہ اسی نتیجہ پر پہنچا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ (کما حقہ) کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ مشہور

مستشرق گب (H.A.R Gibb) اپنی کتاب (Modern Trends in Islam - 1945 ed.) میں لکھتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔۔۔ جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وحی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔۔۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے 'عربی زبان کے' تراشے ہوئے کینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے، مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو متعذر کر دیں گے۔ ایسی آیات میں، جن عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں، ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن، بایں ہمہ، جو مدد و جزر، جو تشبیب و فراز، جو بلندیوں اور گہرائیوں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمہ میں کیا آسکے گا۔ ذرا اس صاف اور سیدھی آیت کو لیجئے

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝ (50/43)

اور انگریزی ہی نہیں دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے اس کے چھ الفاظ میں جو پانچ مرتبہ ”ہم“ (We) کی تکرار ہے اسے کونسی زبان ادا کر سکے گی؟
(صفحہ 4۔ ترجمہ رواں) ”(مفہوم القرآن۔ تعارف صفحہ ح تا د)

اس کے علاوہ پرویز صاحب صفحہ ”خ“ کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں۔
”اس میں شبہ نہیں کہ عجمی زبانوں میں، عربی زبان کی سی وسعت نہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ، عربی زبان کے علاوہ، اس میں قرآن کریم کے خاص اسلوب کو بنیادی دخل ہے۔ اور یہ خصوصیت ہر آسمانی کتاب کی ہوتی ہے۔ وحی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے خواہ اس کی زبان کوئی بھی ہو۔ آج ہمارے سامنے قرآن کریم کے علاوہ، کوئی اور آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ورنہ ہم دیکھتے کہ وحی کی زبان کا ترجمہ (کما حقہ) ہو نہیں سکتا، خواہ وہ کوئی آسمانی کتاب ہو۔ انجیل اور تورات کے جو تراجم ہمارے سامنے ہیں، اول تو وہ اصل کتابوں کے براہ راست تراجم نہیں۔ اور اگر (بفرض محال) یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ اصل کتابوں کے تراجم ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ اصل

کیا تھا اور وہ ترجمہ میں آکر کیا ہو گیا؟“

یہ تھا پرویز صاحب کا ترجمہ کے بارے میں تصور۔ قرآن کریم نے اپنے بارے میں کہا ہے بَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ (26/195) یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے۔ زبان میں سب سے بنیادی چیز ”لفظ“ یا ”نام“ ہے۔ ہر چیز اپنے تعارف کے لئے ”نام“ رکھتی ہے اور ہر عمل اپنی پہچان کے لئے الفاظ کا محتاج ہے۔ اس کے بعد ہے ان اعمال یا افعال کو بیان کرنے کا طریقہ۔ اس کے لئے ہر زبان میں گرائمر کے قواعد، بلاغت کے اسلوب، ایک ہی لفظ کے مختلف المعانی استعمالات، ضرب الامثال اور محاورات موجود ہوتے ہیں۔ اور ہر زبان میں یہ قواعد اختلاف کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اردو میں ایک اور زیادہ چیزوں کے لئے ”واحد اور جمع“ کے صیغے موجود ہیں لیکن عربی میں دو کے لئے تشبیہ کا صیغہ بھی موجود ہے۔ یا اردو میں تم، تو اور آپ، مخاطب کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن انگریزی میں صرف ایک لفظ You ہی کافی ہے۔ اسی طرح دیگر اختلافات بھی موجود ہیں۔ ترجمہ کرنا ایک فن ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے والا دونوں زبانوں کے اسالیب سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ اب قرآن کریم میں یہ چیز ہتکرام موجود ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور یہ ویسی ہی زبان ہے جس پر قواعد و ضوابط کا پوری طرح اطلاق ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت گرائمر کے اصولوں یا بلاغت کے کسی اسلوب کے خلاف ہے۔ اسی طرح آج تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ کسی عالم نے قرآن کریم کا یا اس کی کسی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا ہے۔ اور وہ جملہ قواعد گرائمر کے بالکل برعکس ہے۔ اب رہی یہ آیت۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ (50/43)

”ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔“

تو اس آیت میں عربی اسلوب استعمال ہوا ہے۔ وہ اسلوب یا قاعدہ اردو میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے اردو زبان کا جو اسلوب ہے وہی استعمال کیا جائے گا لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ از روئے قوانین زبان غلط ہے۔ یہاں تک کہ پرویز

صاحب نے بھی آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جس کی رو سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ عربی کے فلاں قاعدے کی رو سے درست نہیں ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے اپنے اس تصور کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے کی خوب تشہیر کی ہے اور ترجمے کی جگہ مفہوم کیسا ہے؟ اس کی ایک مثال حاضر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

اوپر قرآن کریم کی ایک آیت دی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ۔ اردو زبان بولنے والے کسی بھی شخص کو اس ترجمہ پر اعتراض نہیں ہے لیکن چونکہ پرویز صاحب نے بذات خود ایک اصول متعین کر لیا کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے وہ اس آیت کا مفہوم اس انداز میں کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

خدائے رحمن و رحیم نے اس کتاب عظیم کو اس لئے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیائے کائنات اور نوع انسان کی نشوونما کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ پوری ہو جائے (6/54:6/12) یہ نشوونما وحی کی راہ نمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ (17/82,10/57-58)

چونکہ انسانی دنیا میں خدا کی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اس لئے خدا کے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو۔ (6/16) “ (مفہوم القرآن۔ صفحہ 1)

پرویز صاحب نے اس بات کی بالکل وضاحت نہیں کی کہ زبان دانی کے وہ کونسے قواعد وضوابط ہیں جن کی بنا پر عربی الفاظ کا یہ مفہوم نکلتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کوئی کام اصول و ضوابط کی بنا پر ہو تو ایک ہزار آدمی بھی کرے تو ایک جیسا کرے گا۔ مگر پرویز صاحب نے جو مفہوم متعین کیا ہے چودہ سو سال میں اس کی کوئی ایک بھی مثال پیش نہیں کی کہ ان کا مفہوم کسی ایک سے بھی ملتا جلتا ہے۔ آخر ایسے کونسے قواعد ہیں جن سے ہمارے آباؤ اجداد محروم رہے۔

اب ایک طرف تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر مقام حیرت ہے کہ اپنے لٹریچر میں جہاں بھی حوالہ کی آیات آتی ہیں وہاں ان کا ترجمہ ہی دیا گیا

ہے۔ مثلاً

قَالَ يَبْنَومٌ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝ (20/94)

”ہارون بولا! اے میرے عزیز بھائی میری داڑھی اور سر کے بال نہ نوچ (میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال سے کہ) میں ڈرا، کہیں تم یہ نہ کہو، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی۔“

قَالَ فَمَا عَطْبُكَ يَسَامِرِي ۝ (20/95)

”تب موسیٰ نے (سامری سے) کہا، سامری! یہ تیرا کیا حال ہوا۔“

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ
لِي نَفْسِي ۝ (20/96)

”کہا کہ میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ اس لیے (اللہ کے) رسول کی پیروی میں، میں نے بھی کچھ حصہ لیا تھا۔ پھر اسے چھوڑ دیا، کیا کہوں میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے سمجھائی۔“

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۚ
وَأَنْظِرْ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي تَأْتِيهِ عَاقِبَةُ أَلْمَمَاتٍ لَنْ نَسْفَحَهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَاحًا ۝ (20/97)

موسیٰ نے کہا اگر ایسا ہے تو جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہونا ہے کہ کہے میں اچھوت ہوں، اور (آخرت میں عذاب کا) ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور دیکھ تیرے (گھڑے ہوئے) معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا پر جما بیٹھا تھا۔ ہم اسے جلا کر رکھ کر دیں گے۔ اور راکھ میں اڑا کر بہا دیں گے۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (20/98)

”معبود تمہارا بس اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔“ (برق طور صفحہ۔ 117-118)

اس کے علاوہ دیکھئے۔

”صَدَقَ“ کے معنی ہیں اس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے اسے سچ کر دکھایا۔ سورہ احزاب میں ہے مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (33/23) مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ (3/152) یقیناً اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ سورہ زمر میں ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ (39/74) حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اس وعدہ کو جو اس نے ہم سے کیا تھا سچ کر دکھایا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ نیکی اور کشادگی راہ یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ کشادگی راہ یہ ہے کہ تم صحیح تصورات حیات کے بعد، اپنے اعمال و کردار سے انہیں سچ کر کے دکھا دو۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ط (2/177) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ عمل سے سچ کر دکھانے کے علاوہ، اعتقادات و تصورات حیات کے معاملہ میں صادق وہ ہے جو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کر سکے (2/11) اسی میں اس دعویٰ کی تقویت کا راز ہے۔ (لغات القرآن صفحہ 1014 ص دق)

علامہ پرویز صاحب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھئے وہاں قرآنی آیات کا ترجمہ ہی دیا گیا ہے مگر یہ عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ کہ ترجمہ ہونا ناممکن ہے مگر دوسری طرف اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اس لئے ترجمہ کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہر حال ترجمہ عربی زبان کے موجود قواعد کے مطابق ہی ہوتا ہے

مادہ (Root)

عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں ہر لفظ کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے۔ جس میں اس لفظ کے بنیادی معانی موجود ہوتے ہیں۔ الفاظ اپنی اشکال بدلتے رہتے ہیں مگر مادہ کا بنیادی مفہوم تمام الفاظ میں موجود رہتا ہے۔

یہ بات دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے کہ ایک ایک لفظ کے بہت سے معانی ہوتے ہیں۔ لیکن کسی مقام پر کوئی لفظ کیا معانی دیتا ہے اس کا تعین سیاق و سباق کرتا ہے مثلاً عربی کا ایک

لفظ ہے ضَرْبٌ، اس کا معنی ہے مارنا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں مارنا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، لیکن ایک اور آیت ہے ضَرْبَ اللَّيْلِ مَثَلًا، یعنی اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب مثال مارنا نہیں کہنے جاسکتے۔ کیونکہ سیاق و سباق اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ اب علامہ پرویز صاحب الفاظ کے مادہ کو بنیاد بنا کر کس طرح مفہوم اخذ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔

” مادہ کے بنیادی مفہوم اور ان صحرائیوں کے ہاں ان الفاظ کے عملی استعمال سے الفاظ کا صحیح مفہوم کس طرح سامنے آجاتا ہے۔ اسکا اندازہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآن کریم میں ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (2/153) یہ حقیقت ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لفظ صبر کے جو معنی ہمارے ہاں مروج ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی پر ایسی مصیبت آپڑے جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جہاں انسان یکسر بے چارہ اور بے کس و بے بس ہو کر رہ جائے۔ جہاں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ میاں صبر کرو۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب کوئی کمزور و ناتواں مظلوم کسی کے ظلم و زیادتی کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیتا ہے کہ ”اچھا! میرا صبر“۔ لیکن عربی میں اس مادہ (ص۔ب۔ر) کے بنیادی معنی ہیں، کسی شخص کا مطلوبہ شے کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا، جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رہنا۔ اب دیکھئے کہ صحرائیوں نے عرب اس مادہ کو کن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ بادل کا وہ ٹکڑا جو چوہیں گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور ادھر ادھر نہ ہو، الصبیر کہلاتا تھا۔ الاصبیرہ ان اونٹوں یا بکریوں کو کہتے تھے جو صبح جنگل میں چرنے کے لیے چلے جائیں اور شام کو ٹھیک انہی قدموں پر واپس آجائیں۔ نہ کوئی ادھر ادھر ہو، نہ پیچھے رہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان (عربوں) کے ہاں صبر کے معنی تھے استقامت، استقلال، استواری، ثابت قدمی، ایک اصول اور روش پر جم کر کھڑے رہنا، عمل میں دوام و استمرار۔ یہ ہے صبر کی وہ کیفیت جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھئے۔ اگر کبھی بوجھ یا سوار یوں کی کمی بیشی سے کشتی کا توازن بگڑ جائے اور وہ ڈگمگانے لگے تو ملاح ایک بڑا سا پتھر کشتی میں رکھ دیتے تھے جس سے اسکا وزن ہموار ہو جاتا

تھا۔ (ہمارے ہاں تانگے والے اکثر ایسا کرتے ہیں)۔ اس پتھر کو الصابورہ کہتے ہیں۔ لہذا صبر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کے پاؤں ڈگمگانے لگیں تو ”صبر“ سے اس کا توازن برقرار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ چونکہ اس قسم کے عمل پیہم اور ثبات و قرار کا نتیجہ کامرانیاں اور کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لئے الصبيرة غلے کے اس ڈھیر کو کہتے ہیں جس کی ناپ اور تول نہ کی گئی ہو۔

اس لفظ (صبر) کے طریق استعمال کی ان محسوس مثالوں سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس مفہوم کی رو سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (لغات القرآن صفحہ 14-15)

مزید لکھتے ہیں

”سورۃ بقرہ میں ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (2/175) اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ان میں آگ کے مقابلہ کی تاب کس قدر ہے اور یہ بھی کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو جم کر برداشت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان معانی میں جرأت کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا لَسْنَا نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ (2/61) ہم ایک ہی کھانے پر ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتے۔ اسی سورۃ (بقرہ) میں ہے۔ رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَبِّتْ أقدامَنَا (2/250) یہاں ”تَبِّتْ أقدامَنَا“ کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَغَانُوا ط (3/146) انہیں خدا کی راہ میں جس قدر بھی مشکلات کا سامنا ہوا ان سے وہ نہ تو سست گام ہوئے، نہ ان میں کمزوری آئی اور نہ ہی وہ مغلوب ہوئے۔ اگلی آیت میں اسی کو پھر ”تَبِّتْ أقدامَنَا“ سے تعبیر کیا گیا ہے (3/147)۔ سورۃ الفرقان میں ہے کہ کفار کہتے تھے کہ یہ (رسول) ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط (25/42) اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم مستقل مزاجی سے ان کی پرستش پر قائم رہتے۔ یہی معنی سورۃ ص میں وَاصْبِرُوا عَلَىٰ الْهَيْبَتِكُمْ

(38/6) کے ہیں۔ (14/21) میں صَبَرْنَا بِمَقَابِلِهِ جَزَعْنَا آیا ہے۔ جَزَعُ کے معنی ہیں رسی کو درمیان سے کاٹ دینا۔ لہذا صبر کے معنی کسی کام کو مسلسل کئے جانا ہونگے۔ سورۃ کہف و حجرات میں صبر کا لفظ ان معنوں میں بھی آیا ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ بے صبرے کیوں ہوتے ہو؟ (Don't be impatient)، ذرا ٹھہرو۔ یونہی بے چین مت ہو۔ (سورۃ انفال میں 49/5: 18/68) سورۃ انفال میں ہے کہ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا اِمَّا تَتَيْنِ ج (8/65) اگر تم میں سے بیس مجاہد بھی ایسے ہوں جو جم کر مقابلہ کریں تو فریق مخالف کے دو سو پر غالب آجائیں گے۔ انہی کو الصابرين فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ (2/177) کہا گیا ہے سورہ مریم میں ہے وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط (19/65) خدا کی عبادت نہایت استقامت اور ثابت قدمی سے اختیار کرو۔

یہ ہے وہ صبر جسکے متعلق کہا گیا ہے کہ اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط (2/153) اپنی قوتوں کی پوری نشوونما اور اعتدال و تناسب کے لئے صبر اور صلوة کی راہ اختیار کرو۔ اور اس کے بعد ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ه اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے نصب العین کے حصول کے لئے استقامت اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اور ہر مشکل کا مقابلہ جم کر کرتے ہیں۔ اور مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ صابر جن کے متعلق کہا کہ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (2/157)

یہ ہے صَبْرٌ کا قرآنی مفہوم۔ اس کے برعکس صبر کے جو معنے ہمارے ہاں مروج ہیں وہ بالکل اس کی ضد ہیں۔ ہمارے ہاں صبر کے معنے یہ ہیں کہ انسان بے کس اور بے بس، مجبور بن کر بیٹھا رہے اور زبردست اور ظالم کے ظلم و زیادتی کو آنسو بہا کر خاموشی سے جھیلتا چلا جائے۔ چنانچہ ہم اپنی انتہائی بے چارگی میں کہتے ہیں کہ ”اچھا جو تمہارے جی میں آئے کر لو۔ میں صبر کے سوا کیا کر سکتا ہوں۔“ اور اسی صبر کی تلقین یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ ”میاں! صبر کرو، صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔“ یعنی صبر انتہائی بے چارگی کا نام ہے۔ غور کیجئے کہ نگاہوں کا زاویہ بدل جانے سے الفاظ کا مفہوم کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآنی صبر کا مفہوم تھا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اور ہمارے صبر کا مفہوم ہے انتہائی بے چارگی میں سپر ڈال دینا۔

مختصر یہ کہ صَبْرٌ کے معنی ہیں اپنے پروگرام پر استقامت اور استقلال سے کار بند رہنا

اور اس کے راستہ میں جو مشکلات آئیں ان کا ہمت اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ پاؤں میں ذرا الغزش نہ آنے پائے۔ قرآن کریم میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ **إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا** (3/199) **إِصْبِرُوا** کے معنی ہیں ہمت اور استقلال سے اپنے موقف پر قائم رہنا۔ اور **صَابِرُوا** کے معنی ہیں اس استقلال اور استقامت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ یا دوسروں کے مقابلہ میں استقامت دکھانا یا ایک دوسرے کی استقامت کا موجب بننا۔

دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، جب تک وہ (قرآنی مفہوم) میں الصابر نہ ہو۔ اور جو قوم ہمارے مفہوم میں ”صابر و شاکر“ ہو۔ اسے کبھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ (لغات القرآن - 1003-1005)

ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عربی کے ایک لفظ کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ اور سیاق و سباق ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جو کسی خاص مقام پر اس لفظ کا معانی متعین کر سکتا ہے۔ پرویز صاحب نے صبر کے معانی استقامت، ثابت قدمی، استقلال اور بلند ہمتی کئے ہیں جس کے لیے انہوں نے قرآنی مثالیں بھی دی ہیں۔ ہمیں ان معانی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر اعتراض کی بات یہ ہے کہ پرویز صاحب نے صرف یہی معانی اور ان سے متعلقہ قرآنی مثالیں اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے لی ہیں۔ اور صبر کا جو مفہوم ہمارے ہاں رائج ہے اس کی نہ صرف انہوں نے نئی کی ہے بلکہ اس سے متعلقہ قرآنی آیات بھی لغت کے اس حصے میں شامل نہیں کیں۔ علاوہ ازیں رائج مفہوم کے مطابق ”صابر و شاکر“ قوم کو زندگی نہ نصیب ہونے کی سند عطا کی ہے۔

اب ہم چند قرآنی آیات پیش کریں گے جن سے یہ واضح ہوگا کہ صبر کا وہ مفہوم بھی قرآن کریم کے عین مطابق ہے جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے یعنی انسان کی ایسی کیفیت جس میں وہ بالکل بے کس اور بے بس ہو جائے اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دے۔ اس سے پہلے ہم صبر کے وہ معانی بیان کر رہے ہیں جو ”فیروز اللغات“ (اردو لغت) میں درج ہیں۔

۱۔ شکیبائی، خاموشی ۲۔ برداشت، بردباری، تحمل ۳۔ توقف، تاہل

۴۔ خدا کی مار، کسی کا دل دکھانے کی آفت ۵۔ توکل، قناعت

۱۔ **قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُؤَسِّفُ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَا أَنْتَ**

بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝ وَجَآءُ وُ عَلٰى قَمِيصِهٖ بَدْمٌ كَذِبٌ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبِرْ حَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝ (12/17-18)

” کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا
 پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات ماننے کے نہیں گوہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف
 کے گرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں! بلکہ تم
 نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بہتر ہے۔ اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ
 ہی سے مدد طلب کی ہے۔“

اب یہاں کیا کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضرت یعقوبؑ بالکل بے بس ہیں۔ جان
 سے پیارے بیٹے کے بارے میں آکر کہا جا رہا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے اور اس کی خون آلود
 قمیض بھی پیش کی جا رہی ہے۔ مگر ایسی حالت میں آپؑ یہی جواب دیتے ہیں کہ فَصَبِرْ حَمِيْلٌ۔
 صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک پیغمبر کی کیفیت ہے ہمارے ہاں
 کسی شخص کا کوئی عزیز وفات پا جائے یا کوئی اور متاع چھین جائے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کا
 یہی فیصلہ ہے اس لیے صبر کرو۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان پر کوئی ایسی آفت آپڑے
 جس کا مداوا نہ کیا جاسکے تو سب سے بہتر راہ برداشت اور صبر ہی کی ہے۔

۲- اِرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيكُمْ فَقُوْلُوْا يَا اٰنَا اِنَّ اٰبَنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا
 لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝
 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبِرْ حَمِيْلٌ ط عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ
 هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفٰى عَلٰى يُوْسُفُ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنَ الْحُزْنِ
 فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝
 قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (12/81-86)

”تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم
 نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے آپ اس شہر
 کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم

آئے ہیں اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ (یعقوب نے) کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی۔ پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا ہی دے۔ وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا آہ یوسف! ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں۔ یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خبر ہو۔“

اب یہ دوسرا غم تھا پہلے ایک بیٹا جدا ہو گیا اب بڑھاپے میں دوسرا بھی چوری کے الزام میں جدا ہو گیا۔ پہلے بیٹے کے غم میں کئی برس بیت گئے حضرت یعقوب کی آنکھیں مارے غم کے سفید ہو گئیں لیکن ان کا جواب اب بھی وہی تھا یعنی صبر ہی بہتر ہے۔ اور حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیا یہ بے کسی اور بے چارگی نہیں ہے کہ اس قدر رنج و غم کے باوجود بھی آپ نے فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹوں کو دوبارہ روانہ کرتے ہیں تو ان کی ملاقات یوسف سے ہوتی ہے اب یہاں بھی یوسف کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ط قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي وَ هَذَا أَخِي نَقَدَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا ط إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (12/90)

”انہوں نے کہا شاید تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

اس سے واضح ہے کہ زندگی میں مصائب، تکالیف اور دکھوں کو برداشت کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا ہی صبر ہے۔

۳- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَ لَآ جَزَاؤَ الْأَجْرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (16/41-42)

”جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم ضرور انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔“

یہاں صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی۔ اور اپنا فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑا۔

۴۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۚ ص ۛ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ وَلَا أَمْرٌ لَّيَّسِيٍّ وَلَا لَلَّيِّنِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ۗ وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهٖ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۗ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنبَغِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۗ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۗ (10/104-109)

”آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جائے اور کبھی مشرک مت بننا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فرمادے اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے۔ اس لیے جو شخص راہ

راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔“

ان آیات میں حضورؐ مشرکوں سے مخاطب ہیں کہ جن چیزوں کی پرستش وہ کرتے ہیں آپ ان سے بے زار ہیں اور صرف خدائے واحد کی پرستش کے داعی ہیں اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حق کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے اور اگر کوئی بے راہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ اور آخری آیت میں حضورؐ سے واضح انداز میں کہا گیا کہ آپ وحی کا اتباع کریں اور صبر کریں۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ یعنی اپنے آپ کو روک رکھیں۔ برداشت سے کام لیں۔ اور خدا کے فیصلے تک صبر کریں۔

۵۔ وَاللّٰی مَدِیْنَۢنَ اٰخَاهُمْ شُعَیْبًا ط قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ط قَدْ جَآءَ تَکْوِیْنٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا ط ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُوْنَ وَ تَصَلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِہٖ وَ تَبِعُوْا نَهَاۃَ عِوَجًا ۝ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ کُنْتُمْ قَلِیْلًا فَکَفَرْتُمْ مِّنْ وَّ اَنْظُرُوْۤا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝ وَاِنْ کَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْکُمْ اٰمَنُوْۤا بِالَّذِیْ اَرْسَلْتُ بِہٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْۤا فَصَبِرُوْۤا حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا ۝ وَهُوَ خَیْرٌ اَلْحٰکِمِیْنَ ۝ (7/85-87)

”اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیبؑ کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے نافع ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ اور تم راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم

تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

اس آیت میں بھی صاف ظاہر ہے کہ صبر کا حکم اس وقت دیا جا رہا ہے جب فیصلہ کن قوت اللہ کی رہ جاتی ہے اور پھر کسی شخص نے کچھ نہیں کرنا۔ فقط اللہ کے حکم کا انتظار۔

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَتَبْلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعَمَلِ ۖ وَالَّذِينَ الصَّابِرِينَ ۝ لَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ (2/153-157)

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، انہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

اب بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے انسان کی مختلف حالتوں میں آزمائش ہے اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام مصیبتوں میں اللہ ہی کی ذات ہے جو فیصلہ کن ہے اور ہم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ان حالتوں میں انسان بالکل بے بس ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ وہاں یہی کیا جاسکتا ہے کہ ”اب تو میرا صبر ہے اور اللہ ہی میری مدد کرے۔“ اب تو آنے والی مصیبت کو برداشت کرنا ہی ہے۔ اس کے سوا چارہ نہیں۔ لیکن اس کے اجر میں رب کی رحمتیں اور سرفرازیں ہیں۔

۷۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (22/35)

وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں اور جو برائی انہیں پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت و اقامت کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ صبر کا جو مفہوم اس وقت معاشرے میں رائج ہے وہ نصوص قرآنی کے عین مطابق ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کہ جو قوم ہمارے مفہوم کے مطابق ”صابر و شاکر“ ہو، اسے زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو اس مفہوم کا اثبات کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ طریقہ دیکھ لیا جس کے مطابق ”مادہ“ کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب الفاظ کا مفہوم بناتے ہیں۔ حالانکہ مفہوم وہی لیا جاسکتا ہے جو سیاق و سباق میں موجود ہو اور یہ بات غیر حقیقی ہے کہ ہم چند آیات پیش کر کے الفاظ کا مفہوم پہلے متعین کریں اور پھر بعد میں دوسری آیات پر اسی مفہوم کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی مزید وضاحت آئندہ عنوانات میں آجائے گی۔ مادہ کے لحاظ سے ہم نے صرف ایک ہی موضوع پر بات کی ہے۔ حالانکہ پرویز صاحب نے اپنی پوری لغت اسی انداز میں مرتب کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا جائزہ بھی قرآنی آیات اور سیاق و سباق کے پس منظر میں لیں۔

تصریف آیات

پرویز صاحب نے قرآن فہمی کے جو اصول خود متعین کئے ہیں ان میں ایک ”تصریف آیات“ بھی ہے۔ جس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلقہ قرآن کریم کی تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو پھر وہ موضوع سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں

”مذکورہ بالا ہر سہ عناصر عربی زبان کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسکے الفاظ کا صحیح

مفہوم متعین کرنے میں زیادہ دشواری نہیں رہتی۔ لیکن ”بایں ہمہ“ صرف اتنی خصوصیات سے قرآن کریم جیسی کتاب کے الفاظ کے صحیح معانی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ اس لیے کہ یہ کتاب زندگی کے ان اصولوں کا ضابطہ ہے جن میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور جن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یقینی طور پر ہمارے سامنے آجائے۔ تنہا لغت سے یہ نہیں ہو سکتا۔ لغت انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے جس سے سہو و خطا اور خارجی اثرات کا امکان بہر حال باقی رہتا ہے۔ علاوہ بریں، قرآن کریم نے بعض الفاظ کو اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاحات اس قدر جامع ہیں کہ تنہا لغت سے وہ عظیم تصورات سامنے نہیں آسکتے جنہیں قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً صلوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ تقویٰ۔ ایمان۔ اسلام۔ کفر۔ فسق۔ فجور۔ دنیا۔ آخرت وغیرہ۔ ان اصطلاحات میں قرآنی تعلیم کے بنیادی تصورات بڑی جامعیت سے سمودئے گئے ہیں۔ ان کی اس جامعیت کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جوں جوں انسانی علم کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان اصطلاحات کا مفہوم خود قرآن کریم ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

قرآن کا انداز یہ ہے کہ اس میں اگر ایک مقام پر ایک بات کہی گئی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی وضاحت اس انداز سے کردی گئی ہے کہ اس سے مقام اوّل کی بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس انداز کو قرآن نے ”تصریف آیات“ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی آیات کو مختلف مقامات پر لوٹا کر لانا اور اس طرح مطالب کی وضاحت کر دینا۔ سورۃ انعام میں ہے

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (6/105)

”اور اس طرح ہم آیات کو لوٹا کر لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ تو نے بات ذہن نشین کرادی ہے اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم و بصیرت سے کام لیں۔“ قرآن کریم کا یہ وہ خصوصی انداز ہے جس سے اس کے مطالب واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں اور اس کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ مثلاً لفظ (صبر) کے جو لغوی معنی اوپر دئے گئے ہیں انہیں پیش نظر رکھئے اور پھر قرآن کریم کی طرف آئیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ (2/153) ”یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔“ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ الصابرین

کن لوگوں کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَكَأَيُّنَ مِّنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِثْيُونًا كَثِيرًا ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ (3/146)

”کتنے ہی انبیاء (ایسے گزرے) ہیں جن کی معیت میں بہت سے ربانی لوگوں نے (مخالفین کے مقابلے میں) جنگ کی۔ پھر ان تکالیف کی وجہ سے جو انہیں اس طرح اللہ کی راہ میں پیش آئیں نہ وہ سست گام ہوئے۔ نہ ان میں کمزوری آئی۔ اور نہ ہی وہ مخالفین سے مغلوب ہوئے۔ (یہی وہ) الصابریں ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔“ اگلی آیت میں ان کی اس کیفیت کو قِيسَتٌ اَقْدَامَنَا (3/146) دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دعا کہ ”ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ“۔ عین میدان جنگ کی حالت میں کہا ہے فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۖ (8/66) اگر تم میں ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آجائیں گے۔“ ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح اور متعین طور پر سامنے آجاتی ہے کہ قرآن کریم میں صبر سے مفہوم کیا ہے اور صابر کسے کہتے ہیں۔

یہی کیفیت قرآنی اصطلاحات کی بھی ہے۔ قرآن کریم ان کے مفہوم کی وضاحت بھی تصریف آیات کی رو سے کر دیتا ہے۔ لہذا کوئی عام لفظ ہو یا قرآنی اصطلاح، اگر وہ تمام آیات بیک وقت سامنے رکھ لی جائیں جن میں قرآن کریم نے انہیں استعمال کیا ہے یا ان کے مفہوم کو بیان کیا ہے، تو ان الفاظ و اصطلاحات کے معانی متعین کرنے میں دشواری نہیں رہتی۔ ان مقامات پر غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ”قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔“ (لغات القرآن - 15-17)

یہ ہے وہ طریقہ جسے پرویز صاحب نے ”تصریف آیات“ سے تعبیر کیا ہے، یہاں ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ اصطلاح پرویز صاحب نے خود متعارف کروائی ہے، قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ اور نہ ہی (صرف) کے مادہ سے جتنے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کا یہ مطلب نکلتا ہے جو پرویز صاحب لیتے ہیں (یعنی آیات کو مختلف مقامات پر لوٹا کر لانا اور اس طرح مطالب کی وضاحت کر دینا)۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات پیش کرتے ہیں جن سے ”تصریف آیات“ کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ لفظ ”تصریف“ قرآن کریم میں دو مقامات پر بیان ہوا ہے جہاں اس کے معانی ”ہواؤں کے رخ بدلنے“ کے ہیں تَصْرِيفِ السَّرِيحِ (45/5:2/164)

اَوْ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُون ۚ فَلَوْلَا اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰى اِذَا
فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا آخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ۚ فَطَّعَنَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ قُلْ اَرَاۤءَ يُتَمَّ اِنْ آخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى
قُلُوْبِكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ ط اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُوْنَ ۚ (6/42-46)

”اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے۔ سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی تھیں وہ خوب اتر گئے ہم نے ان کو دفعہ پکڑ لیا۔ پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح نشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔“

پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اور دلائل دیئے ہیں پھر یہ کہا ہے کہ ان کو اللہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ یہی انداز قرآن کریم کا دیگر مقامات پر بھی ہے۔

۲- قُلْ مَنْ يُنحِيْكُمْ مِّنْ ظُلْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لٰكِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهِ
لَنْكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُنحِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۚ قُلْ
هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلٰيْكُمْ عٰدًاۢ اَبًاۢ مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ
شِيْعًا وَّ يُذَيِّقْ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ

”آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے۔ کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور حق شناسی کرنیوالوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح نشانیاں مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔

۳۔ بَدِيعُ السَّنُوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ فَذَجَاءَ كُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۚ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ ۚ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (6/101-105)

”وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالاں کہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق نبی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر نشانوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے خوب بیان کر دیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشمندیوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔“

یہاں بیان کردہ آخری آیت کو پرویز صاحب اپنے ”تصریف آیات“ کے تصور کی دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن یہاں یہ واضح ہے کہ پیچھے جو دلائل اور نشانیاں چلی آرہی ہیں ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ مطلب کہیں سے نہیں نکلتا کہ کسی موضوع سے متعلقہ تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر لو تو مفہوم سمجھ میں آجائے گا۔

۴۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ طَحْتَى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا تَقَالًا سُقْنَهُ لِيَلْدِ مِيَّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ه وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ ه وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ط كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ه (7/57-58)

اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم نشانیوں کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔“

پرویز صاحب اس بارے میں مزید لکھتے ہیں

”سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ (18/54:17/89:17/41) ہم نے اس قرآن کریم میں حقائق و قوانین کے مختلف پہلوؤں کو لوٹا لوٹا کر بیان کیا ہے لِيَسْذَكَّرُوا (17/41) تاکہ لوگ انھیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تاکہ ان کے تمام پہلو لوگوں کی نگاہ کے سامنے آجائیں۔ قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی ایک چیز کو بار بار پھر کر لانا تاکہ اس کے متعدد گوشے سامنے آجائیں۔ یہ چیز ہے جسے سطح بین نگاہیں ”تکرار“ ٹھہراتی ہیں۔“ (لغات القرآن 1021-1022)

گزشتہ آیات کو سامنے لانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب نشانیاں اور دلائل اس لئے بتلا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر سیدھے راستے پر آجائیں اور اسی کا خوف

کھائیں۔ مگر پرویز صاحب نے اس کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ آیات کو بار بار سامنے اس لئے لایا جا رہا ہے کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ حالانکہ نشانیاں ہر جگہ مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اب اوپر والے پیرا میں پرویز صاحب نے جن آیات کے حوالہ جات دیئے ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے (17/41) کے ساتھ نشانیوں کی تفصیل ذرا لمبی ہے اس لیے یہاں صرف ترجمہ دیا جا رہا ہے۔

۵۔ ”اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو یہی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہو اور پچھتا تا ہوا بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو! ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے۔ اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو

کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے اور جب ناپے لگو تو بھر پور پیمانے سے ناپو۔ اور سیدھی ترازو سے تولو کرو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکثر کڑنہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی مجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائدہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیں؟ بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔“

(17/23-40)

یہ سب احکامات دینے کے بعد اللہ نے فرمایا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (17/41)

ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس پر بھی ان کی تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔

۶- قُلْ لِّعِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (17/88-89) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لِّفَاتِي أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (17/88-89)

”اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح پھیر پھیر کر تمام مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔“

۶- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبٰلٰٓسَ ط كَانَ مِنَ الْجٰنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ ط اَتَتْحٰجِدُوْنَہٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَآءٍ مِنْ دُوْنِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِعَسَ لِلظٰلِمِيْنَ بَدَآءُ مَا اَشْهَدْتُمْهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلَقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِي الْمُضِلِّيْنَ

عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
مَصْرَفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ
جَدَلًا ۝ (18/50-54)

”اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر
لیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد
کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالاں کہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بہت برا
بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان وزمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی
پیدائش میں۔ اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے
گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو! یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی
جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ
وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں۔ لیکن ان سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن
میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں۔ لیکن انسان تمام چیزوں
سے زیادہ جھگڑالو ہے۔“

ہم نے قرآن کریم کی چند آیات کا جائزہ لیا ہے۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ
(ص۔ ر۔ ف) کے مادہ سے جتنے بھی الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کا قطعاً یہ مفہوم
نہیں بنتا جو پرویز صاحب نے لیا ہے۔ اور جن آیات کو انہوں نے بطور حوالہ پیش کیا ہے وہاں بھی
بات خدا کی ان نشانیوں کی ہو رہی ہے جو مجولہ بالا آیت کے کچھلی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اور
18/54، 17/89 میں تو ”مِنْ كُلِّ مَثَلٍ“ کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا کہ ”صَرَّفْنَا“ کا تعلق ”مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ“ سے ہے یعنی ہر طرح کی مثال بیان کی۔ اور یہ نشانیاں اور دلائل بیان کئے گئے تاکہ
لوگ اللہ کا خوف کھائیں۔ اس بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
ذِكْرًا ۝ (20/113)

”اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔“

پرویز صاحب نے اس تصور کی وضاحت میں ”صبر“ کی مثال دی ہے۔ پچھلے عنوان میں ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ صبر کے موضوع پر پرویز صاحب نے صرف وہی آیات بیان کی ہیں جو ان کے مفہوم کے مطابق ہیں۔ جن آیتوں سے صبر کا مروجہ مفہوم ہو سکتا ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور لفظ اپنی جگہ اٹل ہے اور اس کا اپنے مقام پر ایک متعین مفہوم موجود ہے۔ قرآن نے بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اس لیے جب ”تصریف آیات“ کا تصور عربی زبان میں موجود نہیں ہے تو پھر قرآن کو اس کا کیونکر پابند بنایا جاسکتا ہے۔

اب مادہ اور تصریف آیات کے تصور سے کس قسم کا مفہوم نکلتا ہے۔ اس کی رو سے پرویز صاحب نے تقویٰ کا جو مفہوم بیان کیا ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں۔

تقویٰ (وق۔ی): یہ لفظ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آیا ہے اور مختلف المعانی ہے اس کے معنوں میں بچنا، ڈرنا، خوف کھانا، پرہیزگاری، اہو و لعب سے دور رہنا، نیکی کی زندگی گزارنا وغیرہ آتا ہے۔ اور ان معانی کا تعین متعلقہ مقامات کے سیاق و سباق سے کیا جاسکتا ہے اب پرویز صاحب تصریف آیات کی رو سے اس کا جو مفہوم لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔

”قرآن کریم میں **وَاقٍ** بمعنی محفوظ رکھنے والا، بچانے والا آیا ہے۔ **مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا وَاقٍ** (13/37) ”تیرے لیے اللہ کے مقابلہ پر نہ کوئی سرپرست ہوگا، نہ بچانے والا۔“ دوسرے مقام پر یہ مادہ محتاط رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے **فَاتَّقُوا النَّارَ** (2/24) اپنے آپ کو عذاب آتش سے محفوظ رکھو۔ یا اس سے محتاط رہو۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ** (جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے) کے معنی ہیں تو انین خداوندی کی نگہداشت کرنا۔ احکام خداوندی کا اتباع کرنا۔ ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ان سے ہم آہنگ رہنا۔ چنانچہ قرآن کریم

نے یہ مفہوم دیگر مقامات میں واضح کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں تَقْوَى کے مقابلہ میں عُدْوَان کا لفظ آیا ہے۔ (5/2) اور عُدْوَان کے معنی سرکشی کے ہیں۔ لہذا تقویٰ کے معنی تو انین خداوندی کی اطاعت ہوا۔ سورہ آل عمران میں اسکی مزید تشریح کر دی گئی ہے۔ جہاں فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقْوٰتِهٖ (3/101) اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ه (3/101) یعنی تمام عمر تو انین خداوندی کے سامنے جھکے رہو۔ بالفاظ دیگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا (3/103) سب کے سب مل کر اللہ کے ضابطہ ہدایت کے ساتھ متمسک رہو۔ ان مقامات سے واضح ہے کہ وَاتَّقُوا اللّٰهَ کے معنی ہیں تو انین خداوندی (قرآن کریم) سے ہم آہنگ رہنا۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کی پوری پوری نگہداشت کرنا۔“ (لغات القرآن 1732)

ذرا آگے جا کر لکھتے ہیں

”لہذا اُمَّتِيْنَ وہ ہیں جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں اور تو انین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کر کے اپنی ذات کی نشوونما کریں۔ تخریبی قوتوں کے تباہ کن اثرات سے حفاظت (تَقَاة) کی ایک ہی شکل ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان تو انین خداوندی کی پوری پوری نگہداشت کرے (تَقْوَى)۔ ان کا ہر وقت خیال رکھے۔ (تَقْوَى الْقُلُوْب) اور اپنا ہر قدم ان کے مطابق اٹھائے۔ اسی کا نام ان سے متمسک یا ہم آہنگ رہنا ہے۔ ایسا متمسک جیسے زین گھوڑے کی پیٹھ پر فٹ آجاتی ہے اور اسے زخمی نہیں ہونے دیتی۔

قرآن کریم نے اپنے متعلق شروع ہی میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (2/2) ہے۔ یعنی صحیح راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ لیکن صرف ان کی جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں اور خاردار وادیوں سے محفوظ رہ کر چلنا چاہیں۔ جو شخص تباہ ہونا چاہے اسے صحیح اور غلط راستے کے امتیاز سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ خودکشی کرنے والے سے یہ کہنا کہ سنگھیا مہلک ہوتا ہے اس سے بچنا، بے سود ہوتا ہے۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ه (2/6) ”ان کے لیے برابر ہے چاہے تو انہیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ وہ صحیح بات کو مانیں گے ہی نہیں۔“ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں دیکھنا چاہئے کہ کہاں اس کے معنی تو انین

خداوندی کی نگہداشت کرنا ہیں اور کہاں تباہیوں اور ہلاکتوں سے بچنا۔ مثلاً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ۔۔
 قُوا أَنْفُسَكُمْ (66/6) مَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ (59/9) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اور مَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ
 (40/9) میں معنی بچانے کے ہیں لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ (59/18) کے معنی یہ نہیں کہ اللہ سے بچو۔ اس
 کے معنی ہیں قوانین خداوندی کو توڑنے یا ان سے سرکشی برتنے سے بچو۔ قوانین خداوندی کی
 نگہداشت کرو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔

اور جو اتَّقَى (سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والا) ہو وہ خدا
 کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم ہوتا ہے۔ (49/13)

حقیقت یہ ہے کہ تَقْوَى قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے اور اس لفظ کو اس نے
 اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ بجائے خویش گو یا ایک مادہ بن گیا ہے۔ جس سے قرآن کریم مختلف
 الفاظ لایا ہے۔ اس کے معنی ”پرہیزگاری“ نہیں۔ ”پرہیزگاری“ محض سلبی صفت (Negative
 Virtue) ہے۔ لیکن تقویٰ میں زندگی کی تباہیوں سے بچ کر چلنے کے ساتھ ساتھ قوانین خداوندی
 کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ہے۔ یعنی اس میں سلبی صفت کے ساتھ ایجابی پہلو (Positive
 Side) بھی ہے اور ایجابی پہلو غالب ہے۔“ (لغات القرآن 1733-1734)

یعنی پرویز صاحب کے مفہوم کے مطابق تقویٰ کے معنی ”قوانین خداوندی کی
 نگہداشت“ ہو سکتا ہے مگر معروف معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ آئیے
 اس کے بارے میں چند آیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔۔۔۔۔ (2/282)

”اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا
 کرو اور لکھنے والے کو چاہئے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہئے کہ لکھنے سے
 انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ حق ہو
 وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔“

۲- وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَحْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ (2/48)

اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔

۳- وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لَا لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ (2/203)

اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاجِدَ وَلَا آمِينَ ابْيُتِّتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (5/2)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی (جو کعبہ کو جارہے ہوں) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس اسکی رضا جوئی کی نیت سے جارہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔“

۵- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْحَوَارِجِ مَكِيلِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهِ صَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ه (5/4)

”آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ انکے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جسکی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔“

۶-وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الِّذِي وَاتَّقَكُم بِهٖ لَ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ذ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ۲ بِذَاتِ الصُّدُورِ ه (5/7)

”تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔“

۷-قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَآ تَفْضَحُونِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخَدِّنُونِ ه (15/68-69)

”(لوٹنے) ”کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔“

۸-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۲ بِمَا تَعْمَلُونَ ه (59/18)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔“

۹-وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه (29/16)

”اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔“

۱۰۔ اَلَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهَ بِهٖ عِبَادَهٗ ط

يُعَادِ فَاتَّقُونَ ه (39/16)

”انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سا بنان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرارہا ہے۔ اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔“

اَلْوَاذِكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ۚ اِذْ اَنْتَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ۗ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا ه (18-19/16)

”اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔“

درج بالا تمام آیات میں تقویٰ سے مراد ڈرنا اور بالخصوص اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اب ”تصریف آیات“ کی رو سے یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ اس کا معنی ”قوانین خداوندی کی نگہداشت“ کیسے ہو گیا۔ اگلے عنوان میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جائے گی کہ کیسے پرویز صاحب نے اسی انداز سے قرآن کریم کی بہت سی اصطلاحات کا مفہوم تبدیل کر دیا ہے۔ ذیل میں ہم چند اصطلاحات دے رہے ہیں جن کا مطلب پرویز صاحب نے ”قوانین خداوندی“ لیا ہے۔
۱۔ خشوع: ”یہ ہے خشوع سے مقصود۔ قلب سلیم سے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانا۔“ (لغات القرآن 544)

۲۔ خشية الله: ”یعنی قوانین خداوندی سے سرکشی کے نتائج و عواقب کا احساس۔“

(لغات القرآن 595)

۳۔ اذن الله: ”بہر کیف اذن اللہ کے معنی ہیں خدا کا قانون۔ خواہ وہ قانون کائنات ہو یا قانون ہدایت جو قرآن کے اندر ہے۔“ (لغات القرآن 219)

۴۔ امر: ”امر کا دوسرا حصہ جس سے مفہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کائنات کے رگ و پے میں

کار فرما ہے۔“ (لغات القرآن 258)

۵۔ دعا: ”دعا سے مفہوم ہے خدا کے قوانین کا اتباع کرنا۔ اور اس کی طرف سے جواب کے معنی ہیں ان قوانین کا نتیجہ خیز ہونا۔“ (لغات القرآن 456) نیز ”خدا کو پکارنے“ سے مراد اس کے احکام و قوانین کی حکومت اختیار کرنا ہے۔ (لغات القرآن 656)

۶۔ بقیۃ اللہ: ”اس دولت اور سامان کو کہا گیا ہے جو خدا کے قانون کی رو سے حاصل ہو۔“
(لغات القرآن 339)

۷۔ حب: ”لہذا اس آیت میں اللہ کی محبت کے معنی ہیں تو انین خداوندی کی اطاعت۔“
(لغات القرآن 465)

۸۔ عوف خداوندی: ”لہذا خوف خداوندی کے معنی یہ ہیں کہ اس احساس سے کہ تو انین خداوندی کو چھوڑ دینے میں میرا کس قدر نقصان ہوگا ان قوانین کا اتباع کرنا۔“
(لغات القرآن 624)

۹۔ ذکر: ”لہذا ذکر اللہ کے معنی تو انین خداوندی کا اتباع ہیں۔“ (لغات القرآن 700)

۱۰۔ رکوع: ”رکوع و سجود در حقیقت تو انین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔“
(لغات القرآن 778)

۱۱۔ مشیت: ”اس گوشے میں مشیت خداوندی کے معنی ہونگے خدا کے وہ قوانین جن کے مطابق یہ تمام سلسلہ کائنات چل رہا ہے۔“ (لغات القرآن 990)

۱۲۔ صلوٰۃ: ”اس سے بھی صلوٰۃ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں تو انین خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا نام صلوٰۃ ہے۔“ (لغات القرآن 1038)

۱۳۔ عبادت: ”قرآن کریم میں جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہونگے تو انین خداوندی کی برضا و رغبت اطاعت جس سے نہایت منفعت بخش نتائج مرتب ہونگے۔“
(لغات القرآن 1125)

۱۴۔ اعوذ: ”قل اعوذ برب الناس یعنی ہر وقت تو انین خداوندی اور نظام کے ساتھ چمٹے رہنا۔“
(لغات القرآن 1209)

۱۵۔ کلمہ: ”ان مقامات میں خدا کے کلمہ کے سیدھے سادھے معنی ”خدا کی بات“ ہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ خدا کی بات سے مراد خدا کا قانون ہے۔“ (لغات القرآن 1455)

۱۶۔ کتاب: ”قرآن کریم میں کتاب کا لفظ قانون خداوندی یا ضابطہ قوانین خداوندی کے لیے آیا ہے۔“ (لغات القرآن 1416)

۱۷۔ لقاء رب: ”قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لقاء رب سے مراد نظام کائنات میں خدا کے قانون ربوبیت کو بے نقاب دیکھنا ہے یا اس کے قانون مکافات کی رو سے اعمال کے نتائج کو اپنے سامنے دیکھنا۔“ (لغات القرآن 1500)

پرویز صاحب نے ان تمام الفاظ و اصطلاحات کی طرح تقویٰ سے مراد بھی ”قوانین خداوندی“ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تمام الفاظ مادہ، قواعد لغت اور سیاق و سباق کی رو سے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کا معنی ”قوانین خداوندی“ لیا جائے۔

ایک بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ پرویز صاحب بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو لغت مرتب کیا ہے وہ سارا آئمہ لغت کی کتابوں کی مدد سے ترتیب دیا گیا ہے اور ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ مادہ کے لحاظ سے الفاظ کے بنیادی معانی مرتب کرتے ہوئے آئمہ لغت کے حوالے ملتے ہیں جیسے تاج العروس، محیط المحيط اور امام راغب وغیرہ (لغات القرآن صفحہ 23 اور 24) میں پرویز صاحب نے ان تمام کتب کی تفصیل بیان کی ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ لیکن جہاں جہاں پرویز صاحب نے اصطلاحات کا مفہوم ”قوانین خداوندی“ کیا ہے وہاں کسی ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں ملتا۔ یعنی آئمہ لغت نے ان الفاظ کو کسی مقام پر بھی ان معنوں استعمال نہیں کیا۔

اب ہم سورہ الشعراء کے ان پانچ مقامات کو بیان کرتے ہیں جہاں سے تقویٰ کا مطلب مزید نکھر کر سامنے آجائے گا۔ یہ پانچ برگزیدہ بیغمبروں کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت حق دی۔ قرآن کریم نے ایک ہی انداز بیان میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۗ اِنِّي لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ۗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۗ وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ اِن اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ (26/105-110)

”قومِ نُوحٍ نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ جب کہ ان کے بھائی نُوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ پس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات مانتی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ پس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو۔“

۲۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۝ ص ۱۰۰ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ الْاَتَّقُونَ ۚ ۝ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۚ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوْا ۚ ۝ وَاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ ۝ اِنْ اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ۝ اَتَّبِعُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبُوْنَ ۚ ۝ وَتَسْحَبُوْنَ مَصٰنِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُوْنَ ۚ ۝ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۚ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوْا ۚ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (26/123-132)

”عاد والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب کہ ان سے ان کے بھائی ہوڈ نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں؟ میں تمہارا امانت دار معتبر پیغمبر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا نشان لگا رہے ہو، اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ بیہوش رہو گے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔“

۳۔ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۝ ص ۱۰۱ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰلِحٌ الْاَتَّقُونَ ۚ ۝ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۚ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوْا ۚ ۝ وَاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ ۝ اِنْ اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ۝ اَتَّبِعُوْنَ فِىْ مَا هَلٰهِنَا اٰمِيْنٌ ۚ ۝ فِىْ جَنَّتٍ وَعِيُوْنَ ۚ ۝ وَزُرُوْعٍ وَنَخٰلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ ۝ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يٰبُوتًا فَرٰهِيْنَ ۚ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوْا ۚ ۝ (26/141-150)

”قومِ ثَمُوْد نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا ان

چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دینے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے بوجھ کے مارے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

۴۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝۴ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝۴ اِنِّي لَكُمْ رَسُوْلٌ ۝۴ لَا فَاتَقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۴ وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۝۴ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (26/160-164)

”قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے“

۵۔ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۵ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝۵ اِنِّي لَكُمْ رَسُوْلٌ ۝۵ لَا فَاتَقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۵ وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۝۵ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (26/176-180)

”ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب کہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔“

یہ تھی مختلف انبیاء کرام کی اپنی اپنی قوم کو دعوت توحید۔ جہاں انسانوں کے ظلم و استبداد اور اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت، قدرت، غلبہ اور مختلف نشانیوں کا ذکر ہے اور ہر نئی اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے گذشتہ صفحات میں پیش کردہ آیات میں تقویٰ کا معنی ”قوانین خداوندی“ لیا ہے۔

تصریف آیات کی رو سے ہم نے پرویز صاحب کے موقف اور اس کی بنیاد پر قائم کردہ ”تقویٰ“ کے مفہوم کا جائزہ لیا۔ جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مادہ، اس سے بننے والے الفاظ اور ان کے بنیادی استعمالات میں تو پرویز صاحب نے اسلاف کے آئمہ لغت سے مدد لی ہے۔

لیکن اس کے بعد جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ پرویز صاحب کا ذاتی فہم ہے جو عربی لغت، قواعد گرامر اور اسلوب زبان سے ماورا ہے۔ جو کہ ”لغات القرآن“ اور ”مفہوم القرآن“ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور زبان میں اصلاً جو قواعد و ضوابط موجود ہوتے ہیں ان میں حک و اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ”تصریف آیات“ کو قرآن سمجھنے کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ علاوہ ازیں فرض کریں کہ اگر کوئی لفظ قرآن کریم میں پانچ مقامات پر استعمال ہوا ہے تو کسی ایک مقام کے مفہوم کو دوسرے مقامات پر حاوی نہیں کیا جاسکتا، ہر مقام پر استعمال ہونے والا معنی اپنی جگہ پر اٹل اور محکم ہے۔

دین اور مذہب کا فرق

علامہ غلام احمد پرویز نے اپنے افکار کی ترویج میں جن چیزوں کو نمایاں طور پر ابھارا ہے ان میں ایک ”دین اور مذہب کا فرق“ ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اسلام بحیثیت دین، قرن اول میں رائج تھا لیکن اس کے بعد سارے کا سارا اسلام بدل گیا اور اس وقت امت میں اسلام کی جو شکل موجود ہے وہ مذہب ہے۔ مزید برآں، جو طریق عبادات و قوانین شرعی نیز اصطلاحات قرآنی اور مفہیم و مطالب اس وقت رائج ہیں وہ مذہب کی غمازی کرتے ہیں نہ کہ دین کی۔ فلہذا وہ غیر قرآنی ہیں۔ اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہیں۔ تقریباً اپنے تمام مقالات اور دروس میں انہوں نے اس تصور کا نہایت شد و مد سے پروپیگنڈا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ بقول ان کے صحیح دین کی غمازی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ آج کل جن مشکلات سے دوچار ہے اس کا سبب بھی مذہب ہے اور ان مشکلات اور پستی سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر دین کا نظام قائم کیا جائے۔ اور دین سے مراد پرویز صاحب اسلام کا وہ مفہوم لیتے ہیں جو انہوں نے اپنے دو اوین و دروس میں بیان کیا ہے۔ جن کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ قرن اول کے بعد دین کا اصل مفہوم انہوں نے ہی منضبط کیا ہے۔ دین اور مذہب کے فرق سے متعلق پرویز صاحب کے تصور کا ہم قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں جو ان کے تصور کی وضاحت کرتے

ہیں۔

”دین کیا ہے؟“ تمام انسان ایک خاندان کے افراد، ایک درخت کے پتے اور ایک سمندر کے قطرے ہیں۔ جن کی اصل بنیاد (Base) ایک ہے۔ یہ تھی وہ عظیم القدر حقیقت (یعنی وحدت خالق سے وحدت مخلوق اور وحدت قانون کا تصور) جسے قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اس حقیقت کو بطور ایک نظریہ ہی کے پیش نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسانی نظام تمدن و معاشرت میں اس وحدت حیات کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوگا۔ یہ عملی طریق جس سے یہ عظیم المرتبت حقیقت ایک زندہ پیکر کی صورت میں سامنے آجاتی ہے۔ دین کہلاتا ہے۔ لہذا دین نام تھا اس طریق عمل کا جس سے ایک طرف حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) ایک غیر منقسم وحدت بن جاتے ہیں اور دوسری طرف تمام افراد نوع انسانی ایک عالمگیر برادری کے ایسے اجزاء جیسے سمندر کے قطرات۔ دین کے ارکان و مناسک اسی غیر مرنی حقیقت کو محسوس و مشہود شکل میں لانے کے ذرائع و اسباب تھے جن سے اس نظام زندگی کو عملاً منسجک ہونا تھا۔ جسے اس نے الدین کہہ کر پکارا ہے۔ دین کے اس نظام کی خصوصیت یہ تھی (یا یوں کہئے کہ اس کا فطری نتیجہ یہ تھا) کہ تمام اقتدار انسانوں کے ہاتھوں سے چھن کر اس قانون کے ہاتھ میں آ گیا جو اپنی اصل کے اعتبار سے انسانوں کا خود ساختہ نہ تھا بلکہ وہاں سے ملا تھا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جسے خدا کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں اطاعت فقط قانون خداوندی کی تھی اور قانون کی اطاعت بھی غلام کی سی بالجبر اطاعت نہیں، بلکہ اس طرح کہ انسان ان قوانین پر پورے غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ واقعی اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو خوشگوار اور تابناک بنانے کا ذریعہ ہیں اور اس طرح دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے بعد ان پر عمل کرنا شروع کر دے۔ (اسباب زوال امت 44-45)

یہ ہے پرویز صاحب کا تصور دین۔ اب مذہب کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے وہ بھی دیکھئے۔ ”وہ ضابطہ جو صرف آخرت کے متعلق ہو اور دنیا کے ساتھ اس کا کچھ واسطہ نہ ہو مذہب کہلاتا ہے۔ (اس صفحہ کے فٹ نوٹ ۲ پر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔) میں ”مذہب“ اور ”دین“ کے الفاظ الگ الگ استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مذہب نہیں لایا تھا حتیٰ کہ۔۔۔ ”مذہب“ کا لفظ بھی غیر قرآنی ہے۔ سارے قرآن میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ وہاں صرف دین کا ذکر ہے۔ وہ

دین لایا تھا۔ مذہب اس وقت پیدا ہوا جب نظام دین مفقود ہو گیا۔ لہذا میری تحریروں میں جہاں ”مذہب“ کا لفظ آئے اس سے یہی مفہوم ہوگا۔ میں اسلام کو ”دین“ کہہ کر پکارتا ہوں (کہ قرآن نے اسے دین کہا ہے) اسے ”مذہب“ نہیں کہتا کیونکہ مذہب سے مفہوم ہے (Other worldliness) (اسباب زوال امت 52)

”مذہب“ کا لفظ اگر قرآن میں نہیں آیا تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مگر اس کا جو مفہوم اس وقت معاشرہ میں رائج ہے اس کی رو سے یہ لفظ ”دین“ ہی کا ترجمہ ہے۔ اگر یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے تو پھر پرویز صاحب نے اپنے سارے لٹریچر میں ”نظام“ اور ”قانون“ کے الفاظ بے تحاشا استعمال کئے ہیں وہ بھی غیر قرآنی قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ”خدا“ کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اس لیے یہ غیر قرآنی ہے۔ تو یہ سوچ ٹھیک نہیں کیونکہ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک قابل فلسفی تک سارے یہ جانتے ہیں کہ ”خدا“ سے کیا مفہوم ہے۔ الفاظ بذات خود قرآنی یا غیر قرآنی نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ تصورات اور عقائد ہیں جن کو غیر قرآنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں۔

”مذہب سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے الگ کر کے اس زندگی کو ارباب سیاست کے سپرد کر دے اور آخرت کی زندگی کو ارباب شریعت کے حوالے کر دے۔ یعنی خدا کی دنیا الگ ہو اور قیصر کی الگ۔ بادشاہ (یا حکومت) اپنا ٹیکس وصول کرے اور مذہبی پیشوا اپنا خراج۔ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی جرم کہلائے اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی سے گناہ لازم آئے۔ جرم کی سزا اس دنیا میں مل جائے اور گناہ کی سزا اگلی دنیا میں جا کر ملے۔ اسی طرح دنیاوی حکمرانوں کی خوشنودی کے انعامات یہاں ملیں اور خدا کی خوشنودی کی جزا جنت میں پہنچ کر۔ یہ ہے وہ تصور زندگی جسے ”مذہب“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔“ (اسباب زوال امت 53)

یہ مذہب کا ایک خود ساختہ تصور ہے حالانکہ دنیا کے کسی مذہب نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ حیرت ہے کہ پرویز صاحب نے کتب سماوی کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ”مذہب عالم کی آسمانی کتابیں“ رکھا ہے۔ جس میں توریت، انجیل، قرآن کریم، ویدوں اور دیگر اقوام سے

منسوب صحائف کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ موسیٰ اور دیگر انبیائے بنی اسرائیل کی پیروی کے دعویدار ”یہودی مذہب“ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی پیروی کے دعویدار ”عیسائی مذہب“ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمدؐ کی لائے ہوئی شریعت پر چلنے والے ”مذہب اسلام“ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودیت اور عیسائیت تو مذاہب ٹھہرے۔ اور اسلام ”دین“۔

دین اور مذہب کا یہ تصور دینے کے بعد پرویز صاحب چند نکات میں اس موضوع پر حتمی رائے دیتے ہیں آئیے اسے بھی دیکھ لیں۔

”ہم دیکھ چکے ہیں کہ:-

۱۔ قوموں کی زندگی اور عروج کے راستے میں سب سے بڑا روڑا ”مذہب“ ہوتا ہے۔

۲۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ ”مذہب“ کو نہ چھوڑے۔

۳۔ دنیا کی دیگر اقوام نے جب ترقی کی طرف قدم اٹھانا چاہا تو انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا چونکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں تھا۔ اس لیے ان میں سے بعض نے:

۱۔ مذہب کو مندریا کر جا کی چار دیواری میں محدود کر دیا اور دنیا کے معاملات، اپنی

مصلحتوں کے مطابق طے کرنے شروع کر دیئے، اسے سیکولرازم کہتے ہیں اور یا

ب۔ انہوں نے مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دیا۔ یہ بھی سیکولرازم ہی ہے۔

۴۔ مسلمانوں کے پاس خدا کا دین اس کی اصل شکل میں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے زندگی اور عروج حاصل کرنا ہے تو انہیں موجودہ مذہب کی جگہ خدا کا دین اختیار کرنا ہوگا۔

۵۔ لیکن اگر مذہب پرست طبقہ اپنی ضد پراڑا رہا اور قوم سے یہی کہتا رہا کہ دین وہی ہے جو ان کے ہاں اس وقت رائج ہے تو اس کے بعد، دو شکلوں میں سے ایک شکل پیدا ہو کر رہے گی یعنی

۱۔ یا یہ قوم بالکل تباہ ہو جائے گی اور

ب۔ یا یہ بھی مذہب کو مسجدوں کی چار دیواری میں محدود کر کے اپنے ہاں سیکولرازم رائج

کر لے گی۔ (اسباب زوال امت 112-114)

دین اور مذہب کے فرق کا شدید پروپیگنڈا کر کے ایک بنیاد قائم کی گئی اور پھر اس کے اوپر اپنے قائم کردہ تصورات کے عمارت تعمیر کی گئی جس کے مطابق مسلمانوں میں موجود تمام طریق عبادات اور عقائد ”مذہبی“ قرار دیئے گئے اور اپنے پیش کردہ تصورات کو دینی درجہ پر فائز کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا قرآن کریم میں بھی دین اور مذہب کی اس قسم کی تفریق سامنے آتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔

اِسْمٰوْمِنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ؕ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ؕ (3/85)
 ”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائیگا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“

۲-هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ؕ (9/33)
 ”اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برامانیں۔“

۳-وَدِّرَآلِذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرْتَهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا --- (6/70)
 ”اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے۔ اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔“

۴-وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوسٰى وَ لِيُذْعَ رَبِّهٗ ط ۗ اِنِّىْۤ اَحَافُۢ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ؕ (40/26)
 ”اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں۔ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔“

۵-قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۗ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ؕ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ وَلَاۤ اَنَا عٰبِدُ مَاۤ اَعْبُدْتُمْ ؕ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَّلِىَّ دِيْنِ ؕ (109/1-6)
 ”آپؐ کہہ دیجئے کہ اے کافرو! نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجتا ہوں نہ تم میرے معبود کو پوجتے ہو۔ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں پرستش

کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔“

مذکورہ بالا تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے کفار اور مشرکین کا طرز حیات ہو یا مومنین کا، دونوں کو دین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور حضور کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کر دیں۔ پھر آخری آیات میں یہ بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے جہاں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ شرک اور اخلاقی پستی کی گہرائیوں ڈوبے ہوئے تھے۔ مگر ان کے اس طریقے کو بھی قرآن نے دین کہا ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کا یہ تصور درست نہیں کہ جب خالص اسلامی طرز حکومت ہو تو وہ دین بن جائے گا۔ اور جب محض ظاہری رسوم ادا کی جا رہی ہوں تو وہ مذہب ہوگا۔ یا یہ کہ وحی حضرات انبیائے کرام پر اپنی خالص شکل میں نازل ہوتی رہی مگر بعد میں ان کے تبعین نے اس کی صورت مسخ کر ڈالی اور اپنی طرف سے تحریف کر ڈالی۔ تو اس سلسلے میں یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ چاہے وحی اپنی خالص شکل میں موجود ہو یا مخرف کردہ۔ وہ دین ہی کہلائے گی۔ قرآنی آیات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ فرعون کا طرز حیات ہو یا کفار مکہ کا، وہ ان کا دین کہلائے گا۔ اور مسلمانوں کا دین اسلام ہے۔ یعنی ان تمام عقائد اور طریق رسوم کو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر آج کے اسلام میں کچھ غلط عقائد اور تصورات داخل ہو گئے ہیں تو ان کے ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ ہم اس اسلام کو ’مذہب‘ قرار دے دیں۔ اور یہ تصور کر لیں کہ دین کچھ اور چیز ہے۔

دین اور مذہب کے فرق کا یہ تھا پرویز صاحب کا تصور۔ اور اس کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ تقریباً ہر کتاب، پمفلٹ، رسالہ اور دروس کے ذریعے اس کو پختہ کیا گیا پھر اس وقت مسلمانوں میں رائج عقائد، عبادات حتیٰ کہ قرآنی مفاہیم اور اصطلاحات کو بھی ’مذہبی‘ قرار دے دیا گیا۔ پھر ان سب چیزوں کے مقابلہ میں جو تصورات خود دیئے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہی دینی ہیں۔

قرآنی اصطلاحات

ہر زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اصطلاحات بکثرت موجود ہوتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے لغوی معانی کوئی اور لیکن طرز بیان میں ان کے کچھ اور معانی لیے جاتے ہیں۔ اور اپنے استعمالات کے لحاظ سے یہ معانی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر ایک لفظ کسی جگہ پر اصطلاحاً استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کا لغوی معنی نہیں لے سکتے۔ الفاظ کا سیاق و سباق اس بات کو متعین کر دیتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم کے معنی ہیں بہت بڑا رہنما۔ لیکن ہمارے ہاں یہ الفاظ اصطلاحاً جناب محمد علی جناح سے منسوب ہو چکے ہیں۔ یا انگریزی لفظ Holiday کا مطلب ہے مقدس دن۔ لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہی لفظ ہفتہ وار یا دیگر چھٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حکیم کا مطلب دانائے لیکن ہم یہ لفظ جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرنے والے کے لیے بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پچھلے سال مدینہ گیا تھا۔ تو یہاں مدینہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ مدینہ النبیؐ گیا تھا حالانکہ مدینہ کے معنی ”شہر“ کے ہوتے ہیں۔ یا زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھوتری، زیادہ ہونا۔ لیکن کوئی بھی شخص لفظ زکوٰۃ کو لغوی معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ سب اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ کا رائج مفہوم ہی لیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

اس کے علاوہ ہم اسم معرفہ کے لغوی معنی نہیں لے سکتے۔ یعنی وہ نام جو مخصوص شخصیات، اشیاء، مقامات یا اعمال سے منسوب ہوں۔ مثلاً اللہ، قرآن، رسول، نبی، مدینہ منورہ، اسلام آباد، گلاس اور ٹیلی ویژن وغیرہ۔

علاؤ غلام احمد پرویز نے قرآن کریم کی اصطلاحات کے لغوی معانی استعمال کر کے ان کا مفہوم بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر اپنے تمام تصورات کی عمارت تعمیر کی ہے۔ اب یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ الفاظ اپنے معانی سیاق و سباق کی رو سے متعین کرتے ہیں لیکن پرویز صاحب کا انداز یہ ہے کہ وہ الفاظ کا مفہوم پہلے متعین کر لیتے ہیں اور پھر اس مفہوم کو قرآن کریم کے دیگر مقامات پر منطبق کر دیتے ہیں چاہے وہ مقام اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ۔ اب آئیے اصطلاحات کے بارے میں پہلے پرویز صاحب کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔

”قرآنی اصطلاحات: جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، قرآن فہمی کے سلسلہ میں، سب

سے اہم سوال، قرآنی اصطلاحات کے صحیح مفہوم کی تعیین ہے۔ کوئی فن یا موضوع ہو، اس میں اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہوتی ہے۔ اور جب تک ان اصطلاحات کا صحیح تصور سامنے نہ آئے، متعلقہ موضوع یا فن سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اصطلاحات کے الفاظ تو اسی زبان کے ہوتے ہیں جس میں باقی کتاب لکھی گئی ہو، لیکن ان کا مفہوم بڑا جامع اور مخصوص ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو الفاظ اصطلاحات کے لیے استعمال کئے جائیں، ان کے معانی کا اصطلاحات کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اصطلاحات کے معانی کی بنیاد، ان الفاظ کے معانی ہی پر رکھی جاتی ہے۔ البتہ ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اپنی اصطلاحات اسی طرح وضع کی ہیں۔ اور ان کے معانی کی خود ہی وضاحت کر دی ہے۔ ان معانی کے سمجھنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے ان الفاظ کے بنیادی معانی کو سمجھا جائے جن سے وہ اصطلاحات وضع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد، قرآن کریم کے ان تمام مقامات کو سامنے لایا جائے۔ جن میں وہ اصطلاحات آئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی واضح طور پر سامنے آجائیں گے۔ میں نے لغات القرآن میں، ان اصطلاحات کے معانی اسی طرح متعین اور بیان

کئے ہیں اور وہی معانی اب مفہوم القرآن میں پیش کئے گئے ہیں مثلاً صلوٰۃ: قرآن کریم کی ایک خاص اصطلاح ”اقامت صلوٰۃ“ ہے جس کے عام معنی نماز قائم کرنا یا نماز پڑھنا کئے جاتے ہیں۔ لفظ صلوٰۃ کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے۔ جس کے بنیادی معانی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ اس لیے صلوٰۃ میں تو انین خداوندی کے اتباع کا مفہوم شامل ہوگا۔ بنا بریں اقامت صلوٰۃ سے مفہوم ہوگا ایسے نظام یا معاشرہ کا قیام جس میں تو انین خداوندی کا اتباع کیا جائے۔ یہ اس اصطلاح کا وسیع اور جامع مفہوم ہے۔ نماز کے اجتماعات میں، تو انین خداوندی کے اتباع کا تصور محسوس اور سمٹی ہوئی شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس اصطلاح کو ان اجتماعات کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآنی آیات پر تھوڑا سا تدبر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر اقامت صلوٰۃ سے مراد اجتماعات نماز ہیں اور کس مقام پر قرآنی

نظام یا معاشرہ کا قیام۔ مفہوم القرآن میں یہ معانی اپنے اپنے مقام پر واضح کر دیئے گئے ہیں۔
زکوٰۃ: اسی طرح مثلاً زکوٰۃ کی اصطلاح ہے۔ اس لفظ کا مادہ (ز-ک-و) ہے۔ جس کے بنیادی
 معنی بڑھنا، پھولنا، نشوونما پانا ہیں۔ قرآن کریم نے اسلامی نظام یا مملکت کا فریضہ اتنائے زکوٰۃ بتایا
 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ نوع انسان کو سامان نشوونما فراہم
 کیا جائے۔ زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی دولت میں سے ایک خاص شرح کے مطابق روپیہ
 نکال کر خیرات کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ کے قرآنی
 مفہوم کی ایک جھلک پائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اسے، ان خاص معانی میں استعمال نہیں
 کیا۔ اس لیے اس اصطلاح کو انہی معانی کے لیے مخصوص کر دینا قرآنی مفہوم کی وسعت اور ہمہ
 گیری کو مقید کر دینا ہوگا۔

دیگر اصطلاحات: یہی صورت قرآن کریم کی دیگر اصطلاحات کی ہے۔۔۔ مثلاً کتاب،
 حکمت، ملائکہ، دین، دنیا، آخرت، قیامت، ساعت، جنت، جہنم، ایمان، کفر، نفاق، فسق، اثم،
 عدوان، تقویٰ اور عبادت وغیرہ۔ مروجہ تراجم میں ان اصطلاحات کے صرف وہی معنی دیئے گئے
 ہیں جو ہمارے ہاں متداول ہیں۔ لیکن مفہوم القرآن میں ان کے وسیع اور ہمہ گیر معانی دیئے گئے
 ہیں جو مذکورہ بالا طریق سے متعین کئے گئے ہیں۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر
 سامنے آجائے گی کہ ان اصطلاحات کے مروجہ مقید مفہوم سے قرآنی تعلیم کس طرح سمٹ جاتی
 ہے۔ اور ان کے قرآنی مفہوم سے اس کی وسعتیں کس طرح حدود فراموش ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی
 کتاب کو، جو زمان و مکان کی حدود سے ماوراء، اور تمام نوع انسان کے لئے ہمیشہ کے لئے ضابطہ
 ہدایت ہو، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔“ (مفہوم القرآن۔ تعارف صفحہ 5 تا 7)

یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق ہر اصطلاح کو پرویز صاحب نے ایک نئے معانی پہنا
 دیئے ہیں۔ اب صلوٰۃ کا مطلب وہ بتا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ اور مفہوم اس کا لے رہے
 ہیں ”قوانین خداوندی کا اتباع“۔ اور اس مفہوم کے لیے لغت، محاورہ عرب اور تشریف آیات
 وغیرہ سے کوئی دلیل نہیں دے رہے۔ صلوٰۃ کے بارے میں ہم علیحدہ سے ایک باب ”نماز“ میں

تفصیلی بحث کریں گے۔ اس وقت ہم چند دیگر اصطلاحات کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ (ز۔ک۔و) : قرآن کریم میں یہ لفظ بے شمار مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ لغت میں اس کے معانی نشوونما، بالیدگی، پھولنا، پھلنا اور پاکیزگی وغیرہ آتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً اپنے مال میں سے کچھ متعین حصہ حکومت کو دے دینا ہوتا ہے۔ اور انہی معانی میں قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ ان معانی میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ زکوٰۃ کا معنی نشوونما ہے اور یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کو نشوونما دے۔ اس لیے زکوٰۃ حکومت دے گی۔ اس کے لیے وہ قرآن کریم کی ایک آیت (22/41) کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور باقی تمام آیات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کو ہم اپنے مقام پر درج کریں گے۔ ہم پہلے زکوٰۃ کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور بیان کرتے ہیں۔

”زَكَا الْمَالُ وَالزَّرْعُ۔ يَزْكُو۔ زُكُوًا وَ اَزْكٰى۔ جانوروں کا اور بھتی کا پھلنا، پھولنا، بڑھنا، نشوونما پانا، اَزْكٰى اللّٰهُ الْمَالُ وَ زَكَاهُ۔ خدا نے مال کو نشوونما دی، بڑھایا۔ زَكَا الرَّجُلُ يَزْكُو۔ آدمی آسودہ اور خوش حال ہو گیا۔ اس کی صلاحیتوں میں نشوونما آگئی۔ اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی۔

لہذا زَكَا کے بنیادی معنی نشوونما پانا، بڑھنا، پھولنا، پھلنا ہیں۔ راغب نے اس کے یہ معنی لکھے کہ اس کی مثال میں قرآن کریم کی یہ آیت درج کی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ اَيْهَا اَزْكٰى طَعَامًا (18/19) یہ دیکھو کہ کونسا کھانا ایسا ہے جو حلال اور خوش انجام ہے۔ یعنی جس میں نشوونما دینے کی زیادہ صلاحیت ہے، جو زیادہ (Nutritious) ہے۔“ (لغات القرآن 808)

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں

”قرآن کریم میں اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّكٰوةَ کے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے یہی دو ستون ہیں۔ اقامت صلوٰۃ کے مفہوم کے لیے (ص۔ل۔و کے عنوان میں) ”صلوٰۃ“ کا لفظ دیکھئے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ اس سے مراد ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں افراد معاشرہ، تو انہیں خداوندی کا اتباع کرتے، اپنی

منزل مقصود تک جا پہنچیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے ”ایتائے زکوٰۃ“ ایتاء کے معنی ہیں دینا۔ اور (جیسا کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں) زکوٰۃ کے معنی ہیں نشوونما یعنی نوع انسان کی نشوونما (Growth) یا (Development) کا سامان بہم پہنچانا۔ اس ”نشوونما“ میں انسان کی طبعی زندگی کی پرورش اور اس کی ذات کی نشوونما، دونوں شامل ہیں۔ سورۃ حج میں ہے کہ **الَّذِينَ إِذَا مَكَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ** (22/41) ”یہ (جماعت مؤمنین) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کریں گے۔“ یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ ”ایتائے زکوٰۃ“ ہوگا۔ یعنی دوسروں کو نشوونما دینا۔ اپنے افراد معاشرہ اور دیگر نوع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا۔ اس کے متعلق دوسرے مقام پر ہے کہ مؤمن وہ ہیں **هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ** (23/4) جو زکوٰۃ (یعنی نوع انسان کی نشوونما) کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔“

(لغات القرآن 810-809)

اب پرویز صاحب کے نزدیک زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو حکومت ہی سرانجام دے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ بکثرت استعمال کیا ہے اور وہ ہے ”نظام“۔ یہ لفظ صلوٰۃ کے ساتھ لگا تو ”نظام صلوٰۃ“ بن گیا اور زکوٰۃ کے ساتھ استعمال ہوا تو ”نظام زکوٰۃ“۔ اور جب کسی بھی اصطلاح یا عمل کے ساتھ ”نظام“ کا لفظ لگ جائے تو اس کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر حکومت وہ کام کرے تو ٹھیک وگرنہ کسی کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ذیل میں ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جن سے زکوٰۃ کی وضاحت ہوتی ہے۔

أَوْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (2/43)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَدْ وَبَّأْنَا لَدَيْنَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (2/83)

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں

باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا۔ نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب بھر گئے اور منہ موڑ لیا۔

۳۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (2/177)

”ساری نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں۔ بلکہ حقیقتاً نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ اور یہی پرہیزگار ہیں۔“

۴۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدْتَهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذْنَاهُم بِالرِّبَا وَقَدِ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ لَكِنَّ الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِن قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُوْتُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (4/160-162)

”جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ اور سو جس سے منع کیے گئے تھے۔ اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان

والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔“

۵- فَاِذَا نَسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ؕ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (9/5)

”پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی تاک میں ہر گھائی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

۶- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ فَاِعْوٰنُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُقِصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ (9/11)

”اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔“

درج بالا آیات میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ ایک انفرادی عمل ہے۔ اس کا نظام یا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ (2/83) سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے دیگر معاملات کے علاوہ زکوٰۃ کا بھی وعدہ لیا گیا مگر سب پھر گئے سوائے چند ایک کے۔ علاوہ ازیں، نیکی کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی اپنی ایک متعین حیثیت ہے۔ جو کہ غریبوں، یتیموں اور دیگر کی مالی امداد کرنے کے علاوہ ہے۔ (2/77) اس کے ساتھ ہی (9/5) اور (9/11) میں کہا گیا کہ اگر کافر لوگ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں وگرنہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان سب مقامات میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لوگوں نے ہی ادا کرنا ہے۔ جس سے یہ تمیز ہوگی کہ کون مسلم ہے اور کون کافر۔

اب آئیے اس آیت کی طرف جس سے پرویز صاحب نے یہ مفہوم اخذ کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی حکومت کا فریضہ ہے۔ اور پرویز صاحب نے آیت کا پہلا ٹکڑا ہی اکثر مقامات پر بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ ہم پوری آیت اور اس سے پیشتر کی دو آیات دیکھتے ہیں جس سے مفہوم واضح ہو جائیگا۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ بَيْنُورِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22/39-41)

”جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انھیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں ویران کر دی جاتیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔“

مندرجہ بالا آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ مظلوم تھا اور صرف مسلمان ہونے کی بنا پر اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ پھر آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اگر ہم ان کے پاؤں زمین میں جمادیں یعنی انہیں غلبہ و اقتدار عطا کر دیں تو یہ لوگ بلا خوف و خطر نماز کی ادائیگی کریں اور زکوٰۃ دیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیں۔ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ جب انہیں اقتدار حاصل ہوگا تو حکومت کا فریضہ ادائیگی زکوٰۃ ہوگا۔ بلکہ وہی لوگ یعنی عام مسلمان ہونگے جو کفر کی حکومت میں اپنے مذہبی فرائض آزادی سے ادا نہ کر سکتے تھے وہ لوگ

اسلامی مملکت میں ان فرائض کو آزادی سے ادا کریں گے۔ حکومت سے مراد وہ ایک محدود طبقہ ہے جو انتظام مملکت سے وابستہ ہے۔ کوئی فریضہ حکومت کے ذمہ ہو تو باقی ساری امت اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات سے واضح ہے کہ یہی بنیادی احکام ہیں جن سے یہ تمیز ہوگی کہ کون مسلم و مومن ہے اور کون کافر و مشرک۔ باقی رہی حکومت کے فرائض کی بات تو وہ احکام قرآن کریم میں بڑے واضح ہیں یعنی چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ یا قتل کے بدلہ قتل کیا جائے۔ زنا کرنے والے کو سو کوڑے مارے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جو احکام پوری امت کے ذمہ ہیں وہ بھی قرآن کریم میں واضح ہیں۔ جیسے رمضان کے روزے، حج و عمرہ، انفاق فی سبیل اللہ، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو (22/41) میں آئے ہیں پوری امت کا فریضہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط --- (3/110)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اس سے چند آیات پیشتر یہ ارشاد فرمایا گیا

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ه (3/104)

”اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔“

ان آیات اور زکوٰۃ کے ضمن میں پیش کی جانے والی آیات کو سامنے رکھئے اور پھر اس آیت پر غور کیجئے

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ه (22/41)

حقیقت میں پرویز صاحب کا یہ پہلے ہی سے تصور قائم تھا کہ اسلامی احکام یا قرآنی

توانین پر عمل صرف اور صرف قرآنی مملکت ہی میں ہو سکتا ہے۔ اسے وہ سسٹم سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر پرویز صاحب کے پڑھنے اور سننے والوں میں یہ بات اچھی طرح رچ بس گئی کہ چونکہ سسٹم غیر قرآنی ہے اس لیے ہم قرآنی احکام پر عمل کی جو ابدی سے مبرّٰی ہیں۔ اور کی (عبوری) دور میں ہیں اور اس سوچ سے ان لوگوں کی اکثریت نے نہ صرف، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات سے جان چھڑائی، بلکہ عمداً کچھ لوگوں نے ایسے خلاف قرآن کام کرنے شروع کئے جن کے لیے وہ مجبور بھی نہیں تھے۔ مثلاً سود کا لین دین، کاروباری بددیانتی، دھوکہ اور فریب دہی وغیرہ۔ اور اس کے لیے بنیادی آڑ یہی تھی کہ سسٹم غیر قرآنی ہے۔ اور اسی آڑ میں تعیشتات زندگی سے دل بہلاتے رہے۔

۲۔ ذکر (ذک۔ر): قرآن کریم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا۔ اور اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور قدرتوں کے ذریعے یاد کرنا۔ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا فرمان ہے کہ اسے اٹھتے، بیٹھتے، لیٹے ہر وقت یاد کیا جائے۔ اب پرویز صاحب نے اس اصطلاح کو کیا مفہوم پہنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

”قرآن کریم کو الذِّكْرُ کہا گیا ہے (16/44) کیونکہ اس میں اقوام و ملل کے عروج و زوال کے توانین بھی ہیں اور تاریخی یادداشتیں بھی۔ اشیائے فطرت پر غور و فکر کرنے والوں کو لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (16/13) کہا گیا ہے۔ نیز غیر خدائی قوتوں کے خلاف معرکہ آرائی کو ذِّكْرٌ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ان توانین خداوندی کو سامنے لانے کی جدوجہد جنہیں انہوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے (20/42, 20/34) اس لیے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور اس طرح توانین خداوندی کو عملاً غالب کرنے کو بھی ذِّكْرٌ کہا گیا ہے (8/45) اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ زندگی کے کسی گوشہ میں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، توانین خداوندی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ خود توانین خداوندی ذِّكْرُ اللّٰهِ (39/23) ہیں۔ شرف اور عظمت کے معنوں میں یہ لفظ (23/71) میں آیا ہے۔ نیز (43/44) میں، جہاں قرآن کریم کے متعلق کہا ہے کہ **اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَّلِقَوْمِكَ** کہ تمہاری اور تمہاری قوم کی عظمت اور بڑائی کا راز اسی

میں پوشیدہ ہے کہ تم قرآن کریم پر عمل پیرا رہو۔ سورۃ قمر میں مُذَكِّرًا آیا ہے (54/15) سورۃ دھر میں جہاں آیا ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے لَمْ يَكُنْ هَيَاةً مُذَكَّرًا (76/1) اس میں مُذَكَّرًا کے معنی ہیں ایسی چیز جو اپنی ذات سے وجود میں آگئی ہو اور قائم ہو (Existing by itself)

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (2/152) اس کے معنی یہ ہیں کہ تم میرے قوانین کو اپنے سامنے رکھو تو میں تمہارے حقوق کی حفاظت کروں گا۔ اور تمہیں عظمت و سطوت عطا کروں گا۔ تم ان قوانین کا اتباع کرو تو انکے خوشگوار نتائج یقیناً تمہارے سامنے آجائینگے۔ (یہاں، علاوہ دیگر امور کے یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ ابتدا (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ جس قسم کا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ اسی قسم کا رد عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔) لہذا ذِكْرًا لِلَّهِ کے معنی قوانین خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ گنتے رہنا)۔ اور اس اتباع کا لازمی نتیجہ شرف و عظمت اور غیر خدائی قوتوں پر غلبہ و تسلط ہے۔ جیسا کہ سابقہ حوالوں میں بتایا جا چکا ہے، صاحب ضرب کلیمی کا فرعون کے مقابلہ کے لئے جانا، ذکر اور تسبیح ہے۔ (تَسْبِيحٌ کے لیے دیکھئے س۔ ب۔ ح کا عنوان)۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ذکر ہے۔ اشیائے کائنات پر غور و فکر کرنا ذکر ہے۔ اقوام سابقہ کی تاریخ سے عبرت و موعظت حاصل کرنا ذکر ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں، ایک ایک قدم پر قانون خداوندی کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا ذکر ہے۔ ان قوانین کا عام چرچا کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں نشر و اشاعت کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ ذِكْرًا لِلَّهِ ہے جس سے دلوں کو سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے (13/28) ہم نے اطمینان کے ساتھ ”سچے“ کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ جھوٹا اطمینان، انسان کو ہر طریق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر جھوٹا اطمینان حاصل نہ ہوتا ہو تو لوگ باطل مذاہب پر جسے کس طرح رہیں؟ سچا اطمینان، علی وجہ البصیرت حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی بات پر علم و بصیرت کی رو سے غور کرنے کے بعد، یا اس کے عملی نتائج سامنے آجانے کے بعد، ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ وہ بات حق و صداقت پر مبنی ہے۔ تو اس سے سچا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ جو دل اور دماغ دونوں کے لئے وجہ سکون ہوتا ہے۔ جھوٹا اطمینان، اپنے آپ کو

فریب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ سچا اطمینان جماعت مومنین کو بدر کے میدان میں حاصل ہوا تھا جب انہیں اپنے سے تین گنا فوج پر عظیم فتح حاصل ہوئی تھی (3/125) یہ حجروں اور خانقاہوں میں حاصل نہیں ہوتا۔“ (لغات القرآن 699-700)

یہ تھا ذکر کے متعلق پرویز صاحب کا تصور۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم تحریر کر چکے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے مادے کے لحاظ سے معانی اور اس کے استعمال کے بارے میں پرویز صاحب آئمہ لغت کے حوالہ جات درج کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تحریر اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ وہ پرویز صاحب کا ذاتی فہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتب لغت کے حوالہ جات نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ذکر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تو انین خداوندی پر عمل ہے۔ جبکہ یہ نہیں بتاتے کہ ”توانین خداوندی“ کے معنوں میں یہ لفظ لغت کی کس کتاب میں درج ہے۔ اور کس پیشرو، صاحب علم اور امام نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات کو سامنے لاتے ہیں جو ذکر کے مفہوم کو واضح کریں گی۔

اَوْ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَّ مَسْجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيْهَا اِسْمُهُ وَ سَعَىٰ فِيْ خَرَابِهَا ۗ اُوْلٰٓئِكَ مَا كَانُ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خٰٓفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ (2/114)

”اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کئے جانے کو روکے اور انکی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔“

۲۔ فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝ (2/152)

”پس تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔“

۳۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ فَاِذَا اَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَلَاكُمۡ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰلِّيْنَ ۝ (2/198)

”تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام

کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ حالانکہ تم اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے۔“

۴۔ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا ط فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ حِلَاقٍ ه (2/200)

”پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“

۵۔ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِنَّهٗ عَلَيْهِ ح وَاَمِنْ تَاْخِرٍ فَلَا اِنَّهٗ عَلَيْهِ لِمَنْ اَتٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهٖ تُحْشَرُوْنَ ه (2/203)

”اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو۔ دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔“

۶۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ه (7/205)

”اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ صبح اور شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔“

۷۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ه (33/41-42)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔“

۸۔ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ط (13/28)

”جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔“

۹۔ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۙ صلہ (76/25)

”اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔“

۱۰۔ اَفَا ذَا قَسَبْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَ قُعُودًا وَّ عَلٰی جُنُوبِكُمْ ؕ (4/103)

”پس جب تم نماز مکمل کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔“

ان آیات نے ذکر کے مفہوم کی خود ہی وضاحت کر دی ہے۔ پرویز صاحب نے اپنے زور بیان کی ساری قوت اس نکتہ پر صرف کی ہے کہ ”ذکر“ سے مراد قانون خداوندی ہے۔ لیکن جب قرآن یہ الفاظ استعمال کرے۔ ”اَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمُهُ“ (2/114)، ”وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ“ (76/25) اور ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ“ (2/203) تو یہاں قانون کے لفظ کا کیسے اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ تو رب کریم کے نام کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ان آیات میں ذکر پر ایسی بندشیں ہیں جو ہم ”قانون“ پر لاگو نہیں کر سکتے۔ مثلاً مساجد کے اندر ذکر، مشعر الحرام کے قریب ذکر، ایسا ذکر جیسا اپنے آباؤ اجداد کا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر، گنتی کے چند دنوں کا ذکر، دل میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر۔

قانون کے اوپر زمان و مکاں کی حدود نہیں لگائی جاسکتیں۔ مثلاً یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دو دن قانون پر عمل کرو۔ مسجد کے اندر قانون پر عمل کرو۔ مشعر الحرام کے قریب قانون پر عمل کرو یا دل میں قانون پر عمل کرو۔ اور صبح اور شام کو قانون پر عمل کرو۔ قانون ایک ہمہ گیر چیز ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر حال میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اوپر بیان کردہ آیات کا سیاق و سباق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ”ذکر“ کے معنی ”قانون“ کے کئے جائیں۔ ذکر کے وہی معانی درست ہیں جو اصطلاحاً معاشرے میں مروج ہیں۔ اور قرآنی آیات ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور یہ ذکر صرف مساجد تک محدود نہیں اس کے بارے میں فرمایا۔

وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ مَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ (22/40)

”اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، گرجے اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں ویران ہو جاتیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔“

اب یہ تمام مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں ”قوانین خداوندی“ پر عمل کیا

جاتا ہے تو بات کہاں پہنچتی ہے۔ لیکن پرویز صاحب جو مفہوم ایک دفعہ طے کر لیں اسے تمام مقامات پر لاگو کر کے رہتے ہیں چاہے بات بنے یا نہ بنے۔ اور یہ ان کا عمومی انداز ہے جس میں وہ قرآنی آیات کی عبارت کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور مفہوم کچھ اس قسم کا ہوتا ہے جس کا متعلقہ آیت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اب اوپر بیان کردہ کچھ آیات کا مفہوم ہم پرویز صاحب کے مفہوم القرآن سے پیش کرتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (33/41)

” (نبوت تو ختم ہوگئی۔ باقی رہا فریضہ ”رسالت“ یعنی خدا کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کے مطابق ایک نظام قائم کرنا۔ سوا سے امت محمدیہ کے سپرد کر دیا۔۔۔ (35/32; 3/109) سو اے جماعت مومنین! تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم تو انین خداوندی کو خود اپنے سامنے بھی رکھو، اور ان کا چرچا بھی کرو۔“ (مفہوم القرآن 977)

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا (2/200)

” وہاں سے واپسی کے بعد، تم یہ نہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم پر واجب تھا، سب ادا ہو گیا اور اب تم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ وہاں سے واپسی پر بھی تم تو انین خداوندی کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو۔ اسی طرح جیسے تم، اس سے پہلے، اپنے اسلاف کے مسلک کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔۔۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت اور گہرائی کے ساتھ۔“ (مفہوم القرآن 95)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ط فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلَاكُمْ ؕ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝

(2/198)

اس حقیقت کو بھی فراموش نہ کرو کہ یہ اجتماعات کوئی ”یا ترا“، قسم کی چیز نہیں کہ وہاں دنیا داری کے دھندوں کی کوئی بات نہ ہو سکے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان اجتماعات میں (ملت کے لیے) سامان نشوونما اور معاشی وسائل کے اخذ و طلب کے لیے جدوجہد کرو۔ پھر جب تم، ان مسائل کو طے کر لینے کے بعد عرفات کے میدان سے واپس آ جاؤ (جہاں تمہارا باہمی تعارف ہو چکا ہے) تو مشعر الحرام کے قریب آ کر، پھر جمع ہو، اور قانون خداوندی کی راہ نمائی میں، نظام خداوندی کے

مختلف گوشوں کو سامنے لاؤ۔ ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال گذرے کہ ہم توجہ کو محض ایک ”مذہبی فریضہ“ سمجھتے تھے لیکن مذکورہ بالا احکام و ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظام خداوندی کا ایک اہم گوشہ ہے جس کا تعلق ہماری معاشرتی اور تمدنی دنیا سے ہے۔ تو تمہارا پہلا نظریہ غلط تھا۔ صحیح بات وہی ہے جو تمہیں اب بتائی گئی ہے۔“ (مفہوم القرآن 74-75)

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ (76/25)

”اس سے بچنے کا طریق یہ ہے کہ تو صبح و شام، ہر وقت خدا کی صفت ربوبیت کو اپنے سامنے رکھ اور اس کی روشنی میں نظام ربوبیت کی تشکیل میں سرگرم عمل رہ۔“ (مفہوم القرآن 1396)

۳۔ سجدہ۔ مسجد (س۔ ج۔ د): ہم جن اصطلاحات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی ستون ہیں۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اصطلاحات معاشرے میں رائج ہوں ان کے لغوی معانی کی بنیاد پر ان کے مفہوم میں تبدیلی نہیں پیدا کی جاسکتی۔ ایسا روزمرہ اصطلاحات میں بھی ممکن نہیں ہوتا کجا قرآنی تعلیم کے بنیادی ماخذوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں۔ اب ہمارے سامنے ایسا موضوع آ رہا ہے کہ جس کا مفہوم بدل کر پرویز صاحب نے اپنے متبعین کا خدا سے تعلق جڑوں سے کاٹ دیا ہے اور اس تعلق کے بنیادی مرکز یعنی مسجد سے ان کو بہت دور کر دیا ہے۔ پہلے ہم سجدہ کے بارے میں پرویز صاحب کے موقف کو سامنے لاتے ہیں۔

’الْسُّجُودُ‘ کے معنی ہیں، سر کو جھکا دینا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی، پست ہونا اور جھک جانا لکھے ہیں۔ نَخْلَةٌ سَاجِدَةٌ جھکا ہوا کھجور کا درخت، بالخصوص وہ جو پھلوں کے بوجھ سے جھک جائے۔ سَجَدُ الْبَعِيرُ۔ اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا تاکہ سوار اس پر بیٹھ جائے۔ لہذا اس مادہ کے معنی طبعی طور پر (Physically) انسان کے سر (یا کسی اور چیز) کے جھک جانے کے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کی حرکات و سکنات کے پیچھے ایک فلسفہ کارفرما ہے۔ جسے دور حاضرہ کی علمی اصطلاح میں متوازیت یا (Parallelism) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس (Mind) کے ارادے اور اس کے جسم (Body) کی حرکت میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ دونوں متوازی چلتے ہیں۔ مثلاً جب آپ لیٹے لیٹے کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹھ یا لیٹ جاتے ہیں۔ یا

جب آپ کسی بات پر ہاں کہتے ہیں تو ساتھ ہی سر ہلا دیتے ہیں (بلکہ یوں کہئے کہ آپ کا سر خود بخود غیر شعوری طور پر ہل جاتا ہے) جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اس حقیقت کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے اور ان الفاظ سے جن کا بدیہی مفہوم جسم کی طبعی حرکت ہوتا ہے، اس جذبہ کا اظہار مقصود ہوتا ہے جو اس حرکت کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کے سامنے ”سر جھکا دیا“ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس حکم کو تسلیم کر لیا اور اس کی تعمیل کر دی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے حکومت کے قانون کی ”سرکشی“ اختیار کی تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس قانون کے ماننے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف بغاوت اختیار کر لی۔ قرآن کریم بھی چونکہ ایک خاص زبان (عربی) میں بات کرتا ہے اس لیے اس کے ہاں بھی اظہار مطالب کا یہی انداز ہے۔ اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ اطاعت اور فرماں پذیری کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً سورہ نحل میں ہے **وَلِّلّٰہِ یَسْجُدْ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّۃٍ وَّ الْمَلَٰئِکَۃِ وَ ہُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ** (16/49)

”اور جو جاندار کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہیں اور ملائکہ، سب خدا کے سامنے سر بسجود ہیں اور وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے۔“ یہاں **یَسْجُدْ** کا مفہوم **لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ** نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی وہ احکام خداوندی سے سرکشی اختیار نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اس سے آگلی آیت نے کر دی۔ جہاں کہا کہ **و یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ** (16/50) انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس مادہ (س۔ج۔د) کی مختلف شکلیں آئیں وہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجازی (فرماں پذیری کے) معنوں میں۔“

(اب یہاں پرویز صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کوئی بھی لفظ کسی مقام پر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا حقیقی معنوں میں۔ اور نہ ہی انہوں نے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہوئے کسی صاحب لغت و تفسیر کا حوالہ دیا ہے۔ اب ایک مقام پر کسی لفظ کا لغوی، اصطلاحی یا مجازی صرف ایک ہی معنی لیا جاسکتا ہے۔ ایسا

ناممکن ہے کہ کچھ لوگ تو کسی لفظ کا اصطلاحی مفہوم لیں اور کچھ مجازی۔ ایسی صورت میں قرآن کریم کی کیا صورت بن جائے گی۔ اللہ کی پناہ) آگے مزید لکھتے ہیں۔

”اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ جب ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا تو وہ (بچے کی طرح) محسوس اشیاء ہی کو سمجھتا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی (بیشتر) محسوس طور پر کرتا تھا۔ آج کل کی علمی اصطلاح میں یوں کہئے کہ اس کا علم (Sense-Perception) ”حواس“ کے دائرہ میں محدود تھا۔ وہ ہنوز تصورات (Concepts) کے ذریعے حصول علم یا اظہار خیالات کی منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کا اس زمانے کا مذہب، محسوسات کے دائرے میں گھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ (Formalism) کی منزل میں تھا۔ اس نے ”خدا“ کے لیے محسوس پیکر تراش رکھے تھے۔ پوجا پاٹ کے طریق اور دیگر مذہبی رسوم و تقاریب میں بھی سارا زور شکل (Form) پر دیا جاتا تھا۔ بلکہ (Form) ہی کو مقصود بالذات سمجھا جاتا تھا۔

قرآن کریم نے اپنی تعلیم میں انسان کو بالغ تصور کیا ہے۔ یا یوں کہیے کہ وہ اسے عہد طفولیت سے نکال کر سن شعور و بلوغت میں لانا چاہتا ہے۔ وہ علم بالحواس (Perceptual) کے ساتھ ساتھ تصوراتی علم (Conceptual Knowledge) پر بھی زور دیتا ہے۔ اور دین کے معاملہ میں بھی شکل (Form) کی بجائے معنویت (مقصود و مفہوم) کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن وہ شکل (Form) کو بالکل ترک نہیں کرتا۔ اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور باقی رکھتا ہے۔ [یہ پرویز صاحب کا ذاتی وضع کردہ تصور ہے۔ جس کے لیے وہ ناقص عقلی دلائل سامنے لا رہے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں کوئی قرآنی دلیل ان کے پاس نہیں۔ ”مصنف“]] اس لیے کہ (جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے) انسان کو تصورات (Ideas) کی تعبیر کے لیے (Form) کے بغیر نہ چارہ ہوتا ہے نہ تسکین۔ بڑے سے بڑا تصوراتی مفکر (Idealist) بھی جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ کی حرکات ناگزیر ہوتی ہیں۔ وہ ان محسوس اشارات کے بغیر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ (وہ اس طرح مجرد حقائق (Abstract Truth) کو بھی محسوس مثالوں سے سمجھاتا ہے۔) یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے (Form) سے اس قدر بلند ہونے کے باوجود، بعض مقامات میں اسے باقی رکھا ہے۔ صلوٰۃ (نماز) میں قیام و رکوع و سجود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کی مظہر ہیں

مثلاً (سورۃ نساء میں جہاں جنگ کی حالت میں صلوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے۔ وہاں کہا ہے) کہ ایک گروہ رسول اللہ کی اقتدا میں کھڑا ہو جائے۔ فَإِذَا سَحَلُوا (4/102) ”پھر جب وہ سجدہ کر چکیں“ تو وہ پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”سجدہ“ سے مراد نماز کا وہ سجدہ ہے جس میں انسان سچ مچ اپنا سر خدا کے سامنے جھکاتا ہے۔ اور یہ شکل زمانہ نزول قرآن میں نبی اکرم اور جماعت مومنین میں رائج تھی۔ قرآن کریم میں صلوٰۃ اور حج ہی وہ ”تقاریب“ ہیں جن میں محسوس ارکان (Form) کی تھوڑی سی شکل باقی رکھی گئی ہے۔“

(حالانکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی تقسیم بیان نہیں کی گئی کہ کوئی عمل اپنی اصل میں کچھ اور ہے اور شکل (Form) کے لحاظ سے کچھ اور ہے۔ قرآن کریم نے ہر عمل کے لیے اپنی ہدایات دو ٹوک انداز میں دی ہیں۔ چاہے عاقلی زندگی ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو یا عبادات سے متعلق احکام ہوں۔ اب اوپر سجدہ کے بارے میں پرویز صاحب نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے ہم اس آیت کو پورا درج کرتے ہیں۔ تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ عمل (سجدہ اور صلوٰۃ) اپنی تھوڑی سی شکل (Form) میں بیان ہوا ہے یا فی الواقع مقصود بالذات ہے۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرْتُمْ أَنْ
يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ط إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ
لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَحَلُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ مَ وَتَسَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَتَعُوذًا وَوَعْدًا ۗ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ه (4/101-103)

”اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جب تم ان میں ہو تو ان کے لیے نماز

کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مارتیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔“

(اگر صلوة کی اس صورت کی تھوڑی سی شکل (Form) باقی رکھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ یہ عمل مقصود بالذات نہیں اس لیے اسے حالت جنگ، حالت سفر اور حالت مرض میں چھوڑ دو۔ اور اصل کام کئے جاؤ جب اطمینان کی حالت آجائے تو پھر دوبارہ یہ شکل (Form) پوری کر لینا۔ لیکن اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بات وہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے کہ جتنی بھی ہنگامی صورتحال ہو۔ فریضہ، صلوة اپنی اسی شکل میں ہر حال میں پورا کر کے رہنا ہے۔ مصنف)

”یہ دونوں چیزیں (صلوة اور حج) اجتماعی عمل ہیں۔ اور اجتماعی عمل کے لیے ویسے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی محسوس شکل میں یک جہتی اور ہم شکلی ہو۔ اجتماعی عمل میں اگر ہر فرد اپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے، حرکات و سکنات کرے تو اس سے جس قدر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ان امور کی مزید تفصیل صلوة کے عنوان (باب ص۔ ل۔ و) میں ملے گی۔“

(اب پچھلے پیرا میں پرویز صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدُوا (4/102) سجدہ سے مراد نماز کا وہ سجدہ ہے جس میں انسان سچ مچ اپنا سر خدا کے سامنے جھکاتا ہے۔ لیکن اپنی تعقل پسندی اور مادہ پرستی کی بنا پر اتنی سی (Form) بھی ہضم نہیں کر پار ہے۔ یہ بات ایک حقیقت

ہے کہ پرویز صاحب کے نزدیک صرف وہ عمل قابل تسلیم ہے جو انسانی عقل کے احاطے میں آئے اور اس کا کوئی محسوس مادی نتیجہ ظاہر ہو۔ اب سجدہ و دیگر عبادات عقل کے دائرے سے ماوراء ہیں یعنی عقل منطق کی رو سے یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کسی بھی ہستی کو سجدہ کیا جائے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہ آئے۔ یعنی ایسا نتیجہ جیسے فٹ بال کو ٹھوکر لگائی تو وہ بہت دور جاگرا۔ درخت پر زور سے لاٹھی ماری تو پتے نیچے گرنے لگے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ جل اٹھا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سجدہ ایسے مادی نتائج پیدا نہیں کرتا۔ یہ تو مالک کا حکم ہے اور حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب اگلے پیرا میں پرویز صاحب نے سجدے کی تھوڑی سی شکل (Form) کو بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے اور اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ مصنف)

”لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کا اس طرح خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے جذبہ اور ارادہ کا محسوس مظاہرہ ہوگا کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی وہ خدا کی کامل اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ اگر اس کا محسوس سجدہ اس کے پر خلوص جذبہ کا بے ساختہ مظہر نہیں اور محض (Form) ہی (Form) ہے تو اس سجدے کے کوئی معنی نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ-- (2/177) نیکی اور کثاد کی راہ یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی اور کثاد کی راہ اسکی ہے جو خدا، آخرت، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ اور مال و دولت کو اس کی محبت کے باوجود، قرابت داروں، تیبہوں، مساکین، ابن السبیل اور محتاجوں اور محکوموں کو دیتا ہے۔۔۔“ یعنی صلوة در حقیقت انسان کے جذبہ فرماں پذیری اور اطاعت کی محسوس مظہر ہے۔ اگر انسان خدا کی اطاعت تو نہ کرے اور صرف اس محسوس شکل کو مقصود بالذات سمجھ لے، تو خدا کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس، قرآن کریم کہتا ہے کہ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ هَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ه لا الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ه وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ه (107/5-7) ان نمازیوں کے لیے بتایا ہے جو اپنی نماز کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نماز کے ظاہرہ ارکان کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ادا کرتے ہیں (اور سمجھ لیتے ہیں کہ صلوة کا فریضہ ادا ہو گیا۔ عملاً ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ) رزق کے ان

سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح ہر ایک تک پہنچنا چاہیے (بند لگا کر) روک رکھتے ہیں۔“ اس
 سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی رو سے سجدہ سے کیا مفہوم ہے۔“ (لغات القرآن 844-848)
 یہ تھا پرویز صاحب کا تصور سجدہ کے بارے میں، اب ذیل میں ہم چند آیات قرآنیہ کا جائزہ لیتے
 ہیں جن سے صرف طبعی سجدہ مراد ہے اور کوئی اور مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔

۱۔ اَمَّنْ هُوَ قَانَتْ اِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ (39/9)
 ”بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہے رات کی گھڑیوں میں اور سجدے کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے خطرہ رکھتا
 ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔“

۲۔ وَعَهْدْنَا اِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْكٰفِيْنَ وَالرُّكْعِ
 السُّجُوْدِ ۗ (2/125)

”اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے
 والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔“

۳۔ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۗ ۝ صَلٰۗةً وَّمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَاَسْبِغْ لِيْكَ اَطْوٰى يَدَيْكَ
 (76/25-26)

”اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا صبح و شام، اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدے کرو اور زیادہ
 حصے میں اس کی تسبیح کرو۔“

۴۔ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُوْنَ ۗ (22/77)

”اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو تاکہ تم فلاح
 پا جاؤ۔“

۵۔ فَاسْجُدْ لِلّٰهِ وَاَعْبُدْهُ ۗ (53/62)
 ”پس سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کرو۔“

۶۔ وَّمِنَ اَيِّهِ الْاَيُّلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ط
 وَاَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۗ (41/37)

”اور اس کی نشانیوں میں ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔“

۷۔ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝ (3/43)

”اے مریم! بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔“

۸۔ وَالَّذِيْنَ يَبْتُغُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ (25/64)

”اور جو لوگ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور قیام میں۔“

۹۔ وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتْ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلَتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ

مَنْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۝ (4/102)

”اور جب تو ان میں ہو تو ان کے لیے نماز کھڑی کر، پس ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ پس جب وہ سجدہ کر چکیں تو تیرے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔“

۱۰۔ وَجَدْتُهُمْ وَاَوْمَهَاۗتُھُمْ سٰجِدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (27/24)

”میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہوئے سورج کو، اللہ کو چھوڑ کر۔“

۱۱۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشْدٰٓءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

رُكَّعًا سٰجِدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا نَّسِيْمًا ۝ هُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ ۝ ط

----- (48/29)

”محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور خوشی کی تلاش میں۔ ان کے چہروں پر نشانی ہے سجدے کے اثر سے۔“

یہ آیات درج ذیل نکات کی وضاحت کرتی ہیں۔

۱۔ رات کو سجدہ۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں رات کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر سجدہ کا معنی حکم ماننا نہیں لیے جاسکتے۔ کیونکہ حکم کے لیے زمان کی شرط غیر ضروری ہے۔

۲۔ اللہ کے گھر میں سجدہ۔ اسی طرح حکم ماننے کے لیے کسی مخصوص مکاں، جگہ کی شرط غیر ضروری

ہے۔ کیونکہ حکم کا ماننا ہر جگہ اور ہر وقت لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مخصوص جگہ کا اشارہ کر کے سجدہ کے مروجہ مفہوم کی تصدیق کر دی۔

۳۔ رکوع، سجدہ، عبادت، بھلائی کے کام۔ اس آیت میں ان تصورات کی علیحدہ شناخت کر کے واضح کر دیا کہ ان سب کا ایک ہی مطلب نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ سب علیحدہ چیزیں ہیں۔ ان سے اطاعت و محکومیت، فرماں پذیری کا مطلب مترشح نہیں ہوتا۔

۴۔ شمس و قمر کو سجدہ۔ یہاں پر سجدہ کا لفظ استعمال کر کے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ اور وہ سجدہ، سر کا زمین پر ٹیکنے کا ہی تھا۔ نہ کہ سورج اور چاند کی اطاعت یا محکومیت کا۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ وہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کریں بلکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔

۵۔ اللہ کو چھوڑ کر سجدہ۔ یہاں پر سجدہ کے مفہوم کو مروجہ معنی میں اس انداز سے واضح کیا ہے کہ اس کی تردید ممکن نہیں۔ یعنی جیسا ”سجدہ“ سورج اور چاند کے لیے ہے ویسا ہی ”سجدہ“ اللہ کے لیے ہے۔ **مِنْ دُونِ اللّٰهِ** کے الفاظ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ ناممکن ہے کہ ہم شمس و قمر کے لیے تو ”سجدہ“ سے مراد زمین پر سر کا لگانا لیں اور اللہ کے لیے اطاعت، فرماں پذیری، محکومیت۔ آیت کا متن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔

۶۔ سجدے کا نشان۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مومنین کے چہرے سجدہ کرنے کے اثر سے مخصوص نشان کے حامل ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں اس کے لیے ”محراب“ کا لفظ مستعمل ہے۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ کسی نظام کی اطاعت اور محکومیت سے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ بلکہ پیشانی کو زمین پر رکھنے سے ہی وہ نشان پیدا ہوتا ہے۔

پس قرآنی آیات اپنے مطالب و مفہوم کے لیے کافی ہیں ان کے مجازی معانی کی آڑ میں مفہوم بدلنے کے کوشش کسی کے ذاتی جذبات، مزاج اور میلان کی تسکین تو کر سکتی ہے مگر اس سے جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔

۴۔ مسجد۔ مسجد کے بارے میں ہمیں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سارا عالم اسلام

جانتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے اور قرآن کریم نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ لیکن پرویز صاحب جو ہر چیز کی مادی توجیہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

”الْمَسْجِدُ پِيشَانِي كُو كِهْتِي هِي۔ جُو زَمِيْن پَر رَكْهِي جَاتِي هِي۔ اُوْر الْمَسْجِدُ اس جگہ كو جهاں سَجْدَه كِيا جَائِي۔ يِه اسم ظَرْف هِي۔ جِس كِي مَعْنِي سَجْدَه كَرْنِي كِي جگہ اُوْر سَجْدَه كَرْنِي كَا وَقْت، دُونُوں هُو سَكْتِي هِي۔ سُوْرَة كَهْف ميں هِي كِه لُوگوں نِي اِن نُو جَوَانُوں كِي غَار كِي مَقَام پَر مَسْجِد بِنَادِي (18/21) لِيَعْنِي وَه مَجَاهِدِيْن تَهِي۔ لِيَكِن بَعْد ميں لُوگوں كِي نْكَاهُوں سِي يِه تَصْوُور تُو اُوْر جَهْل هُو كِيا اُوْر (جِيسا كِه اَكْثَر هُو تَا هِي) اِن كِي يَادِگار ميں اِيَك خَانْقَاه يَا مَقْبَرَه تَعْمِيْر كَر دِيَا جُو سَجْدَه گَاه، اِنَام بِن كِيا۔ سُوْرَة بَنِي اِسْرَائِيْل ميں يَهُودِيُوں كِي هِيكَل كُو مَسْجِد كِه كَر پُكَارَا كِيا هِي۔ (17/7) سُوْرَة التَّوْبَه ميں نَبِي اَكْرَمُ كِي عَهْد مَبَارَك كِي اِس مَسْجِد كَا بَهِي ذِكْر هِي جِس كِي بِنِياد تَقْوَا ي پَر رَكْهِي گِي تَهِي (9/109) اُوْر اِس كَا بَهِي جِس كَا مَقْصِد مُسْلِمَانُوں ميں تَفْرُقَه پِيْدا كَرْنَا تَهَا۔ اُوْر جِسِي قُرْآن كَرِيْم نِي كَفْر سِي تَعْبِيْر كِيا هِي۔ اُوْر خُدَا اُوْر رَسُوْل كِي خِلَاف جَنگ كَرْنِي وَالُوں كِي لِيِي پَنَاه گَاه كِه كَر پُكَارَا هِي۔ (9/107) قُرْآن كَرِيْم نِي فَرْقَه بِنْدِي كُو شَرِك قَرَار دِيَا هِي (30/31) اُوْر وَاضِح طُور پَر كِه دِيَا هِي كِه مُشْرِكِيْن كُو اِس كَا حَق حَاصِل نِهِيں كِه وَه ”اللّٰهُ كِي مَسْجِدُوں“ كُو اَبَاد كَرِيں۔ اِس نِي اَعْلَان كَر دِيَا كِه **وَ اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحْدَاَه** (72/18) مَسْجِدِيں سَرَف اللّٰهُ كِي لِيِي هِيں۔ سُوَال اللّٰهُ كِي سَاتَه كِسي اُوْر كُونِه پُكَارُوْ۔ فَرْقَه بِنْدِي شَرِك اِس لِيِي هِي كِه اِس ميں خَالِص خُدَا كِي اطَاعَت نِهِيں هُو تِي۔ خَالِص تُوَانِيْن خُدَا وَندِي كِي اطَاعَت كَرْنِي سِي اَمْت ميں اَخْتِلَاف اُوْر تَفْرُقَه پِيْدا هُو يِهِي نِهِيں سَكْتَا كِيُونَكِه قُرْآن كَرِيْم نِي اِپْنِي مَخْتَاب اللّٰهُ هُو نِي كِي دَلِيْل يِه دِي هِي كِه اِس ميں كُوْنِي اَخْتِلَافِي بَات نِهِيں۔ جِس طَرَح سَجْدَه سِي مَرَاد سَرَف سَر كُو زَمِيْن پَر رَكْهْنَا نِهِيں بَلَكِه اِس سِي مَفْهُوم تُوَانِيْن خُدَا وَندِي كِي سَامْنِي سَر جَه كَا دِيْنَا بَهِي هِي۔ اِسي طَرَح مَسْجِد سِي مَرَاد بَهِي بِالْخُصُوْص وَه عِمَارَت نِهِيں جِس ميں نَمَاز اَدَا كِي جَاتِي هِي۔ اِس سِي مَرَاد وَه مَقَام هِي جُو اِس نِظَام كَا مَرَكُز هُو۔ جِس كِي رُو سِي تُوَانِيْن خُدَا وَندِي كِي اطَاعَت كِي يَا كَرَائِي جَائِي۔ كَعْبِي كُو جُو مَسْجِد الْحَرَام كِهَا كِيا هِي (48/27) تُو اِس جِهْت سِي نِهِيں كِه وَه اِيسِي عِمَارَت هِي جِس ميں سَجْدَه كِيا جَاتَا هِي۔ بَلَكِه اِس لِيِي كِه وَه خُدَا كِي نِظَام تُو حِيْد كَا مَرَكُز هِي۔ وَه اِس اَمْت كَا مَرَكُز مَحْسُوْس هِي۔ جِس كِي خُصُوْصِيْت **مُسْلِمَةً لَّكَ** (2/128) بَتَائِي گِي هِي۔ لِيَعْنِي تُوَانِيْن خُدَا وَندِي كِي سَامْنِي جَهْلَكْنِي

والی۔ چونکہ نبی اکرم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد، مدینہ کو حکومت خداوندی کا مرکز قرار پانا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں (شب ہجرت کے تذکرہ کے سلسلہ میں) مدینہ کو مسجد اقصیٰ (دور کی مسجد) کہہ کر پکارا گیا ہے۔ **سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَسْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اَیْنِنَا ط (17/1)** وہ ذات جو نقائص سے بہت دور ہے جو اپنے بندے کو ایک رات، مسجد الحرام (مکہ) سے اس مسجد کی طرف لے گیا جو (مکہ سے) بہت دور تھی۔ جس کے ماحول کو ہم نے با برکت بنایا تھا۔ تاکہ ہم اسے اپنی آیات (نشانیوں) دکھائیں۔“ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ سورۃ طہ میں جہاں حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ **لِنُرِیْکَ مِنْ اَیْنِنَا الْکُبْرٰی (20/23)** ”تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں دکھائیں۔“ یہ آیات، آویزش حضرت موسیٰ اور فرعون میں حضرت موسیٰ کی کامیابی تھی۔ یہی وہ آیات خداوندی تھیں جن کا مظہر، ہجرت کے بعد، مدینہ کو بنانا تھا۔ یعنی جماعت مومنین کا باطل قوتوں پر غلبہ اور کامرانی۔“

درج بالا جیسا سے یہ واضح ہے کہ پرویز صاحب نے اپنے ذاتی مفہوم کی فوقیت کے لیے کس قدر بین اور ٹھوس حقائق کا بطلان کیا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسم معرفہ کا لغوی آپریشن کر کے مفہوم تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن پرویز صاحب نے مسجد اقصیٰ کو ”دور کی مسجد“ مسجد الحرام کو ”مکہ“ اور سجدہ کی جگہ کی بجائے نظام توحید کا مرکز قرار دے کر صریحاً مفہوم بدل دیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں۔

”اس سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ مسجد کی عمارت بھی صرف نماز پڑھنے کے کام کے لیے مخصوص نہیں۔ اس میں اسلامی مملکت کے مختلف امور سرانجام دیئے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی رو سے ”عبادت“ اور عام دنیاوی امور میں فرق ہی نہیں کیا جاسکتا۔ عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں۔ (دیکھئے عنوان ع۔ ب۔ د) اور دنیا کا کوئی کام جو قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے عبادت ہو جاتا ہے۔ اجتماع صلوٰۃ بھی چونکہ قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ اس لیے وہ بھی عبادت ہے۔ ”عبادت“ کے لیے کسی ایسے الگ مکان کی ضرورت نہیں جس میں اور کچھ نہ کیا جاسکے۔“ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”سورۃ الفتح میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ کے متعلق ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا (48/29) ”تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔“ یہاں رکوع اور سجدہ کے حقیقی معنی لیے جائیں تو مطلب اجتماع صلوٰۃ کے رکوع و سجود ہونگے۔ اور اگر مجازی معنی لیے جائیں تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے بھٹکے ہوئے اور اطاعت شعاری میں سر تسلیم خم کئے ہوئے ہونگے۔ اس کے بعد ہے۔ سَبِمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (48/29) اس کے عام معنی ہیں۔ ”ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ظاہر ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ تو انہیں خداوندی کی کامل اطاعت سے ان کے قلب میں جو اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے کہ انسان کی داخلی کیفیات و جذبات کا اثر، اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے يُعْرِفُ الْمُحْجَرِ مُؤَنِّ بِسَيِّئِهِمْ (55/41) مجرم اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ اس میں اسی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ اطاعت خداوندی سے قلبی سکون کی کیفیت مینائے رخ سے جھلک کر باہر آ جاتی ہے۔“ (لغات القرآن 848-851)

یہ تھا پرویز صاحب کے نزدیک مسجد کا مفہوم۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات پیش کرتے ہیں جو مسجد کے مقام و مفہوم کو واضح کر دیں گی۔

اسْقُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ (7/29)

”آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا۔ اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے۔“

۲- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ (2/114)

”اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کئے جانے کو

روکے اور انکی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔
ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔“

۳۔ وَلَا تَبْأَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط (2/187)

”اور عورتوں کے پاس اس وقت نہ جاؤ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔“

۴۔ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَهَلَمَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط (22/40)

”اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد ویران کر دیئے جاتے جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔“

۵۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ه (72/18)

”اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔“

ان آیات سے واضح ہے کہ مسجد اللہ کے ذکر، اللہ کے پکارنے اور اعتکاف و دیگر عبادت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ صرف اللہ کا نام لینے، اس کے سامنے جھکنے اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے خالص ہے۔ ایسا کرنا صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ مومن صرف اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ کسی اور کے آستانے پر نہیں جاتا۔ باقی رہا مسجد کے نظام خداوندی کے مرکز ہونے کا تعلق۔ تو ایسا کرنا اسلام کا مقصود ہی نہ تھا۔ کیونکہ نبی کریمؐ نے بھی فتح مکہ کے بعد مرکز حکومت مدینہ منورہ کو ہی رکھا۔ اور دیگر خلفا و سلاطین نے بھی حکومتی و انتظامی سرگرمیوں کا مرکز مکہ کو نہیں بنایا۔ کیونکہ حکومت کی انتظامی مشینری کی نوعیت رابوٹ کی طرح نہیں ہوتی۔ اس میں بہر طور انسان ہی داخل ہوتے ہیں اور لامحالہ خرابی کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ جیسا کہ دور خلافت کے بعد ہوا۔ اگر مکہ انتظامی مرکز ہوتا تو اس کی حرمت و تقدس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ لیکن یہ بات برحق ہے کہ چودہ سو سالوں میں کیسے کیسے دور آئے لیکن مکہ المکرمہ اور مساجد اسلامیہ کی حرمت و تقدس ہر دور میں باقی رہی۔ اس لیے مساجد کی نوعیت اور اہمیت اساساً مذہبی ہے۔ اس کو مادی نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا گیا تو اس کے متعلق بھی قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اَوْ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنَّا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلِّىً ط وَعَهْدُنَا
 اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتُنَا لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ه وَاِذْ قَالَ
 اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهٗ مِنْ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط
 قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَا مَتَعَهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ ط وَ بِغَسِّ الْمَصِيْرِ ه وَاِذْ يَرْفَعُ
 اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعٖلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ه رَبَّنَا وَ
 اجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ م وَاٰرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ
 اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ه (2/125-128)

”ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو
 جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں
 اور رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا۔ اے پروردگار! تو
 اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے
 والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں کافروں کو بھی تھوڑا دوں گا۔ پھر انہیں
 آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم اور اسمعیل کعبہ کی
 بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے۔ اور کہتے جارہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول
 فرما۔ تو یہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری
 اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ
 قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

۲- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ ؕ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
 يَّطُوْفَ بِهَمَا ط وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ه (2/158)

”صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے ان کا
 طواف کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدر دان ہے۔ اور
 انہیں خوب جاننے والا ہے۔“

۳- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلًا لِّلنَّاسِ وَ الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلَاجِدَ ط ذٰلِكَ

لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (5/97)

”اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہیں اس لیے تا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔“

۴- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِطُ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ۚ وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۚ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا ۚ لِلْيَاقِسِ الْفَقِيرِ ۚ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفْتَهُهُمْ وَيَأْوِفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَمِيقِ ۝ (22/25-29)

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیمؑ کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے! لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دو دراز کی تمام راہوں سے آئیں۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں۔ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل پکیل دور کریں۔ اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔“

ان آیات سے ظاہر ہے کہ کعبہ صرف مناسک اسلام کے پورا کرنے کا مرکز ہے نہ کہ حکومتی مشینری کے نظام کا۔ اسی طرح مسجد بھی صرف اللہ کے آگے سر جھکانے کا مرکز ہے۔

درج بالا موضوعات سے ہم نے دیکھا کہ اصطلاحات کا کبھی بھی لغت اور مادے کے لحاظ سے معنی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ آیات کا سیاق و سباق یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے پرویز صاحب نے اسلامی اصطلاحات کو لغت اور مادہ کی آڑ میں جو مفہوم پہنانے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔

تضاد

قرآن کریم کی ایک آیت ہے **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ه** (4/82)

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔“

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تضاد موجود نہیں ہے۔ اور چودہ سو سال میں کسی بھی فرد انسانی کو ایسی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ قرآن کریم میں اختلاف موجود ہے۔ اب پرویز صاحب نے قرآن فہمی کے جو اصول متعین کئے ہیں ان میں ایک یہ ہے۔۔۔

” (د) سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن کریم کی پوری تعلیم کا مجموعی تصور سامنے ہونا چاہیے اور اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے۔ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں“ (لغات القرآن 17)

حیرت کی بات ہے قرآن کریم یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور پرویز صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ”اس کے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے۔“ یعنی جہاں اختلاف نظر آئے وہاں اس آیت یا تصور کا مفہوم ایسا بیان کیا جائے جو قرآن کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ یا للجب! حالانکہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا مفہوم وہی بیان کیا جاسکتا ہے جو اس آیت کا مفہوم بنتا ہے۔ اس میں کسی بھی فرد انسانی کو

اختیار حاصل نہیں کہ وہ متعلقہ مفہوم چھوڑ کر کوئی اور مفہوم بیان کر دے۔ اور نہ ہی عربی زبان کے قواعد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرنا صریحاً گناہ ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے جیسے قرآن کریم کی دیگر اصطلاحات اور مفردات کا مفہوم بدلا ہے وہ ایسا کرنے سے بالکل نہیں چوکتے۔ آئیے اس کے متعلق ان کے رویے کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

”مَنْ يَشَاءُ“ عقیدہ جبر کی سند اور تائید میں جو آیات شہود سے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ وہ ہیں جن میں مَنْ يَشَاءُ کے الفاظ آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”جسے چاہے“ مثلاً يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (16/93) ”وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔“ یا ”فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (2/284) وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔“ یا ”يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (17/30) وہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔“ وغیرہ۔ اگر اس قسم کی آیات کے وہی معنی لئے جائیں جو ان کے عام ترجموں کی رو سے متعین ہوتے ہیں تو یہ انہی مضامین سے متعلق قرآن کی بے شمار دیگر آیات کے خلاف جاتی ہیں۔ مثلاً ہدایت و ضلالت کے متعلق ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (18/29) ان سے کہہ دو کہ حق خدا کی طرف سے آگیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ عذاب و مغفرت کے متعلق بی شمار مقامات میں کہا گیا ہے۔ کہ حَزَاءٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ رزق کی بسط و کشادہ وغیرہ کے سلسلہ میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (53/39) انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔

جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے۔ اگر مَنْ يَشَاءُ سے متعلق آیات کے معنی یہ لیے جائیں کہ ”وہ جسے چاہتا ہے“ دے دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گی۔ اور (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے) قرآن کریم نے اپنے مَنْ جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے۔ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا مذکورہ صدر آیات باہم گمراہ نہیں ہو سکتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔

عربی زبان کے قاعدے کی رو سے مَنْ يَشَاءُ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ”جسے اللہ چاہے“ اور دوسرے یہ کہ ”جو شخص ایسا چاہے“ مثلاً يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو شخص ہدایت لینا چاہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے اور جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ رہتا ہے۔ اسی طرح رزق سے متعلق آیت کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اسے رزق کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے۔ جو اپنے لئے رزق کی تنگی چاہے۔ اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں چاہے گا کہ اس کی روزی تنگ ہو جائے۔ مصنف)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں معانی میں ترجیح کن معانی کو دی جائے گی۔ سو اس کا جواب آسان ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو قرآن کریم کی دیگر آیات اور اس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور، قانون مکافات عمل ہے۔ یعنی انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے۔ لہذا ان آیات کا وہی مفہوم قرآنی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ جس میں مَنْ يَشَاءُ کا فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔“ (کتاب التقدير 218-216)

اب سوال تو یہ ہے کہ ان مقامات پر مَنْ يَشَاءُ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے تو وہاں انسان کو کیسے فاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے کونسا قاعدہ اور کلیہ موجود ہے۔ مثلاً درج ذیل آیت ہی کو لیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط (4/116)

”بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرمادے گا۔“

اب یہاں صاف ظاہر ہے کہ لِمَنْ يَشَاءُ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کی یہ توجیہ ہرگز قبول نہیں کی جاسکتی۔

اصل بات یہ ہے کہ پرویز صاحب کسی بھی چیز کا پہلے تصور قائم کر لیتے ہیں اور پھر قرآن

کریم سے اس کی سند چاہتے ہیں۔ اب ان کے بنائے ہوئے تصور اور قرآن کریم کی کسی آیت میں اختلاف ہو تو یہ چیز انہیں قرآن کریم میں تضاد معلوم ہوتی ہے۔ اب گمراہی اور ہدایت کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات پر غور کرتے ہیں۔ جس سے واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بالجبر کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

۱- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّضْرَبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ؕ (2/26)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اسی کے ساتھ بیشتر لوگ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔“

۲- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۗ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ (14/27)

”ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کئی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالم لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔“

۳- اَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوْءَ عَمَلِهٖ فَرَاهٖ حَسَنًا ط فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ لَوْلَا تَذٰهَبَ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يُّصْنَعُوْنَ ؕ (35/8)

”کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہئے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔“

۴- وَاَلْقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَ كُمْ بِهٖ ط حَتّٰى اِذَا هَلَكْتُمْ كُنْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

۵۴ وَالَّذِينَ يُحَادِّثُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ طَكْبَرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ
 آمَنُوا طَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ۝ (40/34-35)

اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسفؑ روشن دلیلیں لے کر آئے۔ پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی، تو تم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔“

۵۵- ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيَنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۚ لَمِنَ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
 نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا طَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝ (40/73-74)

”پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک / گم گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔“

۶- وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً مِّنْ وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِيَسْتَيَقِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
 مَثَلًا طَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ط
 مَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۝ (74/31)

”ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی۔ تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان دار ایمان میں بڑھ جائیں۔ اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کافروں سے کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے

لیے سراسر نصیحت ہے۔“

۷۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اِنَّ اللّٰهَ الْمَلِكَ ؕ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّى الَّذِى
يُحْيِ وَيُمِيتُ لَا قَالَ اَنَا اَحْيِ وَاُمِيتُ ط قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِى بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ؕ (2/258)

”کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیمؑ سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔
جب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور
مارتا ہوں، ابراہیمؑ نے کہا اللہ تعالیٰ سورج مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب
سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

۸۔ يَاٰ يٰهٰذَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ ط وَاللّٰهُ
يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ؕ (5/67)

”اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔
پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اور اللہ آپ کو لوگوں
سے بچالے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

۹۔ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّبْتَئُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهَيْهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرُدَّ اِيْمَانًا ؕ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ
ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ؕ (5/108)

”یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں
کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالیٰ
فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

۱۰۔ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُوَدُّوْنَ لِىْ تُوَدُّوْنَ لِىْ وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط فَلَمَّا
زَاعَوْا اَزٰغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ؕ (61/5)

”اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستارہے ہو۔
حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی
رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

درج بالا آیات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی دینے کی قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی دے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کیسے لوگوں کو گمراہی۔ اس لیے ہمیں ان رویوں پر غور کرنا چاہئے جو ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز بھی مد نظر رہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جبر کا دخل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے کچھ آیات ملاحظہ کرتے ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (2/2) اس آیت سے علم ہوا کہ ہدایت متقین کو ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 26 میں جامع بات بتادی گئی ہے کہ ہدایت و گمراہی کن لوگوں کے لیے ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ (2/26) یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ چھری ہو یا اس سے بھی ہلکی کسی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اسی کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِیْ حٰجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رِیْبَةٍ اَنْ اَنۡتَ اللّٰهُ الْمَلِکَ ۝ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحٰی وَیُمِیْتُ لَا قَالَ اَنَا اُخِیْ وَاُمِیْتُ ط قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یٰتِیْ بِالسَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَآتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبِیْهِتِ الَّذِیْ كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ (2/258) کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیمؑ سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ جب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیمؑ نے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَبۡطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالۡمَنِّ وَالۡاَذٰی لَا كَآلِذِیۡۤیۡنِۡ یُنۡفِقُوۡا مٰلَهُمْ رِیَآءَ النَّاسِ وَ

لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
 صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ه (2/263)
 اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا
 مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، نہ قیامت پر۔ اسکی
 مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو۔ پھر اس پر زور دار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل
 صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اور اللہ تعالیٰ
 کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
 الْبَيِّنَاتُ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ه (3/86) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا۔
 جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے
 بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ
 يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ه (5/16) ہدایت دیتا ہے انہیں اللہ اس (قرآن) کے ذریعے
 جو پیروی کرتے ہوں اللہ کی رضا کی، سلامتی کی راہوں کی طرف اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے
 نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ
 يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ه (5/51) اے ایمان والو!
 یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو
 بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہیں میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز
 ہدایت نہیں دیتا۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط وَاللَّهُ
 يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ه (5/68) اے رسول! جو بھی آپ
 کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا

تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچالے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۙ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (9/24) کہہ دو! اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو۔ اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ۗ (13/27) کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان (معجزہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ جواب دیجئے! کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۗ (42/13) اللہ نے تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کر دی ہے۔ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جو بذریعہ وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی۔ اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور فرقہ بندی نہ کرنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا برگزیدہ بناتے ہیں۔ اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی راہنمائی کرتا ہے۔

اس مضمون کی بے شمار آیات قرآن میں آئی ہیں۔ لہذا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے جن میں تقویٰ ہو، اناہت ہو۔ اور گمراہ انہیں کرتا ہے جو ظالم ہوں،

فاسق ہوں۔

اب آئیے اس آیت کی طرف جسے پرویز صاحب نے وجہ اعتراض بنایا ہے یعنی (16/93)۔ پرویز صاحب نے درمیان سے ایک ٹکڑا اٹھا کر درج کر دیا ہے۔ ہم پوری آیت بیان کرتے ہیں۔

”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَ تَسْتَعْلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه (16/93)

اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔“
اس آخری ٹکڑے نے بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ باز پرس تو اس شخص سے ہی ہو سکتی ہے جو کوئی طاقت اور اختیار رکھے۔ اگر کوئی اختیار والا ہی نہ ہو تو پھر باز پرس کیسی؟ نیز جہاں تک جبر کا تعلق ہے تو آیت کا پہلا ٹکڑا یہ بتلا رہا ہے کہ اگر جبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جبر استعمال نہیں کیا۔ اب درمیان میں جو چیز یعنی جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی دے کا تعلق ہے تو اس کا معیار اوپر بیان کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے۔ (2/284)

”لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تَبَدَّلُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ه (2/284)

آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اب اس آیت میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ تو (معاذ اللہ) ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو عام سمجھ کی بات ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا جوابدہ ہے پھر جس کے اعمال اس قابل ہوئے تو وہ بخش دیا جائے گا اور جس کے اعمال اس قابل نہ ہوئے وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہاں بھی ”جسے چاہے“ کا تعلق ان معیارات سے ہے جو

اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط (4/116)﴾

بیشک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرماوے گا۔“

اب شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ بخشنے کا تو وہ (معاذ اللہ) کسی ظالم بادشاہ کی طرح نہیں کہ جس کے چاہے گناہ بخش دیئے اور جس کے چاہے نہ بخشنے۔ بلکہ قرآن کریم میں اس کے معیار بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور سارا قرآن تو انسانوں کو اچھے اعمال کی ترغیبات سے بھرا پڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا رویہ انسانوں جیسا نہیں کہ جرم ہو تو فوراً سزا دے دو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی رسی کو ڈھیلا کرتا جاتا ہے۔ کہ شاید کسی مقام پر جا کر کوئی شخص اپنے کئے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب تو ہر انسان کے اعمال کا حساب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور وہی قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی۔ اس لیے ہمیں چاہئے کہ دل میں کوئی بار ڈالے بغیر قرآن کریم میں بیان کردہ خدا تعالیٰ کی ہر بات کو من و عن تسلیم کر لیں اور پھر سچے دل سے راہ حق کی جستجو میں لگ جائیں۔ مسائل وہاں پڑتے ہیں جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ”کیا، کیوں اور کیسے“ جیسے سوالات رکھ دیتے ہیں۔ مثبت طرز عمل ہی سیدھی راہ کی جانب راہنمائی کر سکتا ہے۔ اور منفی انداز فکر تو گمراہی کی پتلیوں میں لے جاتا ہے۔ اوپر بیان کردہ موضوعات کو مثبت انداز میں لیں تو کوئی پیچ و خم دکھائی نہیں دیتا۔ مگر منفی طرز عمل سے وکیلا نہ انداز اختیار کر کے آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں پاسکتے۔

اس لیے پرویز صاحب کا یہ موقف درست نہیں کہ مروج اصول و قواعد گمراہی کے مطابق ترجمہ کرنے سے قرآن کریم کی آیات میں تضاد آ جاتا ہے۔ اس لیے تضاد سے بچنے کے لیے اصول و قواعد سے ہٹ کر ترجمہ یا مفہوم بیان کر دیا جائے۔ (معاذ اللہ) میں تو اسے بہت بڑی جسارت سمجھوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چودہ سو سال سے قرآن کریم سمجھانے کا انداز اور تراجم عربی زبان کے موجود قواعد کے مطابق ہی ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے چیلنج کے جواب میں آج

تک کسی انسان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ قرآن کریم میں تضاد ہے۔

مصطحکہ خیر طرز استدلال

علامہ غلام احمد پرویز صاحب کا یہ عمومی انداز ہے کہ وہ حوالہ جات کی آیات مکمل بیان نہیں کرتے۔ بلکہ ایک آیت میں سے کوئی ٹکڑا چن لیتے ہیں اور اسے بطور دلیل استعمال کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو یہ چیز نظر انداز کی جاسکتی ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حوالہ کی آیت کا وہ مفہوم نہیں بنتا جو پرویز صاحب زبردستی بیان کر دیتے ہیں۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں

۱۔ ”خارجی کائنات میں خدا کی ربوبیت خدا کے قانون کائنات کی رو سے از خود کار فرما ہوتی جاتی ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ ربوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ جو نظام (حکومت) خدا کے نام سے قائم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر پر لیتا ہے۔ جو خدا کی طرف منسوب ہیں۔ اور اس کے بدلے میں افراد معاشرہ وہ تمام فرائض و واجبات پورے کرتے رہتے ہیں۔ جن کا عہد انہوں نے اپنے خدا سے کر رکھا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ اس نظام کی اطاعت کے اس وقت تک مکلف ہوتے ہیں جب تک یہ نظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ ان نصیحتات کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** (11/6) زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہیں۔ یہ ذمہ داری اس معاشرہ کے سر ہوگی جو خدا کے قانون کے مطابق منسقل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری پرورش کا سامان اس طرح کر دیا جائے تو پھر تم رزق سمیٹ کر جمع کیوں کرو؟ تم اسی لئے جمع رکھنا چاہتے تھے کہ کل کو وقت پڑنے پر وہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ لیکن جب تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں معاشرہ اپنے سر لے لے تو تمہیں جمع کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ **(فَنَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ 17/31)** ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔“ تم اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں کمانے کی استطاعت نہ رہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے

ہوں تو اس وقت تمہاری اور ان کی پرورش کا کیا انتظام ہوگا۔ (2/266) لیکن اس نظام ربوبیت میں اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ہر ایک کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔“ (نظام ربوبیت 159-160)

پرویز صاحب نے جس آیت کے ٹکڑے کو بطور حوالہ نقل کیا ہے۔ ہم اسے مکمل طور پر درج کرتے ہیں

”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (11/6)

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔“

اب اگر یہ مان لیا جائے کہ سب جانداروں کی روزی کا ذمہ دار معاشرہ ہے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ ہر جاندار کے مستقر اور مستودع کے بارے میں بھی معاشرہ جانتا ہے۔ قطعاً نہیں! کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب اس آیت میں اسم ذات ”اللہ“ موجود ہے تو اسے ”معاشرہ“ یا ”نظام“ پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پرویز صاحب نے ایک اور آیت کا حوالہ دیا ہے۔ ہم اسے پورا سیاق و سباق کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

”وَلَا تَحْمِلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۗ إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ۗ بَصِيرًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّائِكُمْ ۗ وَإِنْ قَتَلْتُمْ أَوْلَادَكُمْ حَطًّا

کَبِيرًا ۝ (17/29-31)

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہو اور پچھتاتا ہوا بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی

اولادوں کو نہ مار ڈالو! ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔“
 اس آیت سے واضح ہے کہ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اگر معاشرہ یا
 نظام کے ذمہ ہوتا تو کوئی اپنی اولاد کو قتل نہ کرتا۔ پھر آیت کے شروع میں ”إِنَّ رَبَّكَ“ کے الفاظ
 بھی اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جس کا
 رزق چاہے کم کر دے اور جس کا چاہے زیادہ کر دے۔ وگرنہ اللہ کے لیے یہ کہنا مشکل نہ تھا کہ تمام
 جانداروں کا رزق معاشرے کے ذمہ ہے۔ اسی بات کو ایک اور جگہ مزید واضح کر دیا۔
 وَكَأَيُّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ وَاللَّهُ يَبْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۗ
 (29/60)

”اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی
 روزی دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔“
 اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں
 ہے۔ جس میں تمام مخلوقات آجاتی ہیں۔ اور اس آیت میں جانوروں کا علیحدہ سے ذکر ہے۔ اور
 انسانوں کا علیحدہ سے۔ پھر لفظ ”اللہ“ استعمال کر کے اس کام کو خاص اپنے لیے مخصوص کر لیا۔
 علاوہ ازیں قرآن کے دیگر مقامات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ
 رزق عنایت کیا ہے تو کسی کو کم۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون صرف اسی
 کے راستے پر چلتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال، جان
 اور پھلوں کے نقصان سے، پس بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر حضور کے بارے میں
 فرمایا کہ ”ہم نے تمہیں تنگ دست پایا اور پھر خوشحال کر دیا۔“ اس جیسے اور مقامات سے صاف ظاہر
 ہے کہ رزق اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔

۲۔ ”خدا اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کائنات ظہور میں آئی تھی اور اس وقت بھی خدا رہے گا جب
 یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا ”خدا کی دنیا“ اس کی تخلیق کردہ کائنات ہی نہیں۔ اس سے ماورا
 اور بھی ہے۔ قرآن کریم نے اسی جہت سے ”خدا کی دو دنیاؤں“ کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہے

عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کائنات سے ماورا ہے۔ اور دوسرا ہے عالم خلق، جو خدا کی پیدا کردہ کائنات پر مشتمل ہے۔ آلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (7/54) آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔

ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا۔ عالم امر سے نہیں۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی معلول (Effect) بغیر علت (Cause) کے وجود میں آسکتا ہے۔ اور نہ کوئی شے کسی پہلے سے موجود مسالہ (Material) کے بغیر وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ عالم امر سے نہیں۔ خدا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا۔ یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ایسی کائنات ظہور میں آنی چاہئے۔ اور پھر اس کا یہ عمل، جس سے اس نے اسے پیدا کر دیا، قانون علت و معلول اور (دنیا میں) نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جس میں کوئی قانون نہیں۔ بلکہ خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہی ’خدا کی وہ دنیا‘ ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (22/14) وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (11/107) یقیناً تیرا رب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (5/1) وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کا چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (22/18) وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (21/23) اس سے یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور سب سے پوچھا جاسکتا ہے۔‘ (کتاب التقدیر 35-36)

پرویز صاحب کا یہ تصور ہے کہ خدا کی دو دنیا میں ہیں۔ ایک عالم خلق اور دوسری عالم امر۔ عالم امر میں خدا کا اختیار پوری طرح کار فرما ہے جبکہ عالم خلق میں خدا بھی قانون کا پابند ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ پرویز صاحب نے جن آیات کے ٹکڑوں کو بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ ہم ان میں سے اوپر خط کشیدہ آیات کو پورا نقل کرتے ہیں۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ قَدْ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ آلَا لَهُ

”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلیتی ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو! اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔“

اس آیت میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام سیارے اسی کے امر (حکم) کے تابع ہیں۔ پھر یہ کہا کہ ”خالق ہونا اور حاکم ہونا اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔“ یہاں امر کا معنی حاکم (حکم دینے والا) ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے آخری ٹکڑے کا مطلب یہ بیان کر کے کہ ”آگاہ رہو! عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔“ امر (حکم) کو عالم امر بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اور پہلے وہ بحث کی جس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ پرویز صاحب نے اپنے تصور کو فوقیت دینے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو Mis-use کیا ہے۔ اس کے بعد چند مزید آیات کے ٹکڑے ہیں جن سے پرویز صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کا اختیار اور قدرت عالم امر میں ہی موجود ہے۔ آئیے ان دو آیات کو بھی دیکھتے ہیں۔

ii- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ط إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ه (5/1)

”اے ایمان والو! عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کئے گئے ہیں۔ بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے۔ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔“

iii- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ه (22/18)

”کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

اب پرویز صاحب کے قائم کردہ اپنے معیار کے مطابق بھی ان دونوں آیات کا تعلق عالم امر سے نہیں بنتا۔ کیونکہ یہ تو وہ احکام ہیں جن کا تعلق خلق سے ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کی دنیا کی ”عالم خلق اور عالم امر“ کے حوالہ سے تقسیم درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر وقت اختیار اور قدرت کی مالک ہے۔

۳۔ ”(شاہکار رسالت 384-388) مسئلہ اراضیات پر حضرت عمرؓ کی تقریر۔ [تفصیل معاشی نظام کے باب میں ملاحظہ کیجئے]“

یہ ہمارے سامنے پہلا موقع آیا ہے کہ پرویز صاحب نے صحابہ کرامؓ کی اس قدر اہم بحث کا تاریخ کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ چیز پرویز صاحب کے طرز تحریر کے خلاف ہے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع بحث ہے آیت کا وہ ٹکڑا جو پرویز صاحب کے بقول حضرت عمرؓ نے جب صحابہ کرامؓ کے سامنے پیش کیا تو کئی دنوں سے جاری ایک اہم معاملہ فوراً حل ہو گیا۔ یعنی مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے بارے میں حضرت عمرؓ کا یہ فیصلہ کہ بعد میں آنے والوں کا بھی اس میں حق ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ - آیت کے اس ٹکڑے اور واقعہ کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب کا کہنا کہ ذاتی ملکیت جائز نہیں ہے۔ ہم آیت پوری تحریر کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (59/10)

”اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔“

اس آیت میں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ كَامرَج ہے اور وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جو آگے بیان کی گئی ہے اس وَالَّذِينَ كَامرَج کچھلی آیت نہیں ہے۔ اب پرویز صاحب آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ کرتے ہیں ”اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔“ حالانکہ آیت کا نفس مضمون اور سیاق و سباق اس مفہوم کی قطعی نفی کر رہا ہے۔ اب ہم اس آیت کا مفہوم پرویز صاحب کے مفہوم القرآن سے بیان کرتے ہیں۔

”(اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ ایسے نامساعد حالات میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ لیکن) جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں (ان کا ایمان بھی بڑا محکم ہے) انکی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو ہمارے لیے بھی سامان حفاظت عطا فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں۔ اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے ذرہ بھر کدورت نہ پیدا ہونے دے۔ تو سب کے لیے حالات میں نرمی پیدا کرنے والا، اور سامان نشوونما عطا کرنے والا ہے۔“

(سورہ حشر آیت نمبر 10 مفہوم القرآن صفحہ 1297)

اب اس مفہوم میں بھی اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جو پرویز صاحب نے آیت کے اس ٹکڑے سے اخذ کیا ہے۔

۴۔ ”حضرت یوسفؑ نے قید خانہ کی چار دیواری میں جو وعظ فرمایا، وہ خدا اور بندے کے اسی تعلق کو واضح کرنے کے لیے تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں سے پوچھا کہ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (12/39) کیا الگ الگ آقاؤں کا ہونا اچھا ہے یا اللہ کا جو یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے جن کی حکومت اختیار کر رکھی ہے انہیں کوئی حق نہیں کہ انسانوں کو اپنا غلام اور محکوم بنائیں۔ ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ جیسے تھیٹر کے تماشے میں کسی کا نام بادشاہ رکھ لیا جاتا ہے۔ کسی کا نام وزیر، حالانکہ وہ فی الحقیقت بادشاہ یا وزیر نہیں ہوتے۔ یاد رکھو!

اِنَّ الْحٰكِمَ اِلَّا لِلّٰهِ (12/40) حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔

اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس سے عبادت کا مفہوم بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ کہا
أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (12/40) اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔
ان دونوں نکتوں کو پھر ملائیے یعنی (1) حکومت صرف اللہ کے لیے اور (2) اس نے
حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ (تعبدوا) ظاہر ہے کہ عبادت سے مفہوم
محمومیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ **ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ** (12/40) یہی محکم اور متوازن نظام اطاعت
(دین) ہے۔ **وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (12/40) لیکن (مشکل یہ ہے) کہ بہت سے لوگ
(اس حقیقت سے) واقف نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں
پر حکومت کرے۔ **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ جو لوگ انسانوں کو
اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں ان کی روش لاعلمی پر مبنی ہے۔ لایعلمون۔ علم آجانے کے بعد، یعنی اپنی
حقیقت اور دوسرے انسانوں کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جانے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا کے
سوا اور کسی کی حکومت کو جائز تسلیم کر لے۔“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ کا مطلب پرویز صاحب نے یہ کیا ہے کہ حکومت کا حق صرف خدا
کو ہے۔ آئیے اس آیت کو پورے سیاق و سباق میں درج کرتے ہیں۔

**وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط
ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ يَصْحَابِ
السِّحْرِ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ
سَمِيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمْرًا
لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (12/38-40)**

”میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیمؑ و اسحاقؑ اور یعقوبؑ کے دین کا، ہمیں ہرگز
یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا
یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیو! کیا
متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو
وہ سب نام ہی نام ہیں۔ فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے

اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ یہاں بات شرک کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن پرویز صاحب نے اس سے مراد حکومت یا حکومت لیا ہے۔ حالانکہ یوسف قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کی حکومت میں رہے جب آپ نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں (12/55) اور پھر ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر کی اس بادشاہ کے دین کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ (12/76) اس لیے اس وقت حکومت تو بادشاہ کی رہی۔ مگر یوسف کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارنا تھا۔ اسی لیے **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمَرَ الْأَنْعَابُ إِلَّا آيَاهُ ط** کے معنی ہیں کہ ”حکم صرف اللہ کا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“ یہاں حکومت یا حق حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

اس لیے پرویز صاحب کا یہ طرز استدلال مضحکہ خیز ہے کہ وہ آیات کے ٹکڑوں سے اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کرتے ہیں جبکہ آیت کو مکمل طور پر درج کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ تو وہ طریقہ ہوا جس کے مطابق مذاقاً (معاذ اللہ) کہا جاتا ہے کہ ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ“ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کو جان بوجھ کر غائب کر دیا جاتا ہے۔

ہم نے صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا ہے وگرنہ پرویز صاحب کے لٹریچر میں یہ طرز تحریر بہ کثرت موجود ہے۔



مجازی مفہوم

علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے لٹریچر میں قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر الفاظ کے حقیقی معانی کی بجائے مجازی معانی مراد لیے ہیں۔ اور اس آڑ میں انہوں نے قرآن کریم کے ان مقامات کے رائج مفہوم پر اپنے ذاتی خیالات و تصورات کو حاوی کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بذات خود ایک بنیاد قائم کی کہ جو بات عقل یا حواس خمسہ کے احاطہ میں نہیں آتی یا اس سے ماوراء ہے اسے یکسر مسترد کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں موجود ایسے مقامات کا مجازی مفہوم بیان کر دیا جائے جو عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ حالانکہ پرویز صاحب اپنی اکثر کتب کے تعارف میں یہ بات کہتے ہیں کہ

”میں قرآن کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ میری عمر کا بیشتر حصہ اس پر غور و فکر میں گزرا ہے۔ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ میں پہلے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کے اندر نہیں جاتا۔ میں ایک سوال کو سامنے رکھتا ہوں اور خالی الذہن ہو کر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے قرآن سے اس کا کوئی حل مل جائے۔ جو مجھے قرآن سے ملتا ہے۔ اسے قبول کرتا ہوں۔ خواہ ساری دنیا کے مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ حتیٰ کہ خود میرے اپنے معتقدات اور تصورات کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔“ (نظام ربوبیت 22-23)

اس مقام پر ہم پرویز صاحب کے خیالات میں ایک بہت بڑا تضاد دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہ پرویز صاحب داعیانِ تصوف کے پیش کردہ ”باطنی معانی“ کو شدت سے رد کرتے ہیں۔ اور ان کے ابطال میں قرآن کریم کی آیات بطور دلیل استعمال کرتے ہیں۔ مگر جب اپنا ”مجازی مفہوم“ پیش کرتے ہیں تو اس وقت نہ انہیں اہل تصوف کے باطنی معانی یاد رہتے ہیں اور نہ ان کے خلاف پیش کردہ قرآنی آیات۔ آئیے اس چیز کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ باطنی معانی کے متعلق پرویز صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے:

”قرآن کے باطنی معانی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ - ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زبان میں بھیجا لیبین لہم (14/4) تاکہ وہ ان کے لیے خدا کے پیغامات کا اظہار واضح کر دے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (42/7) (46/12) اور اس طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن نازل کیا ہے۔ تاکہ تو اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو (ان کی غلط روش زندگی کے عواقب سے) متنبہ کر دے۔ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ أَيُّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ه (41/3) ایسی کتاب جس کی آیات کھلی اور نکھری ہوئی ہیں۔ یعنی عربی زبان کا قرآن اس قوم کے لیے جو اس کا علم رکھتی ہے۔

قرآن کے ان مقامات سے واضح ہے کہ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے۔ اور اس کی زبان بھی ایسی ہے جو واضح اور صاف، کھلی اور نکھری ہوئی ہے۔ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوَاجٍ (39/28) ایسی عربی زبان جس میں کوئی پیچ و خم نہیں۔ کوئی الجھاؤ اور لپیٹ نہیں۔ یہ وہ زبان تھی جسے عرب بالعموم اور ام القری (مکہ) اور اس کے گرد و پیش کی آبادیاں بالخصوص، بغیر کسی دقت اور تکلیف کے بلا تامل و توقف سمجھتی تھیں۔ زبان الفاظ کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کے الفاظ وہ تھے جن کے معانی وہ لوگ بلا تکلف سمجھتے تھے۔ بالفاظ دیگر قرآن کے الفاظ کے وہی معانی ان لوگوں کی زبان میں مستعمل تھے۔ یہ پوزیشن تھی قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی کی ظہور اسلام کے زمانے میں۔ اس کے بعد جب ہم تاریخ کے کچھ اوراق آگے لٹتے ہیں اور اس دور میں پہنچتے ہیں۔ جب ایرانی یہودی اور عیسائی اپنے قدیم عقائد و تصورات کو ساتھ لے کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اور اس طرح مسلمانوں میں (دیگر غیر قرآنی تصورات کی طرح) تصوف بھی عام ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ایک معانی تو وہ ہیں جو اس کے الفاظ سے ظاہر طور پر متعین ہوتے ہیں لیکن دوسرے معانی وہ ہیں جو ان کے باطن میں پنہاں ہیں۔ اور یہ باطنی معانی، قرآن کے اصلی اور حقیقی معانی ہیں۔ ہمیں اس زمانے میں یہ عقیدہ ملتا ہے۔ اور جیسا کہ اس زمانے میں عام رواج ہو چکا تھا اس عقیدہ کی تائید میں اس قسم کی وضعی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ہر آیت کا ایک ظاہر مفہوم ہوتا ہے اور ایک باطنی۔ حالانکہ جو شخص (قرآن تو ایک طرف) زمانہ ظہور نبویؐ کے عربوں کے مزاج اور خصائص ذہنی پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ بھی اس

حقیقت سے واقف ہے کہ عربوں کے ہاں ”باطنی تعلیم“ کا تصور تک نہ تھا۔ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ الفاظ کے باطنی معانی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں وہ وضعی حدیثیں بھی ہیں اور صحیح بھی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ فلاں لفظ کے باطنی معنی یہ ہیں۔ بہر حال، قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس میں کوئی اشارہ تک بھی ایسا نہیں ملتا کہ اس کے الفاظ کے باطنی معنی بھی ہیں اور جب قرآن اس قسم کا تصور نہیں دیتا تو ایسی حدیثیں جن سے اس تصور کی تائید ملتی ہے لامحالہ وضعی اور جعلی ہیں۔“ (سلسبیل 145-147 ایڈیشن 1997)

اس بارے میں مزید لکھتے ہیں

”لیکن جب بعد میں یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کے عقائد و مسالک، چور دروازے سے اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ (تورات کی طرح) قرآن کے الفاظ کے بھی باطنی معانی ہیں۔ اور انہی معانی سے قرآن (بلکہ ذات خداوندی) کی حقیقت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ عقیدہ عباسیوں کے انتہائی دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن جس شخص نے اسے ایک منظم فلسفہ کی حیثیت سے پیش کیا وہ ہسپانیہ کے مشہور صوفی محی الدین ابن عربی ہیں۔ انہیں عام طور پر شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں اپنے باطنی عقائد کو بڑی شد و مد سے پیش کیا ہے۔ وہی فصوص الحکم ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ ”اس میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچھ نہیں۔“ (اقبال نامہ جلد 1 صفحہ 44)

شیخ اکبر کے ملفوظات اور یہودیوں کی کتاب زہار کو آمنے سامنے رکھے اور دیکھئے کہ یہ دونوں کس حد تک ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر، اس کے الفاظ کے باطنی معانی کی رو سے کی ہے۔ یہ تفسیر کس قسم کی ہے۔ اس کا اندازہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآن کریم میں زمین (الارض) کے متعلق ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ (20/55) ہم نے تمہیں اس (زمین) سے پیدا کیا ہے۔ اس میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں بار دیگر نکالیں گے۔

ابن عربی وحدت الوجود کے عقیدے کے علمبردار ہیں چنانچہ وہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”ہم سب احدیت سے نکلے تھے۔ فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گے پھر بقا ملے گی اور دوبارہ نمودار ہونگے۔ (فصوص الحکم)“

یہاں سوال پیدا ہوگا کہ ”الارض کا مفہوم احدیت (ذات خداوندی) کس طرح لیا گیا۔“ اس کے متعلق شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اولیاء ان کے متعلق براہ راست رسول خدا سے دریافت کر لیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں۔ جس مقام سے نبی لیتے تھے۔ اسی مقام سے انسان کامل، صاحب الزماں، غوث، قطب لیتے ہیں۔ اس کی تشریح دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف والہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔

یہ ہے الفاظ قرآنی کے ”باطنی معانی“ کی سند! یہ ایسی سند ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے کہ ثبوت مانگنے پر جواب یہ ملے گا کہ رات ہم دربار خداوندی میں گئے تھے۔ وہاں ہم نے اللہ میاں کو خود یہ معانی بیان کرتے ہوئے سنا۔ فرمائیے اس کے بعد آپ کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ جب یہ لوگ اس قسم کی تعلیم پیش کریں گے کہ فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى** کیونکہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا۔ اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی۔ (فصوص الحکم)

تو آپ اس پر بھی معترض نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی فلاں آیت کا باطنی مفہوم ہے۔ جسے ہم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا ہے۔ اور یہی مفہوم حقیقی اور اصلی ہے۔ جو مفہوم الفاظ قرآنی کے ظاہری معانی کی رو سے متعین کیا جاتا ہے۔ وہ ”چوڑی ہوئی ہڈیوں“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

آپ غور کیجئے کہ یہ قرآن کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی۔ اس سے اسلام کو جو نقصان پہنچا اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ

”حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا کسی دستور العمل و شعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو مسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف طریق تفسیح کا ہے اور یہ طریق وہی تو میں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گو سفندی ہو۔“
(اقبال نامہ۔ جلد 1 صفحہ 35)۔۔۔ (سلسیل 146-157)

مقام حیرت ہے کہ اس طریق معانی کے سلسلہ میں پرویز صاحب اتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے وضع کردہ طریق معانی و مفہوم پر نظر نہیں ڈالتے۔ ویسے تو مفہوم القرآن ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس مقام پر صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ لَا أَنِي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَآتِيكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۖ لَافِي بُيُوتِكُمْ ۖ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ (3/49)

”وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان دار ہو۔“
اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔ اب پرویز صاحب نے مفہوم القرآن میں اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے وہ بھی دیکھئے۔

”اور یوں اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ اس مردہ قوم سے کہے گا کہ میں تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے زندگی بخش پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نوعطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی (خاک نشینی) سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی رفعتیں نصیب ہو

جائیں گی۔ یہ آسمانی روشنی تمہاری آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گی۔ جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس سے تمہاری قوم کی ویران کھیتی، جس پر تروتازگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا، پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تمہاری وہ کمینہ خصلتیں دور ہو جائیں گی۔ جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ مختصراً یہ کہ ذلت و خواری کی وہ موت، جو اس وقت تم پر چاروں طرف سے چھا رہی ہے۔ ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی۔ میں (تمہارے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ) ایسا نظام قائم کر دوں گا جو اس کا جائزہ لیتا رہے گا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں سے کس قدر اپنے مصرف میں لاتے ہو۔ اور کس قدر ذخیرہ کرتے ہو کہ اس سے ناجائز نفع کمایا جاسکے۔ اس قانون اور نظام میں تمہارے لیے باز آفرینی (ایک نئی زندگی حاصل کر لینے) کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بشرطیکہ تم اس کی صداقت پر یقین کر لو۔“

حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کونسا اصول یا طریقہ ہے جس کے مطابق مندرجہ بالا آیت کا یہ مفہوم نکلتا ہے؟ ایک طرف تو باطنی معنی پر محی الدین ابن عربی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن خود کس طرح کا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔

پرویز صاحب مزید لکھتے ہیں۔

”فَاتِمَا يَسْرِنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ“ (19/97, 44/58)

ہم نے اسے تیری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس قسم کی روشن اور جگمگاتی کتاب (4/175) کے متعلق یہ کہنا کہ اس کے معانی باطنی ہیں۔ کتاب کے دعاوی کو جھٹلانا ہے جو کتاب **يَسَاءُ لِلنَّاسِ** (3/138) اور **تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ** (16/89) ہو، اس کے مطالب و معانی میں بطون کا کیا کام؟ **يَسَاءُ** کے تو معنی ہی **ظُهُورُ** (Manifestation) کے ہیں۔ **تَبَيَّنَ الشَّجَرُ** کے معنی ہیں درختوں کے پتے باہر نکل آئے۔ **تَبَيَّنَ الْقَرْنُ** کے معنی ہیں سینگ ابھر کر باہر نکل آیا۔ ایسی کتاب کے معانی کو مخفی اور مستور سمجھنا، کتاب کے خلاف محاذ جنگ قائم کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟

آپ ذرا اس نکتہ پر غور کیجئے۔ ایک شخص قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کے معانی محاورہ عرب کے مطابق متعین کرتا ہے اور آیت کے مفہوم کی تائید قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی

لاتا ہے۔ آپ کو اس میں کوئی سقم نظر آتا ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اس نے لغت میں فلاں مقام پر غلطی کھائی ہے۔ اور اس کا پیش کردہ مفہوم قرآن کے فلاں مقام سے متصادم ہوتا ہے۔ اس طرح صحت و سقم میں باسانی تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کا دعویٰ یہ ہو کہ اس نے اس آیت کا مفہوم الفاظ قرآنی کے باطنی معانی کی رو سے متعین کیا ہے تو آپ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے پیش کردہ باطنی معانی صحیح قرار دیں اور دوسروں کے پیش کردہ باطنی معانی کو غلط!

یاد رکھئے خدا کی کتاب صاف اور واضح عربی زبان کی کتاب ہے۔ جس کے باطنی معانی کوئی نہیں۔ باطنی معانی کا عقیدہ ہی غیر قرآنی ہے اور اسلام کے خلاف سازش۔ فَهَلْ مِنْ مُدْبِرٍ (سلسیل 185-184)

قرآن کے باطنی معانی کے متعلق یہ تھی پرویز صاحب کی رائے۔ لیکن جب وہ خود ہی قرآن کے مجازی معانی بیان کرنے لگیں تو پھر یہ مخالفت کیسی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔

”اسی طرح حضرت موسیٰ کو اس آنے والے انقلاب کے متعلق ضروری احکام دیئے گئے۔ قرآن نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ ہم پہلے ان آیات کا وہ ترجمہ لکھتے ہیں جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اس واقعہ کے عمومی مفہوم کو سامنے لاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ان آیات کے الفاظ کو مجاز پر محمول کیا جائے تو ان سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلے عمومی مفہوم کو لیجئے۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا

وَمَا تَلْكَ يَمِينِكَ يٰمُوسٰى ۝ (20/17)

اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔

عرض کیا۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْلُ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَّ فِيْهَا مَارِبٌ اٰخَرٰى ۝ (20/18)

عرض کیا! میری لاٹھی ہے۔ چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

آواز آئی

قَالَ لَقِيَهَا يَمُوسَىٰ ۝ (20/19)

حکم ہوا۔ اے موسیٰ اسے ڈال دے۔
انہوں نے تمہیں ارشاد کی

فَالْقَهْمَ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝ (20/20)

چنانچہ موسیٰ نے ڈال دیا۔ اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ تو ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔
صدائے غیبی نے کہا

قَالَ خذْهَا وَلَا تَخَفْ ۚ فَمَنْعَهَا سَيْرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝ (20/21)

حکم ہوا! اب اسے پکڑ لے اور خوف مت کھا۔ ہم اسے پھر اس کی اصلی حالت پر کئے دیتے ہیں۔
پھر ارشاد ہوا۔

وَأَضْمَمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ آيَةٌ لِّلْأَحْرَىٰ ۝ (20/22)

اور (بیز حکم ہوا) کہ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ۔ اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو،
چمکتا ہوا نکلے گا، یہ (تیرے لیے) دوسری نشانی ہوئی۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ انہیں محض بطور عجوبہ کاری نہیں دکھایا گیا بلکہ یہ ہماری
بہت بڑی نشانیوں کی تمہید ہیں۔ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝ (20/23)

یہ نشانیاں اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔
دوسرا مفہوم۔ یہ تو ہے ان آیات کا عمومی مفہوم۔ لیکن اگر ہم معانی کو حقیقت سے مجاز کی طرف منتقل
کریں تو بات کچھ اور سامنے آتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کا یہ انداز بھی ہے کہ وہ غیر محسوس حقائق
کو تشبیہات و استعارات کے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ ایسے مقامات میں، ان الفاظ کو ان کے
ظاہری معنوں پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے
ہیں۔ اسے سامنے رکھ کر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان آیات کا مفہوم یہ ہوگا
کہ جب حضرت موسیٰ کو اس عظیم مہم سے متعلق احکام دیدیئے گئے تو ندائے غیب نے پوچھا کہ وَمَا
تِلْكَ بِبَيْمِينِكَ يَمُوسَىٰ (20/17) اے موسیٰ! تم ان احکام پر غور کرو اور قوت و برکت دونوں نقاط

نگاہ سے بتاؤ کہ ان کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا کہ بارالہا: یہ احکام کیا ہیں؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ (20/18) یہ تو میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہیں۔ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا فِي ابْنِ اِسْرَائِيلَ (بنی اسرائیل) کو بھونچھوڑوں گا اور ان کے جمود و تعطل کو حرکت و حرارت میں بدل دوں گا۔ وَلِيَّ فِيهَا مَارِبُ اُخْرَى۔ (20/18) ان کے علاوہ اور معاملات زندگی میں بھی جو میرے سامنے آئیں گے۔ ان میں ان سے بصیرت و راہنمائی حاصل کروں گا۔ حکم ہوا کہ جاؤ اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قَالَ اَلْقَهَا يٰمُوسٰى (20/19)

اس و فورشوق کے بعد جب اس نئی مہم اور ان انقلاب اور احکام و ضوابط پر غور کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ احکام نہیں۔ ایک اثر دھا ہے جو بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ فَأَلْقَهَا فَاذًا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَى (20/20) خدا نے کہا کہ موسیٰ اس خیال سے مت گھراؤ۔ انہیں مضبوطی سے تھام لو (قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ) ان کے متعلق جو بات تم نے پہلے کہی تھی (کہ میں ان سے فلاں فلاں کام لوں گا) ہم انہیں ایسا ہی بنا دیں گے۔ (سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى) (20/21) اس مہم میں تو بالکل پریشان نہ ہو، تو نہایت سکون و سکوت اور پوری دلجمعی سے اپنی دعوت کو نہایت روشن اور واضح دلائل کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو ان مشکلات سے محفوظ و مصون باہر نکل آئے گا۔ وَاَضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ يَبْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (20/22) تیری اس طرح کی کامیابی تیری دعوت کی صداقت کی نشانی ہے۔ یعنی دشمنوں کی ہلاکت منفیاً نہ حیثیت سے نشان اور تمہاری کامیابی مثبت حیثیت سے کامیابی لِنُرِيكَ مِنْ اٰتِنَا الْكُبْرٰى (20/23) یہ احکام ہم تجھے اس لیے دیتے ہیں کہ تجھے دکھادیں کہ ان کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔“

یہ ہوگا ان آیات کا مفہوم اگر ان کے الفاظ کو مجاز پر محمول کر کے حقیقت پر نظر رکھی جائے۔“

(برق طور 23-25)

اس کے بعد جس جس مقام پر عصائے موسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے پرویز صاحب نے اس کا مجازی مفہوم ہی لیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں۔
”تذکرہ موسیٰ میں ساحرین قوم فرعون کے مقابلہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعہ کے

سامنے آنے سے پہلے تمہیداً اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔) اگر عصا اور ید بیضا کے متعلق قرآن کریم کے الفاظ کے ظاہر معنی لیے جائیں تو پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کا یہ مقابلہ قوم فرعون کے جادوگروں سے تھا۔ انہوں نے میدان میں جادو کے زور پر رسیوں کو سانپ بنا کر دوڑتا ہوا دکھایا اور حضرت موسیٰ کے عصا نے اڑدھا بن کر ان رسیوں کو نگل لیا۔ لیکن اگر قرآنی الفاظ کو استعارات پر محمول کر لیا جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ مقابلہ قوم فرعون کے مذہبی علماء سے تھا۔ انہوں نے اپنے باطل مذہب کی تائید میں دلائل پیش کئے اور اپنے زور بیان سے انہیں بڑا خوشنما بنا کر دکھایا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے دعاوی، خداوندی قوانین اور ان کی تائید میں دلائل منیرہ کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ بلکہ وہ پیشوایان مذہب حضرت موسیٰ کی صداقت کے معترف ہو کر آپ پر ایمان لے آئے۔ آئندہ صفحات میں قرآن کی متعلقہ آیات کا ترجمہ ان کے ظاہری معانی کی رو سے دیا گیا ہے۔ اور اس ترجمہ کے مطابق واقعہ کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ ان الفاظ کو استعارہ لیں تو ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اسی انداز سے لینا چاہئے۔ اس طرح سحر کے معنی ہونگے باطل پرستی یا کذب و افتزی۔ ساحرین کے معنی ہونگے قوم فرعون کے باطل پیشوایان مذہب، ان کے مندروں کے پجاری یا علماء۔ ان کی رسیوں سے مراد ہوگی ان کی باطل دلیلیں۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے مراد ہوگی ان کی طرف سے پیش کردہ تیزی احکام و قوانین۔ اور ید بیضا سے مراد ہوں گے تبشیرات اور ان کی تائید میں پیش کردہ دلائل منیرہ۔“

(برق طور 73-74)

اس کے بعد جہاں سمندر کے پھٹنے اور خشک راستہ بننے کا ذکر ہے وہاں لکھتے ہیں

”ان تصریحات کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کا مطلب کیا ہے؟ سو عربی زبان میں عصا کے معنی لاٹھی ہی کے نہیں بلکہ جماعت کے بھی ہیں۔ عصا (لاٹھی) کو عصا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے انگلیاں مجتمع کر کے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جماعت کو لے کر سمندر کی طرف جاؤ۔ (ضَرْبَ کے معنی چلنا یا سفر کرنا بھی آتے ہیں۔)“ (برق طور 108)

اب ایک طرف تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب صاف اور واضح عربی زبان

کی کتاب ہے، جس کے باطنی معانی کوئی نہیں۔ باطنی معانی کا عقیدہ ہی غیر قرآنی ہے، اور اسلام کے خلاف سازش۔ اور دوسری طرف اوپر بیان کی گئی آیات اور ان جیسی بے شمار آیات کا مفہوم مجاز پر یا استعارہ لیتے ہیں۔ آخر ترجمہ یا مفہوم کے وہ کونسے اصول ہیں کہ محی الدین ابن عربی کا باطنی مفہوم تو اسلام کے خلاف سازش ہو اور اپنا بیان کردہ مجازی مفہوم عین قرآنی۔

علاوہ ازیں پرویز صاحب نے عصا کا معنی (جماعت) اور حَسْرَبَ کے معنی چلنا اور اسی طرح دیگر الفاظ کے معانی بیان کر کے اپنے پیش کردہ مفہوم کو عربی زبان کی سند عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی لفظ کا محض معنی بدل دینے سے وہ لفظ قرآنی آیت کے اندر اپنا درست ترجمہ ظاہر کرنے کے قابل رہتا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر ہم عصا کے معنی لاٹھی کی بجائے جماعت لیتے ہیں تو اس آیت کی کیا پوزیشن ہوگی

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَسَبْ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي۔ (20/18)

کیا یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”یہ میری جماعت ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوں۔“ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا! زبانوں کے تراجم کے تمام اصول، گرائمر کے قواعد، تفسیری مزاج اور محاورہ عرب سمیت کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں جو اس طرح مفہوم بدلنے کی اجازت دے۔ حالانکہ سیاق و سباق ہی وہ واحد چیز ہے جو کسی بھی لفظ کا فقرے کے اندر معنی متعین کرتا ہے۔ رہی بات مجاز، باطن یا استعارہ کی۔ تو اگر پرویز صاحب اس کے ذریعے عصا کو جماعت یا احکام و قوانین یا دلائل و براہین بنا سکتے ہیں تو پھر ابن عربی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ الارض کا مطلب ”احدیت“ نکالے۔ اس طرح دنیا کے اور بہت سے انسان مجازی معانی کی رو سے الفاظ کا رنگ رنگ کا مطلب نکال سکتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ”مجاز“ کے بارے میں پرویز صاحب کی بنیاد کیا ہے۔ ”ا۔ اس ضمن میں ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے جیسا کہ ہر زبان میں قاعدہ ہے، الفاظ کے ایک معنی ”حقیقی“ ہوتے ہیں اور ایک ”مجازی“۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ ”وہ تو شیر ہے“ تو اس سے مراد وہ (شیر) جانور نہیں جو جنگل میں رہتا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ (شیر) جیسا بہادر ہے۔ لفظ ”شیر“ کے حقیقی معنی ”جنگل کا ایک طاقتور جانور“ ہیں اور (مندرجہ بالا فقرہ

میں) مجازی معنی ”بڑا بہادر“۔ (لغات القرآن 25)

”۲۔ لہذا قرآنی الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ آیت میں فلاں لفظ کے معنی حقیقی لئے جانے چاہئیں یا مجازی۔ زیر نظر لغت میں اس کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن مقامات پر ہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لئے ہیں وہاں (بالضرور) اس کے مجازی معنی لئے جائیں۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ آیت میں جو معنی (حقیقی یا مجازی) زیادہ موزوں نظر آئیں انہیں اختیار کر لینا چاہئے۔ یہی کیفیت ان مقامات کی بھی ہے جہاں ہم نے قرآنی آیات سے کوئی خاص مفہوم مستط کیا ہے۔ قارئین میں سے جنہیں ہمارے مفہوم سے اختلاف ہو وہ اپنے لئے خود مفہوم متعین کر سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھنا چاہئے کہ زیر نظر لغت میں جو حصہ الفاظ کے لغوی معانی سے متعلق ہے وہ مستند کتب لغت سے ماخوذ ہے۔ اس لئے مستند ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو وہ اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق اس کا مفہوم خود متعین کر سکتے ہیں۔“

(لغات القرآن 27)

پرویز صاحب نے پہلے پیرا میں مجازی کی جو مثال دی ہے وہ اسلوب کے عین مطابق ہے۔ لیکن دوسرے پیرا میں ان کا یہ کہنا ”لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن مقامات پر ہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لئے ہیں۔ وہاں (بالضرور) اس کے مجازی معنی لئے جائیں۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ آیت میں جو معنی (حقیقی یا مجازی) زیادہ موزوں نظر آئیں۔ انہیں اختیار کر لینا چاہئے۔“ حقیقت کے برعکس ہے کیونکہ ایک مقام پر اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو وہاں اس کے حقیقی معنی نہیں لئے جاسکتے جیسے ”وہ تو شیر ہے“ میں معنی صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کے متعلق کہے کہ ”یہ تو میرا دایاں بازو ہے۔“ تو یہاں حقیقی و مجازی کے لحاظ سے موزونیت اور ناموزونیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف ایک ہی معنی مراد لئے جائینگے۔ دوسری بات یہ کہ پرویز صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کا مرتب کردہ لغت، ائمہ اہل لغت کی بیان کردہ لغت کی کتابوں سے لیا گیا ہے، مگر پرویز صاحب نے اس لغت میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعمال کیا ہے۔ لغت کی

تشریح تو مذکورہ امام صاحب کی ہے مگر مجازی مفہوم پر ویز صاحب کا وضع کردہ۔ اس سلسلے میں تاریخ سے کوئی حوالہ نہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں چودہ سو سال تک تو آیات کا عمومی مفہوم ہی سمجھا گیا اور اب آکے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا تو اصل مفہوم مجازی ہے (معاذ اللہ)۔ اب ہم استعارہ اور مجاز کے کلام میں استعمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جس سے ان کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی۔

استعارہ

تعریف: لغوی معنی ادھار لینا۔ مگر علم بیان میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ استعارہ میں مشبہ کو معین مشبہ بہ تصور کر لیا جاتا ہے۔ جب کہ مشبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ماں نے کہا۔ ”دیکھو میرا چاند آ رہا ہے۔“

یہاں ماں نے اپنے بیٹے کے لئے چاند کا لفظ مستعار لیا ہے۔

ارکان استعارہ تین ہیں (i) مستعار لہ (ii) مستعار منہ (iii) وجہ جامع۔

(i) مستعار لہ: جس کے لئے ادھار لیا گیا۔ اوپر والے جملے میں ”بیٹے“ کے لئے لفظ چاند لیا گیا ہے۔ (بیٹا مستعار لہ ہے)

(ii) مستعار منہ: جس سے ادھار لیا گیا ہے۔ (چاند کا لفظ)

(iii) وجہ جامع: وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہو۔ (خوبصورتی)

وضاحت: کسی خوب رو دوشیزہ کو چاند کہہ دیا تو یہ استعارہ ہوگا اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دوشیزہ چاند جیسی حسین ہے تو یہ تشبیہ ہوگی۔

مجاز مرسل

تعریف: کلام میں جو لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی رنگ میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ اور استعارے کے سوا کوئی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل قسمیں یا صورتیں ہیں۔

۱۔ کل بول کر جزو مراد لینا۔

گر کوئی کہے یا علی حیدر
 بھاگیں کانوں میں انگلیاں دے کر
 اور بازار سے لے آئے، اگر ٹوٹ گیا
 ساغر جم سے مرا جام سفال اچھا ہے۔
وضاحت: انگلیاں کہہ کر ایک انگلی یا اس کا کچھ حصہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح دوسرے
 شعر میں بازار کہہ کر دکان مراد ہے۔
 ۲۔ جزو بول کر کل مراد لینا۔

سنگ زنی کی گل کے بدلے
 دی صلوتیں قل کے بدلے
 جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی
 واں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں
 تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے
 وہ زمین آسمان ہے پیارے
وضاحت: قل کہہ کر پوری سورہ قل مراد ہے۔ جب کہ دوسرے شعر میں برگ اور پر کہہ کر سبزہ،
 پھول، پتے اور پرندے ہر قسم مراد ہے۔ تیسرے شعر میں قدم کہہ کر پورا جسم مراد لیا ہے۔
 ۳۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔

پلا سا قیا ساغر بے نظیر
 پھنسی دام ہجران میں بدر منیر
 سو جھتی ہی نہیں بوتل کے سوا کچھ ہم کو
 لطف آتا ہے جو گھنگور گھٹا ہوتی ہے
وضاحت: مذکورہ اشعار میں ساغر اور بوتل کہہ کر مشروب مراد ہے۔ جوان دونوں میں موجود
 ہے۔
 ۴۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ مثلاً یوں کہنا کہ پانی لے آؤ۔

تیری چشم مست سا قیا یہ سیاہ مست جنون ہوا
کہ مئے دو آتشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی
دھری رہ گئی

وضاحت: مئے دو آتشہ کہہ کر شراب کی بوتل مراد لی ہے۔

۵۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔

غضب آنکھیں ستم ابرو جب منہ کی صفائی ہے
خدا نے اپنے ہاتھوں سے تری صورت بنائی ہے
کس نے ہاتھ سے پیکا سا غر موسم کی بے کیفی پر
اتنا ٹوٹ کے برس بادل ڈوب چلا میخانہ بھی

وضاحت: پہلے شعر میں اپنے ہاتھوں کو کہہ کر اپنی قدرت کا ملہ مراد ہے۔ دوسرے شعر میں بادل
برسنا سے مینہ برسنا مراد ہے۔

۶۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ آگ جل رہی ہے حالانکہ لکڑیاں جلتی ہیں۔

اس کا کوئی گود کا پا لا نہ تھا
گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا
مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی
مری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے

وضاحت: گھر کا اجالا بیٹے کو کہا گیا ہے ”غروب شام“ کہہ کر غروب آفتاب مراد لیا ہے۔

۷۔ آلہ کا ذکر کر کے صاحب آلہ مراد لینا۔ مثلاً یوں کہنا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں
مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں
۸۔ تضاد کا تعلق: مثلاً جاہل کو ارسطو کہنا یا شریف کو رذیل مراد لینا۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود و پشیمان کا پشیمان ہونا

- ۹۔ زمانہ سابق سے تعبیر کرنا: مثلاً کسی ریٹائرڈ کزنل کو کزنل کہہ کر پکارنا۔
 ۱۰۔ زمانہ مستقبل سے تعبیر کرنا: میڈیکل یا انجینئرنگ کے طلبہ کو ڈاکٹر یا انجینئر کہہ کر پکارنا۔
 ۱۱۔ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ بیان کرنا۔

زمانے کی نظروں میں ہم بے وفا تھے
 خطا بس یہی تھی کہ ہم بے خطا تھے

۱۲۔ مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کا بیان کرنا۔

سگ اصحاب ہوا صحبت انسان سے بشر
 آدمی ہو کے بھی انسان تو انسان نہ ہوا

(آئینہ اردو۔ انٹرمیڈیٹ 914-911)

اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کلام میں مجاز کا استعمال اور ”باطنی و مجازی مفہوم“ میں بہت فرق ہے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ”وہ تو شیر ہے“ یا ”دیکھو میرا چاند آرہا ہے“ تو یہاں سیاق و سباق میں شیر اور چاند کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ کن معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہر زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان اصناف کو علیحدہ سے سمجھنا نہیں پڑتا۔ ان میں کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ پھر یہاں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سیاق و سباق ہی ایک ایسی چیز ہے جو فقرے میں کسی لفظ کا معنی متعین کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ جس کا جی چاہے یہاں مجازی معنی مراد لے اور جس کا جی چاہے حقیقی۔ کلام میں مجاز کے استعمال سے مفر نہیں۔ لیکن اہل تصوف کے باطنی معانی اور پرویز صاحب کا مجازی مفہوم کچھ اور ہی چیز ہے۔ اس کا گرائمر کے ”مجاز مرسل“ سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان اصناف کو استعمال کیا ہے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔

۱۔ حَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (2/7)

”اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

۲۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا لَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ (8/17)
 ”پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور آپ نے تیر نہیں چلایا بلکہ اللہ نے چلایا۔“

۳۔ هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط (45/29)

”یہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔“

۴۔ إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ (48/10)

”جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“

ان آیات میں کوئی بھی معنی اپنی اصل سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ! بھئی یہاں ان کے حقیقی معنی نہ لینا۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ پرویز صاحب نے وہاں اپنے متعین کردہ مجازی معانی کی رو سے ہر مقام پر ان کا مفہوم بدل دیا ہے۔ اور اس تمام کدوکاوش سے ان کا مقصد فقط قرآن کریم کو عقل انسانی کے تابع بنانا ہے نہ کہ جو قرآن کریم کہتا ہے اسے من وعن قبول کرنا ہے۔



معجزات

اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو وقتاً فوقتاً معجزات عطا فرمائے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بالتصریح موجود ہے۔ لیکن علامہ غلام احمد پرویز نے ان تمام معجزات کی نفی کی ہے۔ اور قرآن کریم کے ہر اس مقام کو ایسا مفہوم پہنا دیا ہے جس سے وہ عقل کے دائرہ کار میں آجائے۔ یعنی پرویز صاحب نے پہلے سے اس چیز کا تعین کر رکھا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی مقام یا آیت عقل کے خلاف نہ جائے۔ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اسے قوانین کا تابع بنا دیا ہے اور ہر کام مقررہ قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں کائنات بشمول جملہ انسانی امور میں اللہ تعالیٰ خود بھی دخل نہیں ہوتے۔ یہاں پہنچ کر وہ خود بھی قاعدے اور قانون کے پابند ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جہاں اللہ تعالیٰ انسانی امور میں دخل ہیں یا ایسے تمام کام جو قاعدے اور قانون سے ہٹ کر ہوئے ہیں وہاں پرویز صاحب نے قرآنی آیات کا مفہوم بالکل بدل دیا ہے اور اس سلسلہ میں جملہ قواعد و ضوابط عربی، ترجمہ، تفسیر، گرائمر، محاورہ عرب و دیگر کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ذیل میں ہم ان مقامات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور قرآنی آیات کی رو سے بتائیں گے کہ خدا اس کائنات میں بھی قادر مطلق ہے اور جو چاہے سو کرتا ہے۔

ویسے تو سارا قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے جو ماورائے عقل اور سائنسی قوانین کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ لیکن ہم چند اہم واقعات کا تجزیہ کریں گے۔ پہلے اس سلسلہ میں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی کے چند واقعات۔

عصائے موسیٰ۔ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا سانپ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مگر اس کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے

”اسی طرح حضرت موسیٰ کو اس آنے والے انقلاب کے متعلق ضروری احکام دیئے گئے۔ قرآن نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ ہم پہلے ان آیات کا وہ ترجمہ لکھتے ہیں جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اس واقعہ کے عمومی مفہوم کو سامنے لاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اگر ان آیات کے الفاظ کو مجاز پر محمول کیا جائے تو ان سے ایک اور حقیقت

سامنے آتی ہے۔ پہلے عمومی مفہوم کو لیجئے۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا

وَمَا تَلْكَ بِمِئِنَّكَ يَمُوسَىٰ ۝ (20/17)

اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔
عرض کیا۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ
أُخْرَىٰ ۝ (20/18)

عرض کیا! میری لاٹھی ہے۔ چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے
جھاڑ لیتا ہوں۔ میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔
آواز آئی

قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ۝ (20/19)

حکم ہوا۔ اے موسیٰ اسے ڈال دے۔
انہوں نے تعمیل ارشاد کی

فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝ (20/20)

چنانچہ موسیٰ نے ڈال دیا۔ اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ تو ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔
صدائے غیبی نے کہا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۚ فَمَنْعَهَا سَيْرَئَهَا الْأُولَىٰ ۝ (20/21)

حکم ہوا! اب اسے پکڑ لے اور خوف مت کھا۔ ہم اسے پھر اس کی اصلی حالت پر کئے دیتے ہیں۔
پھر ارشاد ہوا۔

وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝ (20/22)

اور (نیز حکم ہوا) کہ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال۔ بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو،
چمکتا ہوا نکلے گا، یہ (تیرے لیے) دوسری نشانی ہوئی۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ انہیں محض بطور عجوبہ کاری نہیں دکھایا گیا بلکہ یہ ہماری
بہت بڑی نشانیوں کی تمہید ہیں۔

یہ نشانیاں اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔

دوسرا مفہوم۔ یہ تو ہے ان آیات کا عمومی مفہوم۔ لیکن اگر ہم معانی کو حقیقت سے مجاز کی طرف منتقل کریں تو بات کچھ اور سامنے آتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کا یہ انداز بھی ہے کہ وہ غیر محسوس حقائق کو تشبیہات و استعارات کے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ ایسے مقامات میں، ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنوں پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسے سامنے رکھ کر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ کو اس عظیم مہم سے متعلق احکام دیدیئے گئے تو ندائے غیب نے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِمِثْنِكَ يَمُوسَىٰ ه (20/17) اے موسیٰ! تم ان احکام پر غور کرو اور قوت و برکت دونوں نقاط نگاہ سے بتاؤ کہ ان کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا کہ بارالہا! یہ احکام کیا ہیں؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ (20/18) یہ تو میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہیں۔ اَتَوَكُّوْا عَلَیْهَا میں اب انہی کے آسرے سے چلوں گا۔ وَ اَهْتَشُّ بِهَا عَلٰی غَنَمِيْ انہی کے ذریعے اب میں اپنے ریوڑ (بنی اسرائیل) کو جھنجھوڑوں گا اور ان کے جمود و تعطل کو حرکت و حرارت میں بدل دوں گا۔ وَلِيْ فِيْهَا مَارِبٌ اٰخْرٰی۔ (20/18) ان کے علاوہ اور معاملات زندگی میں بھی جو میرے سامنے آئیں گے۔ ان میں ان سے بصیرت و راہنمائی حاصل کروں گا۔ حکم ہوا کہ جاؤ اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قَالَ اَلْقَهَا يَمُوسَىٰ (20/19)

اس وافر شوق کے بعد جب اس نئی مہم اور ان انقلاب آور احکام و ضوابط پر غور کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ احکام نہیں۔ ایک اثر دھا ہے جو بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰی۔ (20/20) خدا نے کہا کہ موسیٰ اس خیال سے مت گھبراؤ۔ انہیں مضبوطی سے تھام لو (قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ) ان کے متعلق جو بات تم نے پہلے کہی تھی (کہ میں ان سے فلاں فلاں کام لوں گا) ہم انہیں ایسا ہی بنا دیں گے۔ (سَنُعِيْدُهَا سَيْرَتَهَا الْاُولٰٓئِی 20/21) اس مہم میں تو بالکل پریشان نہ ہو، تو نہایت سکون و سکوت اور پوری دلجمعی سے اپنی دعوت کو نہایت روشن اور واضح دلائل

کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو ان مشکلات سے محفوظ و مصون باہر نکل آئے گا۔ وَاضْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ يَغِيظًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (20/22) تیری اس طرح کی کامیابی تیری دعوت کی صداقت کی نشانی ہے۔ یعنی دشمنوں کی ہلاکت منفیاً نہ حیثیت سے نشان اور تمہاری کامیابی مثبت حیثیت سے کامیابی لِنُرْيَاكَ مِنْ اِنْتِنَا الْكُبْرَى (20/23) یہ احکام ہم تجھے اس لیے دیتے ہیں کہ تجھے دکھادیں کہ ان کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔“

یہ ہوگا ان آیات کا مفہوم اگر ان کے الفاظ کو مجاز پر محمول کر کے حقیقت پر نظر رکھی جائے۔“
(برق طور 23-25)

مزید لکھتے ہیں

”فَلَمَّا أَنهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه (28/30)

سو جب (موسیٰ اس آگ کے شعلہ کے) قریب آیا تو وادی کے دائیں جانب سے درخت کے باہر کت مقام سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین۔

سورہ طہ میں اسے وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوسَى ط (20/12) کہا گیا تھا۔ یہاں مزید وضاحت فرمادی کہ ندائے جمال وادی کے دائیں جانب، جھاڑی کے پاس سے آئی تھی۔ اس کے بعد ہے
وَأَنْ أَلْقَىٰ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّمْ يُعْقَبْ ط يُمُوسَىٰ أَقْبَلُ وَ
لَا تَخَفْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه (28/31)

(آواز نے کہا کہ اے موسیٰ) اپنا عصا پھینک دے (موسیٰ نے عصا پھینک دیا اور) جب اسے ہلتا ہوا دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ موڑ کر اس طرح لوٹا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ (آواز آئی)
اے موسیٰ! آگے بڑھو، مت ڈرو، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔

سورہ طہ میں اسے حیۃ کہا گیا ہے۔ یہاں كَأَنَّهَا جَانٌّ کہہ کر وضاحت فرمادی کہ وہ ”گویا سانپ“ تھا۔ مندرجہ بالا آیت کے الفاظ کے ظاہر مفہوم کی رو سے ہے۔ لیکن (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) اگر ان الفاظ کو بطور استعارات لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو مختلف احکام دے کر کہا کہ ان احکام کو جو تیرے لئے زندگی کا محکم سہارا ہیں۔ جا کر فرعون کے

سامنے پیش کرو۔ حضرت موسیٰ نے جب اس مہم اور اس سے متعلقہ احکام پر غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ مہم نہیں ایک اژدھا ہے جسے زندہ پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت موسیٰ نے اس مہم سے ہٹنا چاہا اور فرعون کی طرف جانے سے خائف ہوئے، یعنی اس خوف کی بناء پر اپنے دل میں اس مہم کے لئے آمادگی نہ پائی۔ اس پر آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ تم ہماری حفاظت میں رہو گے۔“ (برق طور 32)

ایک اور مقام دیکھئے

”بہر حال یہ تھا حضرت موسیٰ کا وہ مطالبہ اور یہ تھی ان کی وہ دعوت، اب دیکھئے کہ اس دعوت کا استقبال کس طرح سے ہوا۔ فرعون نے کہا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے رسول ہو اور اس مقصد کے لیے مامور کئے گئے ہو کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے آزاد کر کے لے جاؤ۔ لیکن اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ واقعی مامور من اللہ ہو!

قَالَ اِنْ كُنْتُمْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ فَاتِّبِعُوا مَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الصِّدْقِ ۗ (7/106)

”فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعی کوئی نشانی لے کر آیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر۔“

حضرت موسیٰ کے پاس نشانات موجود تھے۔

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۗ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِ ۗ (7/107-108)

”اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی، تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک نمایاں اژدھا ان کے سامنے تھا، اور اپنا ہاتھ (جیب سے) باہر نکالا تو اچانک ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کے لئے سفید چمکیلا تھا۔“

یہ ترجمہ ان الفاظ کے ظاہر معنوں کے اعتبار سے ہے۔ لیکن (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) اگر ان الفاظ کو استعاراً لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے ان قوانین و دلائل کو پیش کیا جس کے سہارے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور جسے وہ نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان قوانین سے سرکشی کا نتیجہ بتا ہی اور بربادی ہوگا۔ یہ دلائل و براہین اپنے زور و زور سے اس طرح آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کہ ان کی قوت و شدت واضح طور پر سامنے آتی چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ ان براہین کو سامنے لائے جن میں بتایا گیا تھا کہ قوانین

خداوندی پر عمل کرنے کا نتیجہ کس قدر خوشگوار و تابناک ہوگا۔ ان دلائل کی درخشندگی و تابناکی ہر دیدہ بینا کو نظر آتی چلی جا رہی تھی۔“ (برق طور 47-48)

پرویز صاحب نے اپنی اکثر کتب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی فکر کا منبع قرآن کریم ہے۔ اس لئے ان کے فہم پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ جوابی دلائل بھی قرآن کریم سے پیش کرے۔ اس سلسلہ میں وہ قرآن کریم کی اس آیت کا اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ **هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اب یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور کوئی بھی زبان قواعد و ضوابط اور اسلوب بیان کی پابند ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بیشمار جگہ پر کہہ دیا کہ یہ واضح روشن عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اس بنا پر یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پرویز صاحب کی بات کا قرآنی آیات کی روشنی میں ابطال موجود ہے تو پرویز صاحب جواباً یہ کہہ دیں کہ میں تو ان آیات کا مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اس مقام پر قرآنی دلائل کیا کام کریں گے۔ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ (استعارہ کے بارے میں پہلے ”مجازی مفہوم“ کے باب میں تفصیل آچکی ہے۔) آپ لاکھ قرآنی دلائل دیتے چلے جائیں مگر آپ کو یہی جواب سننے میں ملے گا کہ میں تو ان آیات کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا بلکہ مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور ایسا مجازی مفہوم جو زبان کے کسی ضابطے کا پابند نہ ہو۔

یہاں تک پرویز صاحب نے ”عصا“ کا مطلب ”سہارا“ لیا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں **”ساحرین سے مقابلہ۔“** تذکرہ حضرت موسیٰ میں ساحرین قوم فرعون کے مقابلہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعہ کے سامنے آنے سے پہلے تمہیداً اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) اگر عصا اور ید بیضا کے متعلق قرآن کریم کے الفاظ کے ظاہر معنی لیے جائیں تو یوں نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ کا یہ مقابلہ قوم فرعون کے جادوگروں سے تھا۔ انہوں نے میدان میں جادو کے زور پر رسیوں کو سانپ بنا کر دوڑانا ہوا دکھایا اور حضرت موسیٰ کے عصا نے انہیں ہار کر ان رسیوں کو نگل لیا۔ لیکن اگر قرآنی الفاظ کو استعارات پر محمول کیا جائے تو پھر بات یوں ہوگی کہ وہ مقابلہ قوم فرعون کے مذہبی علماء سے تھا۔ انہوں نے اپنے باطل مذہب کی تائید میں دلائل

پیش کئے اور اپنے زور بیان سے انہیں بڑا خوشنما بنا کر دکھادیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے دعاوی، خداوندی قانون اور ان کی تائید میں دلائل ”منیرہ“ کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ بلکہ وہ پیشوایان مذہب حضرت موسیٰ کی صداقت کے معترف ہو کر آپ پر ایمان لے آئے۔ چونکہ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) میں ان الفاظ کے مجازی مفہوم کو ترجیح دیتا ہوں اس لئے میں نے ان آیات کا مفہوم اسی انداز سے پیش کیا ہے۔ جو حضرات ان الفاظ کے ظاہری معانی لینا چاہیں، وہ متعلقہ آیات کا ترجمہ قرآن کریم کے کسی نسخے سے دیکھ لیں۔ مجھے اس پر اصرار نہیں کہ آپ ضرور ان کا مجازی مفہوم لیں۔“ (برق طور 60-61)

حیرت ہے کہ قرآن کریم کے کسی مقام کا کوئی ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو اس مقام کا مجازی مفہوم لیں اور باقی لوگوں کو ظاہری معانی لینے کی اجازت دے دی جائے۔ یہاں پرویز صاحب کو اپنے دعاوی کے مطابق یہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہ ان آیات کا صرف مجازی مفہوم ہی لیا جاسکتا ہے۔ اور ظاہری مفہوم لینا قطعاً درست نہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ پرویز صاحب کے پاس اپنے مجازی مفہوم کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گرامر، لغت، مجاورہ عرب، اسلوب بیبا، سیاق و سباق، سبھی پرویز صاحب کے مجازی مفہوم کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔

نیز ساحرین سے مقابلہ کے مقام پر پرویز صاحب نے ”عصا“ کے معنی ”دلائل“ کے لیے ہیں۔ آگے دیکھئے

وَإِذَا سْتَسْفَىٰ مَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ
عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ شَكَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۗ (2/60, 7/160)

اور پھر (وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی جماعت کو لے کر پہاڑ کی طرف جاؤ۔ (تم دیکھو گے کہ پانی تمہارے لئے موجود ہے۔ موسیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ چٹان پر سے مٹی کرید کر ہٹائی تو اس سے ایک چھوڑ) بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی (اس وقت تم سے کہا گیا تھا اس بے

آب و گیاه بیابان میں تمہارے لئے تمام ضرورتیں مہیا ہوگئی ہیں، پس) کھاؤ، پیو خدا کی بخشش سے فائدہ اٹھاؤ اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ (یعنی ضروریات معیشت کے لئے لڑائی جھگڑا کرو یا ہر طرف لوٹ مار مچاتے پھرو۔)“ (برق طور 96-97)

اس مقام پر پرویز صاحب نے ”عصا“ کے معنی ”جماعت“ کے لیے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل اس مقام پر دیکھتے ہیں جہاں سمندر کے پھٹنے کا ذکر ہے۔

”سمندر کیسے پھٹ گیا تھا؟“ بنی اسرائیل نے پایادہ سمندر کو کس طرح پار کر لیا، اس سمندر کو جس میں فرعون اپنے ساز و براق اور لاؤ لاشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرق بحر کے متعلق قرآن کریم میں حسب ذیل مقامات پر ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ (2/50)

اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے

”اور پھر وہ وقت یاد کرو، جب (تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون تمہارا تعاقب کر رہا تھا) ہم نے سمندر کا پانی اس طرح الگ الگ کر دیا کہ تم بچ نکلے اور فرعون کا گروہ غرق ہو گیا اور تم (کنارہ پر کھڑے) دیکھ رہے تھے۔“

آیات (10/90 ; 7/138) میں وَحَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ آیا ہے، یعنی ہم بنی اسرائیل کو سمندر کے اس پار سے لے آئے۔

اور سورہ شعر آء میں ہے۔

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ۝ (26/63)

اس کا لفظی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے

”اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے ”عصا سے سمندر کو مار“ پس وہ پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے توڈے کی طرح تھا۔“

اس سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے (بحکم وحی) سمندر کو ”اپنے عصا سے مارا“ اور سمندر پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل پار تر گئے اور جب فرعون ان کے تعاقب میں سمندر کے

اندر پہنچا تو پھر پانی چڑھ آیا اور وہ (مع اپنے لشکر کے) غرق ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ اپنی قوم کو سمندر کے ایک خشک راستہ سے نکال کر لے جائیں۔ اس سے ’اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ‘ کا دوسرا مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے۔

سورہ طہ میں ارشاد ہے

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَّ لَا تَخَشٰى ۝ (20/77)

” (اور پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی تھی کہ (اب) میرے بندوں کو راتوں رات (مصر سے) نکال لے جا۔ اور انہیں سمندر کے اس حصے سے پار لے جا جہاں پانی خشک ہو چکا ہوگا۔ اس طرح تمہیں نہ تو تعاقب کرنے والوں سے کوئی خدشہ ہوگا اور نہ ہی غرق ہو جانے کا ڈر۔“

یہ آیت، مفہوم پیش نظر کو زیادہ وضاحت سے بیان کر رہی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بذریعہ وحی ارشاد ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل جائیں اور پھر ”انہیں سمندر میں خشک راستہ سے لے چلیں“ (فَاَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا) یہاں سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سمندر میں کسی مقام پر خشک راستہ نکلنے کا بھی امکان تھا۔ لیکن یہ امکان (یا اس راستہ کا سراغ) حضرت موسیٰ پر بذریعہ وحی منکشف ہوا تھا۔ یہ راستہ کس طرح نکل سکتا تھا؟ اس کے متعلق سورہ دخان میں ایک اشارہ ہے جہاں فرمایا

وَآتٰرِكُ الْبَحْرِ رَهْوًا ۙ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِضُونَ ۝ (44/24)

”اور سمندر کو اتر اہوا چھوڑ دو، یہ ایک لشکر ہے جو غرق کیا جائے گا۔“

اس آیت میں رَهْوًا کا لفظ قابل غور ہے۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں پرسکون، یعنی جب سمندر کا جوش باقی نہ رہے اور وہ پرسکون ہو جائے۔ اور دوسرے معنی ہیں وہ جگہ جہاں سے سمندر پیچھے ہٹ جائے اور اس طرح وہ حصہ خشک ہو جائے۔ یہ دونوں شکلیں سمندر میں مدوجزر کے سلسلہ میں، جزر (پانی کے پیچھے ہٹ جانے) کے وقت ہوتی ہیں۔ آیت (20/77) میں يَبَسًا کا مفہوم بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی سمندر کی وہ جگہ جو خشک ہو چکی ہو۔ ان آیات سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ تم ”سمندر کے اس مقام سے جس کا تمہیں سراغ دیا گیا ہے،

ایسے وقت میں گذر و جب پانی اتر اہوا ہو۔ پھر جب تمہارے تعاقب میں لشکر فرعون آئے گا تو اس وقت پانی کے چڑھاؤ کا وقت ہوگا۔۔۔۔۔ ان تصریحات سے قرآن کریم کے ان اشارات کی طرف سمجھ کی راہ نکلتی ہے جو سورہ طہ اور سورہ دخان کے مندرجہ صدر آیات میں ملتے ہیں اور انہی آیات کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم نے یہ کچھ لکھا ہے۔ ان تصریحات کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کا مطلب کیا ہے؟ سو عربی زبان میں عصا کے معنی لاٹھی ہی کے نہیں بلکہ جماعت کے بھی ہیں۔ عصا (لاٹھی) کو عصا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے انگلیاں مجتمع کر کے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اور ضَرْب کے معنی چلنا یا سفر کرنا بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جماعت کو لے کر سمندر کی طرف جاؤ اور جس مقام کا تمہیں سراغ دیا جاتا ہے۔ اس سے اس وقت جب سمندر اتر چکا ہو، بنی اسرائیل کو لے کر خشکی کے دوسرے کنارے پہنچ جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا لشکر ان کے تعاقب میں اس کنارے پر پہنچا ہے تو وہ دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ تھے وہ ”طُودِ الْعَظِيمِ“ جن کا ذکر (26/63) میں آیا ہے۔“ (برق طور 91-88) سٹوڈنٹ ایڈیشن 1993-

اس طرح پرویز صاحب نے عصا کا مطلب ”سہارا“، ”دلائل“ اور ”جماعت“ کے لیے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے عصا کو صرف اور صرف ”لاٹھی“ کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بلکہ عصا کی خصوصیات بھی واضح کر دی ہیں۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشُ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيْ فِيْهَا مَارِبٌ
اُخْرٰى ۝ (20/18)

عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

سہارا کے لیے یہاں ”اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا“ کا لفظ موجود ہے، جبکہ دلائل اور جماعت اور دیگر کسی بھی معنی کے لیے سیاق و سباق اجازت نہیں دیتے۔ یعنی ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ”اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے“ تو جواب دیا جائے۔ ”یہ میری جماعت ہے یا یہ میرے دلائل ہیں۔“

اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ساحروں کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا بلکہ مذہبی علماء کے ساتھ مقابلہ تھا جس میں دونوں اطراف سے دلائل و براہین دیئے گئے۔ آئیے اس بارے میں قرآن کریم کے چند مقامات پر نظر ڈالتے ہیں۔

☆ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۚ قَالَ أَجَعَلْنَا لِنُحْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ۚ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۚ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۚ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۚ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۚ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ۚ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدُنَا أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ ۚ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصَفَاءُ ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۚ قَالُوا يُمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ ۚ قَالَ بَلْ الْقَوَاۓِمُ فَاذًا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمَا تُسْعَىٰ ۚ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ۚ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۚ وَالَّذِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۚ فَالْقِيَّ السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَ مُوسَىٰ ۚ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَا صَلْبَيْنِكُمْ فِي جُنُوعِ النَّخْلِ ۚ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۚ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ

(طہ 73-56/20)

”اور یقیناً دکھلائیں ہم نے اسے اپنی نشانیاں ساری لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا! کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لیے کہ نکال دے تو ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ۔ سو لائیں گے ہم بھی تمہارے مقابلہ کے لیے جادو اسی قسم کا لہذا متعین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن کہ نہ خلاف ورزی کریں اس کی ہم اور نہ تم ایک کھلے میدان میں۔

موسیٰ نے کہا! تم سے طے شدہ وقت جشن کا دن ہے اور اکٹھے کئے جائیں لوگ دن چڑھے۔ سو لوٹ گیا فرعون اور جمع کرنے لگا اپنی تدابیر پھر (مقابلہ کے لئے) آ موجود ہوا۔ کہا ان سے موسیٰ نے اے شامت کے مارو! نہ گھر تم اللہ کے بارے میں جھوٹ ورنہ وہ ستیا ناس کر دے گا تمہارا ایک سخت عذاب سے اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ گھڑا۔ یہ سن کر وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملہ میں آپس میں اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے۔ کہنے لگے یقیناً یہ دونوں ضرور جادو گر ہیں جو چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہاری سر زمین سے اپنے جادو کے زور سے اور مٹا دیں تمہارے طریق زندگی کو جو مثالی ہے۔ لہذا اکٹھی کر لو اپنی تمام تدابیر پھر آ جاؤ صف باندھ کر۔ حقیقت یہ کہ فلاح اس کی ہوگی آج جو جیت گیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ! یا تو تم پھینکو یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والے۔ موسیٰ نے کہا! نہیں تم ہی پھینکو تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں محسوس ہونے لگیں موسیٰ کو ان کے جادو کے اثر سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ پس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیٰ نے۔ ہم نے کہا نہ ڈرو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ نکل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادو گر کا۔ اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادو گر خواہ جس شان سے آئے وہ۔ سو گرا دیے گئے سارے جادو گر سجدے میں اور پکاراٹھے! ایمان لائے ہم رب ہارو! موسیٰ پر فرعون نے کہا ایمان لے آئے تم اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں اس کی؟ یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری، سوزور کٹوائے دیتا ہوں میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے اور ضرور سولی چڑھواتا ہوں تم کو کھجور کے تنوں پر اور خوب جان لو گے تم کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا! ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو آگئی ہیں ہمارے سامنے روشن نشانیاں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے سو کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ اور تو تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا۔ یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں اور یہ جرم جس پر مجبور کیا تھا تو نے ہمیں یعنی جادوگری اور اللہ ہی ہے سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا۔“

سورہ شعراء میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

☆ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ تُبِئِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ قَوْمَ فِرْعَوْنَ طَالَمَا يَتَّبِعُونَ ۚ قَالَ رَبِّ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۖ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۖ وَهَارُونَ
 عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ ۞ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِإِنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۚ
 فَاتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ قَالَ أَلَمْ
 نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا ۖ وَلِئْتَّ فِيْنَا مِنْ عَمْرِكُ سِينِينَ ۚ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ
 الْكٰفِرِينَ ۚ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا ۖ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۖ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي
 حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ قَالَ
 فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۚ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۚ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ قَالَ إِنَّ
 رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُحَنُونٌ ۚ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِن
 كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ قَالَ لَعِنَ اتَّخَذتَّ إِلٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ ۚ قَالَ
 أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۚ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۚ ۞ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ ۚ قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرُ
 عَلِيمٍ ۚ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۚ ۞ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ
 وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِيرِينَ ۚ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ۚ فَجَمَعَ السَّحْرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمِ
 مَعْلُومٍ ۚ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّحْتَمِعُونَ ۚ لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ
 الْعٰلَمِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِن لَّنَا لَا جَرَأٌ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعٰلَمِينَ ۚ قَالَ نَعَمْ
 وَإِن كُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۚ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّقْتَدُونَ ۚ قَالُوا جِبَالَهُمْ وَ
 عَصِيْبَهُمْ ۚ قَالُوا بَعْرَهُ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعٰلَمُونَ ۚ فَأَلْفَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
 يَأْفِكُونَ ۚ ۞ فَأَلْفَىٰ السَّحْرَةَ سٰجِدِينَ ۚ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَ
 هَارُونَ ۚ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ
 نَعْلَمُونَ ۖ لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ ۖ وَلَا صَلْبِيكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قَالُوا لَا ضَيْرَ
 إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ وَ

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٰ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۚ فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ
 حَشِيرِينَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يُطْلُونَ ۚ وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَاطِرُونَ ۚ
 فَآخَرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ كَذٰلِكَ ۙ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي
 إِسْرَائِيلَ ۚ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۚ فَلَمَّا تَرَاءَ الْحَمْعَيْنِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُرْكُؤُونَ ۚ
 قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۚ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۙ
 فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ۚ وَازْلَفْنَا نَمُ الْآخِرِينَ ۚ وَأَنْحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ
 مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۚ ثُمَّ اغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۙ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ

(الشعراء 26/10-67)

”اور جب پکارا تھا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم لوگوں کی طرف۔ (یعنی) قوم فرعون کے پاس ”کیا وہ ڈریں گے نہیں؟“۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے مالک! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو رسالت بھیج دے ہارون کی طرف۔ اور ان کا میرے اوپر ایک جرم کا الزام بھی ہے لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ارشاد ہوا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا لے جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے رہیں گے۔ اور جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہنا کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ تاکہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ وہ کہنے لگا کہ کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھے اپنے ہاں جبکہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا؟ اور رہا تھا تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال۔ اور کی تھی تو نے وہ حرکت جو کی تھی تو نے اور تو ہے بڑا ناشکرا۔ موسیٰ نے کہا کہ کی تھی میں نے وہ حرکت اس وقت جبکہ تھا میں نادان۔ پھر میں بھاگ گیا تھا تمہارے پاس سے جب مجھے ڈر ہوا تھا تم سے۔ پھر عطا کی مجھے میرے رب نے حکمت اور شامل فرما دیا مجھے رسولوں میں۔ اور وہ احسان جو بتا رہا ہے تو مجھ پر اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا! کیا ہے یہ رب العالمین؟ فرمایا وہی جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں اگر ہو تم یقین لانے والے۔ کہا فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا نہیں سنا تم نے (یہ کیا کہہ رہا ہے)؟۔ موسیٰ نے کہا وہی جو رب ہے تمہارا بھی اور رب ہے تمہارے آباؤ اجداد

کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فرعون نے کہا، (حاضرین سے) بے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہی ہے جو رب ہے مشرق و مغرب کا اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہیں۔ اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر مانو گے تم کوئی معبود میرے سوا تو (یاد رکھو) ڈال دوں گا میں تمہیں قیدیوں کے ساتھ (لڑنے کے لیے)۔ موسیٰ نے کہا کیا پھر بھی اگر لے آؤں میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز (معجزہ)۔ فرعون نے کہا اچھا پیش کرو وہ معجزہ، اگر ہو تم سچے۔ سو پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا تو یوں کہ ایک بن گیا وہ اثر دھا سچ مچ کا۔ اور کھینچا اپنا ہاتھ (بغل سے) تو اچانک وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ کہا فرعون نے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ یقیناً یہ ایک جادوگر ہے، بڑا ماہر۔ جو چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو (کے زور) سے۔ تو بتاؤ اب کیا مشورہ دیتے ہو تم۔ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہر میں ہر کارے۔ جو لے آئیں گے تمہارے پاس ہر قسم کے بڑے بڑے ماہر جادوگر۔ پھر اکٹھے کئے گئے جادوگر ایک خاص دن، وقت مقررہ پر۔ اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ لوگو! اکٹھے ہو جاؤ۔ تاکہ ہم ساتھ دیں جادوگروں کا اگر رہیں وہ غالب۔ پھر جب آئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا واقعی ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا، اگر رہے ہم غالب۔ فرعون نے کہا! ہاں اور یقیناً تم اس وقت شامل ہو جاؤ گے مقربین میں۔ کہا ان سے موسیٰ نے کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ سو پھینکیں انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاشیاں اور کہنے لگے! فرعون کے اقبال سے یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا تو یکا یک وہ ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا ان کے جھوٹے شعبدوں کو۔ چنانچہ گر پڑے بے اختیار ہو کر جادوگر سجدے میں۔ اور بول اٹھے ایمان لائے ہم رب العالمین پر۔ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، کیا مان لی تم نے بات موسیٰ کی پہلے اس سے کہ اجازت دوں میں تمہیں۔ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا ہے جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو۔ اچھا تو عنقریب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ میں ضرور کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے اور ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ پرواہ، بے شک ہم سب اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں۔ بے شک ہم توقع رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہماری خاطر ہمارا مالک ہماری خطائیں اس بنا پر کہ سب

سے پہلے ہم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر بھیجے فرعون نے شہر میں ہر کارے۔ (اور کہلا بھیجا) دیکھو! یہ لوگ ہیں ایک حقیر سا ٹولہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے۔ اور یقیناً ہم ایک بڑی جماعت ہیں ہمیں چونکہ رہنا چاہئے۔ اور اس طرح ہم نے نکال دیا انہیں باغوں سے اور چشموں سے۔ اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ۔ اور وارث بنا دیا ہم نے ان سب کا بنی اسرائیل کو۔ سو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے صبح کے وقت۔ پھر جب آمننا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا۔ سو وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مارو اپنا عصا سمندر پر۔ تو وہ پھٹ گیا اور ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند۔ اور قریب لے آئے ہم اس جگہ دوسرے گروہ کو بھی۔ اور بچا لیا ہم نے موسیٰ کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، سب کو۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے گروہ کو۔ بیشک اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ مگر نہیں ہیں اکثر لوگ یقین کرنے والے۔ اور یقیناً تیرا رب ہی ہے زبردست اور رحم فرمانے والا۔“

☆ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ه فَلَمَّا أَنهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ه فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يُّمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبِكُمْ بُرْهَانِكُمْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكِهِ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ه (القصص 28/29-32)

”غرض جب پوری کر لی موسیٰ نے مدت اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھی انہوں نے طور کی جانب آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ کا (لے آؤں) تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب پہنچے

موسیٰ وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطہ میں ایک درخت سے۔ کہ اے موسیٰ! بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب ہے جہانوں کا۔ اور یہ بھی (ارشاد ہوا) کہ پھینکو اپنی لاٹھی سو جب دیکھا اسے لہراتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہے تو بھاگ اٹھے موسیٰ پیٹھ موڑ کر اور مڑ کر بھی نہ دیکھا (ارشاد ہوا) اے موسیٰ! آگے بڑھو اور نہ ڈرو یقیناً تم محفوظ ہو۔ ڈالو ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے اور بھیج لو اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے۔ پس یہ دونشیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ ہیں بڑے نافرمان۔“

درج بالا چند آیات پر غور کیا جائے تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آیات کا ترجمہ اور سیاق و سباق یہی ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی سانپ کا روپ دھاگئی تھی جس سے موسیٰ بھی ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا کہ مت ڈرو۔ ہم اس کو ویسی ہی حالت پر لادیں گے۔ علاوہ ازیں جو خصوصیات لاٹھی کی بیان کی گئی ہیں وہ ”عصا“ کا کوئی اور مطلب نکالنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ یعنی ”عصا“ کا مطلب جماعت، سہارا اور دلائل لیا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہ مقام پرویز صاحب کے لیے بھی مشکل کا باعث تھا اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی کہہ دیا کہ میں تو ان مقامات کا مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور وہ مجازی مفہوم بھی خود پرویز صاحب کا وضع کردہ ہے۔ اس کے لیے بھی تاریخ کی کوئی سند یا حوالہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ تصوف کے باطنی معنی کی تعبیر کو پرویز صاحب ایک بہت بڑا فساد قرار دیتے ہیں کیونکہ باطنی معنی بالواسطہ اللہ کی طرف سے ”صوفی“ کو ملتا ہے۔ جس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہوتی۔ اسی انداز سے پرویز صاحب نے مجازی مفہوم لے لیا ہے۔

دوسری بات پرویز صاحب نے یہ کہی کہ موسیٰ کا مقابلہ قوم فرعون کے مذہبی علماء سے تھا۔ لیکن قرآن کریم نے تو یہی بتایا کہ وہ مقابلہ جادوگروں (ساحروں) سے تھا۔ یہاں پرویز صاحب نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ ”ساحر“ سے مذہبی علماء کیسے مراد مانا جائے۔ حالانکہ ”علماء“ کا لفظ خود عربی کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ”علماء“ پکار کر بات کو صاف کر دیتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پھر پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ ”قوم فرعون کے مذہبی علماء نے اپنے باطل مذہب کی

تائید میں دلائل پیش کئے، لیکن قرآن کہتا ہے **فَالْقَوْمَ جِبَالَهُمْ وَعَصِيْبَهُمْ** ”و انہوں نے پھینکیں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں“۔ اب اگر مقابلہ مذہبی علماء سے تھا اور دلائل کا تھا تو پھر رسیوں اور لاٹھیوں کا کیا کام؟

اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ سمندر کا پھٹنا حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ مد و جزر کی وجہ سے ہے اور جب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خشک راستہ سے سمندر پار کیا تو پانی اتر ا ہوا تھا۔ لیکن جب فرعون اور اس کی قوم نے سمندر پار کرنا چاہا تو پانی اوپر چڑھا آیا۔ جس سے فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ پرویز صاحب کی توقع حیرت انگیز طور پر درست رہی کہ ان کے تابعین میں سے کسی نے کونسا چیک کرنا ہے کہ مد و جزر کیا ہوتا ہے؟

اب یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے کہ سمندر کی سطح کا (Rise & Fall) مد و جزر کہلاتا ہے۔ جو کہ چاند کی کشش کی وجہ سے ہے۔ جن دنوں میں سمندر کا پانی کافی اوپر تک چڑھا ہوتا ہے اسے مد (Spring Tide) کہتے ہیں۔ اور جن دنوں میں سمندر کا پانی نیچے تک اتر ا ہوتا ہے اس کو جزر (Neap Tide) کہتے ہیں۔ پانی کا چڑھاؤ (New Moon) اور (Full Moon) کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اور پانی کا اتر اؤ چاند کے (First Quarter) اور (Third Quarter) میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے پانی کے اتر ا اور چڑھاؤ میں سات دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اثر سمندر کے کنارے پر بالکل آہستگی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح مد ہے تو شام کو جزر ہو جائے گا۔ قرآن میں واضح طور پر سمندر کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ نہ کہ کسی مد و جزر کا۔

اور جس طرح یہ واقعہ سورہ الشعراء میں بیان ہوا ہے۔ اس کے مطابق سمندر کے کنارے پر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ اور وہ قریب پہنچ گئے تھے کہ ایک گروہ (قوم موسیٰ) سمندر کو پار کر گئی اور دوسرا گروہ (قوم فرعون) غرق ہو گئی۔

اور سمندر کے دونوں کنارے بڑے پہاڑ کے ٹکڑوں کی مانند ہو گئے تھے۔ اس بارے پرویز صاحب نے کوئی توجیہ نہیں دی۔

”سو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے صبح کے وقت۔ پھر جب آ مناسا منا ہوا دونوں گروہوں کا تو کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ بے شک میرے ساتھ

ہے میرا رب۔ وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا۔ سو وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مارو اپنا عصا سمندر پر۔ تو وہ بھٹ گیا اور ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند۔ اور قریب لے آئے ہم اس جگہ دوسرے گروہ کو بھی۔ اور بچا لیا ہم نے موسیٰ کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، سب کو۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے گروہ کو۔ بے شک اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر نہیں ہیں اکثر لوگ یقین کرنے والے۔“

تقریبات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو چیز جس انداز سے بیان کرتا ہے اس کو من و عن ہی تسلیم کرنا چاہئے۔ نہ کہ خارج از قرآن معیارات کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کرنی چاہئے۔ معجزہ ایک حقیقت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈرانے کے لیے ایسی نشانیاں اپنے پیغمبروں کو دیں۔ جو ماورائے عقل تھیں تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کے چند اور مقامات دیکھتے ہیں۔

☆ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ فَسْتَلَبْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِدْجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝ (17/101)

”اور یقیناً عطا کئے تھے ہم نے موسیٰ کو نو معجزات پس پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آئے موسیٰ ان کے ہاں تو کہا تھا ان سے فرعون نے بے شک میں سمجھتا ہوں تمہیں اے موسیٰ! سحر زدہ شخص۔“

☆ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ط أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ مِّنْ هٰۤؤُلَاءِ شٰرِكُونَ ۝ (28/48)

”پھر جب آیا ان کے پاس حق (قرآن) ہماری طرف سے تو کہنے لگے: کیوں نہیں دیا گیا اسے بھی وہی کچھ جو دیا گیا موسیٰ کو۔ تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہتے تھے ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔“

☆ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهٖ ط وَمَا يَحْحَدُ بِاٰتِنَا اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخْطُ بِيَمِيْنِكَ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ بَلْ هُوَ اٰيٰتٍ مُّبِيْنٰتٍ فِىْ صُوْرٍ اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ط

وَمَا يَحْصُدُ بَايِنَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ هَ وَ قَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ ط وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ه أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ط إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ه (29/47-51)

”اور اے نبی اسی طرح نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب۔ سو وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر اور ان (اہل مکہ) میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں اس قرآن پر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، مگر کافر۔ اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے تم اسے اپنے ہاتھ سے، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑ سکتے تھے یہ باطل پرست لوگ۔ دراصل قرآن، آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں دیا گیا ہے علم اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئیں اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے انہیں، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“

درج بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ معجزہ بطور ایک حقیقت کے موجود رہا ہے۔ موسیٰ کو نو معجزات عطا کئے گئے اور پھر اہل مکہ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ حضور کو ویسا ہی معجزہ کیوں نہ دیا گیا جیسا حضرت موسیٰ کو عطا کیا گیا۔ اور آخری آیت میں لفظ ”آیت“ کو دو معنوں میں استعمال کر کے بات واضح کر دی کہ آپ پر آیات اتاری گئیں تو اہل کتاب اور مکہ والے لوگوں میں سے کچھ ان آیات پر ایمان لائے۔ پھر آگے جا کے ان کا یہ مطالبہ کہ حضور پر کوئی آیت (معجزہ) کیوں نہ اتارا گیا؟ تو حضور کی زبان سے یہ کہلوادیا گیا کہ ”إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ“ کہ معجزے اللہ کے پاس موجود ہیں۔

قتل ابنائے بنی اسرائیل کے واقعہ میں قتل ابنائے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے اس کا بھی مفہوم بدل دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ فرعون حقیقی طور پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ آئیے اس سلسلہ میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔

”وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ“ (2/49)

اور (اپنی تاریخ حیات کا) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے جنہوں نے تمہیں نہایت سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا نجات دی تھی۔ وہ تمہارے ابناء ذبح کرتے تھے اور نساء کو زندہ رکھتے تھے۔ اور فی الحقیقت اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی ہی آزمائش تھی۔

لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد سچ مچ کا ذبح کرنا نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس حکم پر ایک نسل تک بھی عمل درآمد ہوتا تو مصر سے بنی اسرائیل کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی اتنی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ نیز ان کے زمانے میں ان کے بھائی حضرت ہارون بھی موجود تھے جو ان سے بڑے تھے۔ اگر لڑکے ذبح ہو جایا کرتے تو ہارون کس طرح زندہ بچ جاتے؟ پھر، قرآن میں دوسرے مقام (40/50) پر ہے کہ فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں ان کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح ابناء کا حکم حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت موجود نہیں تھا۔ ذبح اور قتل سے مراد ذلیل و خوار کرنا بھی ہے۔ ”ابنائے قوم“ سے مراد ہیں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن میں جوہر مردانگی نظر آتا تھا اور ”نساء قوم“ سے مقصود ہیں وہ لوگ جو ان سے عاری تھے قرآن میں ہے (28/4) کہ فرعون (ہر مستبد اور فریب کار حاکم کی طرح) اس قوم میں پارٹیاں پیدا کرتا رہتا تھا۔ ایک پارٹی کو معزز و مکرم بنا کر آگے بڑھاتا اور دوسری پارٹی کو ذلیل و خوار کر کے پیچھے ہٹاتا اور اس طرح انہیں آپس میں لڑاتا بھڑاتا رہتا۔ وہ بنی اسرائیل (قوم محکوم) کے ان افراد کو آگے بڑھاتا جو نہایت کمزور خصائص مردانگی سے عاری ہوتے اور ان کے فرزند ان جلیل کو ذلیل کرتا جن میں اسے جوہر مردانگی نظر آتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقصد کے پیش نظر بنی اسرائیل کے اونچے خاندانوں کے لڑکوں کو بچپن ہی سے ایسی حالت میں رکھتا ہو کہ وہ صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رہیں۔ اور اس طرح بڑے ہو کر ذلیل و خوار ہو جائیں۔ (برق طور 21/22)

وہ بچے کو شاہی محلات میں لے آئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انہوں نے (بچے کے خط

وخال سے) اندازہ لگالیا کہ وہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے۔ اس لئے اسے نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا گیا۔ لیکن بچوں کے معاملہ میں فطرت نساہت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو اپنے خاوند سے کہا کہ اسے مار نہ دیا جائے یا ذلیل و حقیر سمجھ کر پھینک نہ دیا جائے۔ اسے میں اپنی گود میں لے لینا چاہتی ہوں (غالباً ان کے ہاں اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ مَا تَتَّقُلُوهُ فَاصْلِحْ عِيسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ تَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ (28/9)

”اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ بچہ) میرے لیے اور تیرے لیے آنکھ کی راحت (ہوسکتا) ہے اسے مار نہ ڈالو (یا ذلیل نہ کرو) شاید وہ ہمارے لیے نفع کا موجب ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے (کہ مشیت کے پروگرام کیا ہیں)۔“ (برق طور 24)

حیرت ہے کہ دودھ پیتے بچے کو ذلیل و حقیر کرنا کیسا ہے؟ یہاں سے تو صاف ظاہر ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی واضح نہیں کہ قتل کے معانی تذلیل و حقیر کیسے اخذ کئے گئے؟ پھر قبلی کے معاملے میں پرویز صاحب یہ یقین رکھتے ہیں کہ موسیٰ کے مکا مارنے سے وہ قتل (مرگیا) ہو گیا تھا۔ (برق طور۔ 29)

پھر اگر، یہاں قتل سے مراد واقعی مار ڈالنا نہیں تو پھر موسیٰ کی والدہ نے آپ کو دریا میں کیوں ڈال دیا۔ اور پرویز صاحب کا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ یہ حکم اس وقت موسیٰ کی پیدائش کے وقت موجود نہیں تھا۔

وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا حِفْظٌ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ (28/7)

”چنانچہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہ اسے پھر جب خطرہ ہو تجھے اس کی جان کا تو ڈال دینا اسے دریا میں اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم واپس لے آئیں گے اسے تیرے پاس، اور بنائیں گے اسے رسول۔“

حضرت ابراہیمؑ۔ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ انہیں مخالفین نے آگ میں ڈال دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی کا موجب بن جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ سے بچالیا۔ مگر حسب معمول پرویز صاحب نے اس کی بھی عقلی توجیہ کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

”انہوں نے ابراہیمؑ کے خلاف اس منصوبے کا ارادہ کیا تھا۔ سچ سچ انہیں آگ کی بھٹی میں نہیں ڈال دیا تھا۔ وہ ابھی اپنی تدبیروں میں ہی لگے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ اس مقام سے ہجرت فرما کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔“ (جوئے نور۔ 122)

قرآن کریم نے حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَفَأَنفَكُوا إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ ۚ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ فَانظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۚ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۚ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۚ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۚ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۚ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۚ قَالَ أَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ۚ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۚ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي النَّجْمِ ۚ فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۚ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۚ (الصف

(37/83-99)

اور بے شک اسی کے طریقے پر چلنے والوں میں تھا ابراہیمؑ۔ جب آیا وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر۔ جب کہا تھا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا ہیں یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا خود ساختہ خداؤں کے۔ اللہ کو چھوڑ کر، طالب ہو تم؟ سو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پھر ڈالی اس نے ایک نگاہ ستاروں پر۔ اور کہا میری تو طبیعت خراب ہے۔ سو واپس چلے گئے وہ اسے چھوڑ کر اٹھے پاؤں۔ پھر چپکے سے جا گھسے ابراہیمؑ ان کے معبودوں کے پاس اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر پل پڑے ان پر مارتے ہوئے داہنے ہاتھ سے۔ پھر آئے وہ لوگ ابراہیمؑ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ ابراہیمؑ نے کہا کیا پوجتے ہو تم انہیں جنہیں تراشتے ہو تم خود ہی؟ حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو

بھی جو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا تیار کرو ابراہیمؑ کے لیے ایک الاؤ اور ڈال دو اسے دیکتی آگ میں۔ سو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا سوہم نے انہیں نیچا دکھا دیا اور (آگ سے نکلنے کے بعد) ابراہیمؑ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔“

☆ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ه (29/24)

”سو نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ کہا انہوں نے قتل کر دو ابراہیمؑ کو یا جلا دو اسے۔ سو بچا لیا اسے اللہ نے آگ سے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔“

☆ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ه إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ السَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ه قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَالَهَا عِبْدِينَ ه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ه قَالُوا آجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ه قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ زُمَّ ه وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ه وَتَاللَّهِ لَآ كَيْدَ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ه فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ه قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ه قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُّهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ه قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَالِيَنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ه قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا بُرْهَيْمُ ه قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ه كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ه فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ه لَأَنَّمْ نَكْسُوا عَلَىٰ رُؤسِهِمْ ه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ه قَالَ اتَّبِعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ه أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ه أَفَلَا تَعْقِلُونَ ه قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ه قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ه وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ه وَنَحْنُ إِلَىٰ الْآرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ه (21/51-71)

”اور یقیناً دی تھی ہم نے ابراہیمؑ کو ہدایت و دانائی اس سے بھی پہلے اور تھے ہم اس کو خوب جاننے

والے۔ جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیسی ہیں یہ مورتیاں جن (کی پرستش) پر تم جھے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا، پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیمؑ نے کہا: یقیناً ہو تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا، کیا لائے ہو تم ہمارے پاس سچی بات یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیمؑ نے کہانی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے پیدا کیا ہے انہیں اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور قسم اللہ کی! میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔ سو کر ڈالا اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے سوائے بڑے بت کے اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے جس نے کیا ہے یہ سلوک ہمارے خداؤں کے ساتھ یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا: ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا ان کا، نام ہے اس کا ابراہیمؑ۔ کہنے لگے، اچھا تو پکڑ لاؤ اسے لوگوں کے روبرو تاکہ وہ مشاہدہ کریں (کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے)۔ کہنے لگے: کیا تو نے کی ہے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیمؑ؟ فرمایا، نہیں بلکہ کیا ہے یہ کام، ان کے اس بڑے نے، سو پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پھر پلٹے وہ اپنے ضمیر کی طرف اور کہنے لگے (اپنے دل میں) یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی (اور کہنے لگے) یقیناً تم جانتے ہو ابراہیمؑ کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیمؑ نے فرمایا سو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں تمہیں ذرا بھی اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں تمہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو پوجتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلاؤ الواس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے اے آگ! ہو جا ٹھنڈی اور بن جا سلامتی ابراہیمؑ پر۔ اور ارادہ کیا تھا انہوں نے ابراہیمؑ کے ساتھ برائی کرنے کا مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام۔ اور بچا کر لے گئے ہم اسے اور لوٹ کر اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے۔“

ان آیات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ مخالفین نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیمؑ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ (29/24) میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ سے بچالیا اور اس طرح مخالفین کی تدبیر ناکام

ہوگئی۔ اس آگ کے بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ وہ مخالفین کی آتش انتقام تھی جو ٹھنڈی ہوگئی۔ (ملاحظہ کیجئے متعلقہ آیات کا مفہوم، ”مفہوم القرآن“ مرتبہ پرویز صاحب) کس طریقے سے پرویز صاحب نے آگ کو آتش انتقام کا روپ دے دیا۔ آتش انتقام تو تب ٹھنڈی ہوتی جب مخالفین حضرت ابراہیمؑ کو جلا ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے۔ مگر قرآن نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اے آگ تو سلامتی والی بن جا۔ اب اگر آتش انتقام سلامتی میں بدل جاتی تو پھر حضرت ابراہیمؑ کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن کریم نے تو واضح طور پر کہہ دیا۔ ”اور ارادہ کیا انہوں نے ابراہیمؑ کے ساتھ برائی کرنے کا مگر ہم نے کر دیا ان کو بری طرح ناکام“ (51/70) اور پھر کہا ”سو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا سو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔“ (37/98) اس لیے مخالفین تو مکمل طور پر اپنی چال میں ناکام ہو گئے۔ اس لیے ان کی آتش انتقام کیسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگئی؟

قرآن کریم کا یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ اپنا مفہوم بدلنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس کو من و عن تسلیم کرنے میں ہی راہ نجات ہے۔

پرندوں کا زندہ ہونا۔ آئیے اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر جانتے ہیں

”دنیا میں خدائی انقلاب کی طرف دعوت دینے والوں اور لوگوں کو انسانوں کے خود ساختہ قوانین سے منہ موڑ کر فقط ایک اللہ کے قوانین کی اطاعت سکھانے والوں کی مشکلات پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا کام مردوں کو از سر نو زندگی بخشنے سے کم دشوار اور سنگین نہیں ہوتا۔ وہ ان کی اصلاح اور صحت بخشی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں لیکن ادھر سے جمود اور بے حسی یا سرکشی اور مخالفت کے سوا کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ یہی ہے وہ کیفیت جس کے اظہار کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ اے موت و حیات کے مالک! اس قسم کے مردوں میں زندگی کس طریق سے پیدا ہوگی؟

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ط (2/260)

”جب ابراہیمؑ نے کہا۔ اے پروردگار، مجھے دکھلا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کر دے گا۔“

جواب ملا

”ارشاد ہوا، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں (کہ اس پیغام سے مردوں کو زندگی مل سکتی ہے؟)“

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنُّ قَلْبِي ط (2/260)

”عرض کیا کہ ایمان کیوں نہیں! لیکن اس سوال سے مقصود اطمینان قلب ہے۔“

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ موت اور حیات (زندوں اور مردوں) سے وہی مراد ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کس بات کا اطمینان چاہتے تھے۔ پہلے سوال کے متعلق واضح ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، ان لوگوں کو جو پیغام خداوندی پر کان نہ دھر کر، خلاف شرف انسانیت راستوں پر گامزن رہتے ہیں۔ اندھے اور بہرے اور مردے کہا گیا ہے (دیکھئے 27/80-81, 30/52-53) خود نبی اکرمؐ کی دعوت کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم خدا اور رسول کی آواز پر لپیک کہو إِذَا دُعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (8/24) جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف لائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”زندگی“ سے مراد طبعی حیات نہیں۔ انسانیت کی زندگی ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا پیغام اسے فائدہ دے سکتا ہے مَنْ كَانَتْ حَيًّا (36/70) جس میں زندگی کی رتق باقی ہو۔ ان (اور ان جیسے مقامات) سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جن مردوں کو زندگی عطا ہونے کی بابت سوال کیا تھا، ان سے مراد ان کی وہ قوم تھی جو حیات انسانیت سے عاری ہو چکی تھی۔

دوسرے سوال کے متعلق یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ نے پوچھا یہ تھا کہ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ط (2/260) تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان مردوں کو زندگی عطا ہو جائے۔ یعنی آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس کا تو یقین ہے کہ پیغام میں اس کی صلاحیت ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر دے۔ لیکن مجھے اس کا اطمینان نہیں کہ اس مقصد کے لیے میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں۔ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے مجھے یہ بتادے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے۔ (كَيْفَ سے یہی مراد ہے)۔

حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ جو دعوت حق و صداقت سے اس قدر متوحش ہوتے ہیں کہ اس کے قریب تک نہیں آتے۔ یہ اس سے کس طرح مانوس ہونگے؟ اس کا جواب ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا گیا۔ ارشاد ہوا۔

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ه (2/260)

”ارشاد الہی ہوا۔ اچھایوں کرو کہ جنگل میں سے چار پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے پاس رکھ کر اپنے ساتھ ہلا لو (یعنی اس طرح ان کی تربیت کرو کہ وہ اچھی طرح تم سے مل جائیں)۔ پھر ان میں سے ہر ایک کو (اپنے سے دور) ایک ایک پہاڑ پر بٹھا دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ (آواز سنتے ہی) تمہاری طرف اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اللہ سب پر غالب اور اپنے کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے۔“

یعنی جب پرندوں تک کی یہ حالت ہے (جو انسان کے سایہ سے بدک جاتے ہیں) کہ اگر انہیں کچھ دنوں تک اپنے ساتھ مانوس کر لیا جائے تو اس کے بعد خواہ انہیں کیسا ہی آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا جائے۔ ایک آواز دینے پر وہ لپک لپک کہتے ہوئے دوڑ آتے ہیں تو کیا یہ ناممکن ہے کہ انسان (بشرطیکہ ان میں صلاحیت باقی ہو) مسلسل تربیت سے دعوت حق و صداقت سے مانوس نہ ہو جائیں اور ان میں یہ تبدیلی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ بھی ایک آواز پر جمع ہو جائیں۔ لیکن اس کے لئے اتنے ہی استقلال و استقامت (Patience) کی ضرورت ہے۔ جتنی ایک وحشی پرندے کو ہلانے اور سدھانے کے لئے درکار ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کونسی قوم تھی۔ جس کے متعلق حضرت ابراہیمؑ نے ان تاثرات کا اظہار فرمایا تھا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کی کلدانی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے اس لئے کہ اس میں ”مردوں کی زندگی“ کا یقین دلایا گیا اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہذا جس قوم کے متعلق ان تاثرات کا اظہار ہوا ہے وہ بالآخر رام ہو کر حضرت ابراہیمؑ کے گرد ضرور جمع ہوئی ہوگی۔ یہی وہ قوم تھی جس میں حضرت ابراہیمؑ نے نظام خداوندی کو قائم فرمایا تھا۔ بعض لوگ اس واقعہ کو اس کے ظاہری الفاظ پر محمول کرتے ہیں۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حشر کے روز مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس

کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ ”چار پرندوں کو لے کر اپنے ساتھ ہلا لو (پھر انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) ان کا ایک ایک حصہ چار پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آجائیں گے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کرتا ہے تو اس کے لیے مردہ پرندوں کو زندہ کر دینا کیوں مستبعد ہو؟ لیکن قرآن کریم سے اس تفسیر کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ اول تو یہ کہ اس کے لئے مندرجہ صدر ترجمہ میں قوسین کی عبارت کا اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ ایک مرد مومن کے لئے اللہ اور آخرت پر ایمان نقطہ آغاز ہے۔ اس کی زندگی کی تمام عمارت اسی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اس لئے وہ حیات بعد الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ ثالثاً یہ کہ دوہی آیات پیشتر بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے مباحثہ کا ذکر ہے۔ جس میں حضرت ابراہیمؑ نے ذات خداوندی کے متعلق سب سے پہلی دلیل یہ پیش کی ہے کہ

رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِ وَ یُمِیْتُ (2/258) میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس لئے آپ کا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ میں طمانیت قلب کے لئے یہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرینہ سے ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ اور رابعاً اگر اللہ تعالیٰ نے یہی دکھلانا تھا کہ ہم یوں مردوں کو زندہ کریں گے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک پرندہ ذبح کر کے ڈال دیا جاتا اور جب اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اس کے لئے چار پرندوں کا قیمہ کر کے انہیں الگ الگ پہاڑوں پر رکھنا طولانی ساعمل نظر آتا ہے۔ بنا بریں اس واقعہ کا جو مفہوم ہم نے شروع میں لکھا ہے وہی قرآنی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ فَصُرْمُنَّ إِلَیْكَ (انہیں ہلا کر اپنے ساتھ مانوس کر لو) کا ٹکڑا اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔

بہر حال ان میں سے کوئی بھی مفہوم لیجئے۔ ایک حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ چیز تو کبھی حیطہ تصور میں بھی نہیں لائی جاسکتی کہ (معاذ اللہ، معاذ اللہ) حضرت ابراہیمؑ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں شک کا کوئی شائبہ تک بھی تھا۔ انسانوں کی کفر و ضلالت کی روحانی موت کے بعد ہدایت و سعادت کی حیات نو، یا حشر اجساد، دونوں باتوں پر آپ کا یقین ایک غیر متزلزل ایمان کی حیثیت رکھتا تھا۔“ (جوئے نور 166-162)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ نظر۔ سب سے پہلے ہم پرویز صاحب کے ان چار اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے متعلقہ آیت کے مفہوم پر کئے ہیں۔

اول۔ مندرجہ صدر ترجمہ میں تو سین کی عبارت کا اضافہ نہ بھی کریں تو بھی فَصْرُهُنَّ اور مِنْهُنَّ جُزْءٌ کے الفاظ اپنا مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ پھر پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کریم سے اس تفسیر کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عربی الفاظ تو مرجمہ مفہوم پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ پرویز صاحب نے تو سین کے اندر اور باہر بیان کیا ہے اس کا کونسا قرینہ پایا جاتا ہے؟

دوم۔ بالکل بجا ہے لیکن ایک چیز قرآن نے بیان کی ہے تو کیا صرف اس وجہ سے قرآن کی آیات کو جھٹلایا تو نہیں جاسکتا۔ اور یہ کوئی اللہ کا بیان فرمودہ قول تو نہیں کہ کوئی بھی شخص اس چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کا تقاضا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے بھی تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔

سوم۔ اب جو بات ابراہیمؑ نے کہہ دی ہے قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِيُطْمَئِنِّ قَلْبِي اس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میں قرینہ سے ٹھیک نہ معلوم ہونے والی کوئی بات ہے؟

چہارم۔ اب یہ طولانی سائل تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی بیان فرمایا تھا۔ اس پر تو عمل ضروری تھا، وگرنہ ابراہیمؑ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ایک ہی پرندہ کیوں نہ لے لوں۔ (معاذ اللہ)

ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے اور سچے مومن تھے، اور اس بات کی گواہی قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیمؑ کو خدا کی قدرت پر ایمان تھا اس لئے وہ یہ سوال (کہ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟) نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم وہی ٹھیک ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔۔۔ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ؟ مگر ابراہیمؑ کے جواب نے اس شک کو ختم کر دیا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِيُطْمَئِنِّ قَلْبِي اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ سوال (کہ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟) یہی تھا۔ نہ کہ کسی مردہ قوم کو زندگی عطا کرنے کی کوئی بات۔

اس کے ساتھ ہی ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر چکے ہیں۔ جب کہا کہ

☆ اَوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ؕ قَالَ اِنِّي يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ

مَوْتِهِنَّ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ
 بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ط وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
 وَ لِنَحْمَلِكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
 قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2/259)

”یہ اس شخص کی مانند کہ جس کا گزرا سبستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا
 اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا سو سال
 کے لیے، پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری ہے کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا
 بلکہ تو سو سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ اور اپنے گدھے
 کو بھی دیکھ۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے
 ہیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ
 تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اب یہاں بھی اس اللہ کے بندے نے اس تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کیسے مردہ بستی کو زندہ
 کر سکتا ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ نے اسے مار کر، پھر سو سال بعد زندہ کیا اور اپنی قدرت کی
 نشانیاں دکھائیں اور پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اب متذکرہ بالا اعتراضات اور ان کے جوابات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ
 اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ ان کی بنیاد تب ہوتی جب پرویز صاحب ان آیات کے مروجہ مفہوم پر
 لغت، عربی زبان کے قواعد، گرائمر، ترجمہ کے اصول یا سیاق و سباق کے حوالے سے اعتراضات
 کرتے اور پھر یہ ثابت کرتے کہ مروجہ مفہوم درست نہیں ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرویز صاحب کی بات کو صحیح مانا جائے کہ حضرت
 ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مردہ قوم کیسے زندہ ہوگی اور اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ مگر پھر بھی
 حضرت ابراہیمؑ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ تعجب
 ہے؟ یہاں پرویز صاحب نے کہا کہ یہ ان کی کلدانی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے اور حضرت ابراہیمؑ
 نے نظام خداوندی قائم کیا تھا۔ تو اس کا کوئی حوالہ قرآن کریم یا تاریخ سے نہیں دیا۔

اگلی بات یہ کہ قرآن کریم نے کہا ہے ”ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ۙ اِذَا
 پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے کا کچھ حصہ رکھ دو۔“ جو یہی ظاہر کرتا ہے کہ پرندوں کو ذبح کر کے آپس
 میں مکس (Mix) کر کے پھر ہر پہاڑ پر کچھ حصہ رکھنا ہے۔

پھر یہ کہ پرویز صاحب نے یہاں ’الطَّيْر‘ کا ترجمہ ”پرنده“ کیا ہے۔ وگرنہ اسی
 ’الطَّيْر‘ کا ترجمہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے واقعات میں وہ ”قبیلہ طیر کے لوگ“
 کرتے ہیں۔

بہر حال قرآنی آیات اپنے مطالب میں بہت واضح ہیں۔

اب دیکھتے ہیں حضرت داؤد کے بارے میں قرآنی آیات پر پرویز صاحب کا نقطہ نظر
حَضْرَتُ دَاوُدَ ۙ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ وَالطَّيْرِ
 مَحْشُورٍ ط ۙ كُلٌّ لَّهُ اٰوَابٌ ۝ (38/18-19)

”بلاشبہ ہم نے پہاڑی قبائل کو اس کے لئے مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ ”تسبیح“ کرتے
 تھے۔ اور قبیلہ طیر کو جمع کر دیا تھا۔ سب کے سب اس کی طرف رجوع ہونے والے (مطیع و
 منقاد) تھے۔“

اس آیت میں الجبال کے معنی پہاڑی قبائل بھی ہو سکتے ہیں اور الطیر کے معنی قبیلہ طیر
 کے منتشر خانہ بدوش افراد جن سے شاہی رسالے (گھوڑوں کے رسالے) مرتب ہوتے تھے۔ تسبیح
 کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس سے مطلب تسبیح کے دانے گننا نہیں ہوتا بلکہ فرائض مفوضہ کی
 سرانجام دہی میں پوری پوری قوتوں سے سرگرم عمل رہنا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ
 بڑے بڑے سرکش پہاڑی قبائل حضرت داؤد کے تابع فرمان تھے جو ان کے ساتھ ان کے متعین
 کردہ پروگرام کی تکمیل میں دن رات سرگرم عمل رہتے تھے۔ نیز خانہ بدوش قبیلہ طیر کے افراد کو بھی
 اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ ان پر حضرت داؤد کے گھوڑوں کے رسالے مشتمل تھے۔

نیز دھاتوں سے اسلحہ سازی کا کام لیا جاتا تھا۔

☆ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِّنَّا فَضْلًا ط ۙ جِبَالًا اَوْبِيٍّ مَّعَهُ وَالطَّيْرِ ۙ وَآلْنَا لَهُ الْاَحْدِيْدَ ۙ اِنِ اَعْمَلُ

سَبِغَتْ وَقَلْبُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (34/10-11)

”اور دیکھو ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضیلت عطا فرمائی۔ (اور پہاڑی قبائل کو حکم دے دیا) تم داؤد کے ساتھ مل کر فرائض مفوظہ کی تکمیل کرو۔ اور قبیلہ طیر کے لوگوں کو بھی حکم دیا۔ اور ہم نے لوہے کو اس کے لئے نرم کر دیا۔ (اور داؤد کو حکم دے دیا) کہ پوری زرہیں بناؤ اور زرہ کی لٹریاں بنانے میں اندازہ رکھو (کہ برابر رہیں) اور صلاحیت بخش کام کرتے رہو۔ (دیکھو) جو کچھ تم کرو گے میں اسے دیکھنے والا ہوں۔“

یہی ایک مرد مومن کی خصوصیت ہے کہ یہ جب اس کا ہو جاتا ہے جس کی ساری دنیا ہے تو پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے یہ اس کے حضور جھکا ہوا اور ساری دنیا اس کے حضور جھکی ہوئی۔

سورہ انبیاء میں ہے

☆ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ مَّهَابِسِكُمْ ۚ فَبَلَّ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ (21/79-80)

”اور ہم نے داؤد کے لئے پہاڑی قبائل کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تمام امور کو سرانجام دیتے اور اسی طرح قبیلہ طیر کو بھی۔ اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ (مزید برآں) ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بکتر بنانا سکھایا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی زد سے بچائے تو کیا تم (ہماری نوازشات کے) شکر گزار نہیں ہوتے۔“ (برق طور 250-251)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ نظر حضرت داؤد کے حوالے سے، ہم صرف یہاں پر ان قرآنی آیات کا ترجمہ قواعد و ضوابط عربی کے مطابق پیش کرتے ہیں۔

☆ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۚ وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً طُكُلًا لَهُ ۝ (38/18-19)

”ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اور پرندے سمٹ آتے تھے یہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔“

☆ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا طُيْجِبَالُ أَوَّيُّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَاللَّهُ الْهَدِيدُ ۚ لَأَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتْ وَقَلْبُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (34/10-11)

”اور بے شک عطا کیا تھا ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل (اور حکم دیا تھا کہ) اے پہاڑو! تسبیح و مناجات میں ساتھ دو اس کا اور (بہی حکم دیا تھا) پرندوں کو بھی۔ اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زرہیں اور ٹھیک اندازے پر رکھو ان کے حلقے اور کرو نیک کام۔ بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔“

☆ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۗ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحِصِنَكُمْ مِنْ هَابِسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ (21/79-80)

”اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور تھے ہم ہی (یہ سب) کرنے والے۔ اور سکھادی تھی ہم نے اسے صنعت سازی تمہارے لیے تاکہ وہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مار سے، پھر کیا ہو تم (ہمارا) شکر ادا کرنے والے۔؟“

یہ تھا قرآنی آیات کا ترجمہ۔ اب پرویز صاحب نے بڑی آسانی سے ”الْجِبَالَ“ کو ”پہاڑی قبائل“ اور ”الطَّيْرَ“ کو قبیلہ طیر اور ”تسبیح“ کو فرائض مفوضہ میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ انہیں واضح کرنا چاہئے تھا کہ کونسی لغات کے مطابق یہ معانی نکلتے ہیں۔ اب اگر ان کا معنی قبائل ہی ہوتا تو ”قبائل“ بذات خود عربی کا لفظ ہے اور قرآن نے اسے اور مقام پر استعمال کیا ہے۔ اب یہاں کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ”پہاڑی قبائل“ یا ”قبیلہ طیر“ کے لفظ استعمال کریتے۔ اس کے ساتھ ہی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ ”تسبیح کے معنی فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری تو توں سے سرگرم عمل رہنا ہے۔“ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر اس کے ساتھ وقت کی قید کیوں ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ”بِالْعَاشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ“ صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے اکثر مقامات پر آپ تسبیح کے ساتھ وقت کا تعین لازمی دیکھیں گے۔ (تسبیح کے متعلق مزید تفصیل کے لیے دیکھئے تسبیح کا موضوع)

اب دیکھتے ہیں حضرت سلیمان کے بارے میں قرآنی آیات پر پرویز صاحب کا نقطہ نظر
حضرت سلیمان۔

☆ وَوَرِثَ سُلَيْمَنَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْثِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

طِرَانٌ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ (27/16)

”اور (دیکھو) سلیمانؑ داؤدؑ کا وارث ہوا اور کہنے لگا لوگو! ہمیں منطق الطیر سکھایا گیا ہے۔ اور ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ بلاشبہ یہ تو خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔“

منطق الطیر کے معنی ”پرندوں کی بولی“ نہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں: طیر سے مراد گھوڑوں کا لشکر ہے (جو داؤد اور سلیمانؑ کے زمانہ میں بیشتر قبیلہ طیر کے افراد پر مشتمل تھا) اور منطق کے معنی اس لشکر کے قواعد و ضوابط ہیں۔ لہذا اس سے مطلب ہے گھوڑوں کے رسالہ کے متعلق علم۔ یہ اس زمانے میں بڑی چیز تھی۔

☆ وَالسَّيِّمِينَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمِينَ ۝ (21/81)

”اور (دیکھو) ہم نے (سمندر کی) تند ہواؤں کو بھی سلیمانؑ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ کہ اس کے حکم پر چلتی تھیں۔ اور اس سرزمین کے رخ پر جس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے۔ (یعنی فلسطین اور شام کے رخ پر جہاں بحر احمر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے) اور ہم ساری باتوں کی آگاہی رکھتے ہیں۔“

☆ وَالسَّيِّمِينَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا وَآسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ط وَ مِنَ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ط وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ

السَّعِيرِ ۝ (34/12)

”اور ہم نے سلیمانؑ کے لئے (سمندری) ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح کو ایک مہینہ کی اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت قطع کر لیا کرتی تھیں۔ اور (دیکھو) ہم نے اس کے واسطے تانبہ کا چشمہ بہا دیا تھا اور وحشی قبائل میں سے ان لوگوں کو مطیع کر دیا تھا۔ جو اس کے سامنے (ہر طرح کے) کام کرتے تھے اور (یہ حقیقت ہے کہ) جو ان میں سے ہمارے حکم سے منہ موڑتا ہم اسے جہنم کے (دردناک) عذاب (کامزہ) چکھاتے۔“

☆ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ۝ (38/36)

”چنانچہ ہم نے ان کے لیے (سمندر کی تند) ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ جو ان کے حکم کے مطابق

جہاں وہ جانا چاہتے تھے نرمی سے چلتی تھیں۔“

جب تک دھانی جہازوں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کشتیوں کے چلانے میں ہوائیں سب سے بڑی قوت تھیں۔ جہاں تک تاریخ شاہد ہے حضرت سلیمانؑ نے پہلے پہل بادبانوں سے ہواؤں کو مسخر کیا۔ نقشے میں دیکھئے۔ فلسطین کے شمال و مغرب میں بحر متوسط اور جنوب کی طرف بحر احمر واقع ہے۔ ان دونوں سمندروں میں مخالف سمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ جن سے دور دراز کے ملکوں کا سامان فلسطین تک آ پہنچتا ہے۔ اور یوں دنیا بھر کی برکت اس ”ارض مقدس“ میں جمع ہو جاتی ہے۔ (برق طور 261-262)

بحری بیڑے کے علاوہ حضرت سلیمانؑ کا بری لشکر بھی بڑا عظیم الشان تھا۔ جس میں کوہستانی عسکری قبائل اور مہذب آبادی کے افراد شامل تھے۔

☆ وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ (27/17)

”اور (دیکھو) سلیمانؑ کے لئے ہر قسم کے لشکر جمع کر دیئے تھے۔ کیا از قسم وحشی اور بدوی قبائل اور کیا از قسم متمدن اور حضری قبائل نیز گھوڑوں کے رسالے (کثرت تعداد کی وجہ سے اثر دھام ہو جانے پر) انہیں روکا جاتا اور ضبط کے اندر رکھا جاتا تھا۔“

یہ لشکر ایسا عظیم الشان تھا کہ جس خطہ ملک سے گزر جاتا وہاں کے لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر چھپ جاتے۔

☆ حَتَّىٰ إِذَا تَوَآءَىٰ وَادِ النَّمْلِ إِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَلَا وَهْمٌ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (27/18-19)

”حتیٰ کہ جب وہ قبیلہ نمل کی وادی پر گزرے تو ایک نملی نے اس زبردست اور لا تعداد لشکر کو دیکھ کر کہا کہ اے قبیلہ نمل کے لوگو! اپنے گھروں میں گھس جاؤ تمہیں سلیمانؑ اور اس کا لشکر روند نہ ڈالے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر سلیمانؑ ہنستا ہوا مسکرا دیا۔ اور بولا۔ اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے

والدین پر کئے ہیں اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جنہیں تو پسند کرتا ہو۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔“ (برق طور 264-266)

☆ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ رَصْلًا ۖ أَكَانَ مِنَ الْعَابِثِينَ ۗ لَأَعَذِّبُنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ۖ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۗ (27/20-21)

”اور (دیکھو) جب سلیمانؑ نے رسالوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے میں ہد ہد کو یہاں نہیں دیکھتا کیا وہ غائب ہے؟ یقیناً میں اسے بہت سخت عذاب دوں گا۔ بلکہ اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ الا یہ کہ وہ (اپنی غیر حاضری پر) کوئی واضح حجت (وجہ) پیش کر دے (تو شاید چھوڑ دوں)۔“

اس زمانے میں آدمیوں کے نام پرندوں اور جانوروں کے نام پر بھی رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ خود تورات میں ہے کہ ایک ادومی شاہزادے کا نام ہد ہد تھا (سلاطین (i) 11/14) ہندوں کے ہاں طوطا رام اور چوہا بل جیسے نام اب تک رکھے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مذکورہ صدر آیت میں جس ہد ہد کا ذکر ہے وہ رسالے کا کوئی افسر تھا۔ (برق طور-268)

☆ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا۟ ا۟ي۟م۟كُم۟ يَا۟ي۟ن۟ي۟ بَع۟ر۟ش۟هَآ قَب۟لَ۟ ا۟ن۟ يَآ۟تُو۟نِي۟ مُس۟لِمِي۟نَ ۗ قَالَ عَف۟رِي۟ت۟ مِّنَ۟ الْحَي۟ ا۟نَا ا۟ئِي۟كَ بِهٖ قَب۟لَ۟ ا۟ن۟ تَق۟و۟م۟ مِّن۟ مَّقَامِكَ ؕ وَا۟ن۟سِ۟ عَلَی۟هِ لَقَو۟ی۟ ا۟مِی۟نَ ۗ قَالَ الَّذِی۟ عِن۟دَهُۥ عِل۟مٌ مِّنَ۟ الْكِتَآبِ ا۟نَا ا۟ئِي۟كَ بِهٖ قَب۟لَ۟ ا۟ن۟ ي۟ر۟ت۟دَ۟ ا۟لَی۟كَ طَر۟فُكَ ؕ فَلَمَّا رَاَهُۥ مُس۟تَقِرًّا عِن۟دَهُۥ قَالَ هٰذَا مِّن۟ فَض۟لِ رَبِّی۟ ۗ فَمَن۟ لَّی۟س۟لُو۟نِي۟ۤ ا۟ءِ۟ش۟كُرُ۟م۟ ا۟م۟ ا۟ك۟فُرُ۟ طَو۟ مِّن۟ ش۟ك۟رٍ فَا۟ن۟مَآ یَش۟كُرُ۟ لِنَف۟سِہٖ ؕ وَا۟م۟ن۟ كَفَرَ۟ فَا۟ن۟ رَّبِّی۟ غَنِي۟ كَرِي۟مٌ ۗ قَالَ نَك۟رُو۟ا۟ لَهَا عَر۟شَهَا نَن۟ظُرُ۟ ا۟ن۟ه۟تَدِی۟ۤ ا۟م۟ تَك۟و۟نُ۟ مِنَ۟ الَّذِی۟نَ لَا یَه۟تَدُو۟نَ ۗ (27/38-41)

”سلیمانؑ نے کہا، اے اہل دربار! اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر آئیں۔ اس کا تحت میرے پاس کون لاتا ہے؟ وحشی قوم کے ایک فرد عفریت نامی شخص نے عرض کیا۔ میں اسے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں کہ آپ اپنے دربار سے اٹھیں۔ میں اتنی قوت رکھتا ہوں۔ اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا! میں اسے آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پیشتر لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب اسے سلیمانؑ نے اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہنے لگا۔ یہ میرے پروردگار کا احسان ہے۔ تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ اس کا شکر کرتا ہوں یا

ناشکری۔ اور (واقعہ ہے کہ) جو شکر کرتا ہے۔ وہ اپنے (فائدے کے لئے) شکر کرتا ہے۔ (کیونکہ اس کا بہتر نتیجہ اسی کو ملتا ہے) اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا ان کے شکر یوں سے بے نیاز اور کریم ہے۔ (پھر سلیمان نے اہل دربار کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ سبا کے تخت کی صورت تبدیل کر دو! ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اسے اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے یا وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کی عقل (حقائق کی طرف) راستہ نہیں پاتی۔“

یہ ان الفاظ کا لفظی ترجمہ ہے۔ مفہوم ان کا یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے تجویز کیا کہ قبل اس کے کہ ملکہ سبا کے لشکر میدان میں مقابلہ کے لئے آجائیں ہمیں چاہئے کہ جلدی سے اس کے دارالسلطنت پر زور کا حملہ کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے آئیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے کمانداروں سے پوچھا کہ اس مہم کو کون جلد از جلد سر کر سکتا ہے۔ اس پر وحشی قبائل کے ایک قوی ہیمل سردار نے جو جسمانی قوت کے علاوہ معاملہ نمبی میں بھی ماہر تھا۔ کہا کہ میں اس مہم کو اتنی جلدی سر کر سکتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ یہاں سے آگے کوچ کریں۔ ملکہ اور اس کا تخت و تاج آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ایک اور افسر تھا۔ جسے اس خط و کتابت کا بھی علم تھا جو ملکہ سبا سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس مہم کو اس سے بھی زیادہ جلدی سر کر سکتا ہوں۔ اتنی جلدی کہ آنکھ جھپکنے کے عرصہ میں ملکہ کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ وہ مہم اس کے سپرد کر دی گئی اور اس نے اسے نہایت حسن و خوبی سے سر کر لیا۔ (برق طور)

حضرت سلیمان کے حالات زندگی کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ”مَنْطِقُ الطَّيْرِ“ یعنی پرندوں کی بولی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں پرویز صاحب نے ”الطَّيْرِ“ سے مراد ”پرندے“ ہی لیا ہے۔ جبکہ حضرت داؤد کے واقعہ میں وہی ”الطَّيْرِ“ ”قبیلہ طیر“ بن گیا اور یہاں پر ”گھوڑوں کا لشکر“۔ حالانکہ سیاق و سباق کی رو سے ”الطَّيْرِ“ ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ پرویز صاحب کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جہاں دل کیا اپنی ہی مرضی کا مطلب لگا دیا۔ اور وہی مفہوم نکالا جو پہلے سے ذہن میں طے شدہ تھا۔ حالانکہ اپنے لٹریچر میں وہ بارہا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ خالی الذہن ہونا چاہئے۔

اس کے بعد ہوا کا ذکر ہے۔ جس کے مفہوم میں پرویز صاحب نے ”سمندری ہوا“ کا اضافہ خود کیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے صرف ”ہوا“ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح پرویز صاحب نے اصل بات کا رخ ”بادبانی کشتیوں“ کی طرف موڑ دیا۔ حالانکہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ ”تَحْسِرِي بِأَمْرِهِ“ یعنی آپ کے حکم سے ہوا چلتی تھی اور آپ ہوا کے ذریعے جہاں جانا چاہتے پہنچ جاتے تھے۔

اب آتی ہے اس واقعہ کی سب سے اہم بات۔

☆ حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ لَقَا نَمْلَةً يُأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَلَا وَهْمٌ لَا يَشْعُرُونَ ه فَنَبِّئْهُمْ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ه (27/18-19)

” (اور ایک مرتبہ) جمع کئے گئے سلیمان کے جائزہ کے لئے اس کے تمام لشکر جو مشتمل تھے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر، پھر ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی۔ (اور چل پڑے) حتیٰ کہ جب وہ پہنچے چیونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیو! گھس جاؤ اپنے بلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی بات پر اور کہنے لگے اے میرے مالک! مجھے تو فائق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیرے ان احسانات کا جو تو نے کئے ہیں مجھ پر اور میرے والدین پر اور یہ کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک عمل جو تجھے پسند ہوں اور داخل فرما تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔“

ان آیات کا جو مفہوم پرویز صاحب نے بیان کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ویسے ضمناً عرض کرتا چلوں۔ کہ ”وادی نمّل“ کی چیونٹی پر ”طلوع اسلام“ اور ”اشراق“ کے درمیان بحث کافی دیر تک چلتی رہی ہے۔ جس میں اس کے لغوی مطالب اور گرامر کی تشریحات کے لحاظ سے مفصل بات کی گئی ہے۔ جس کو میرا خیال ہے اگر مرتب کیا جائے۔ تو ایک کتاب ضرور بن جائے گی۔ بہر حال ہم یہاں سیاق و سباق کے حوالہ سے بات کریں گے۔ اس آیت میں ”لَا يَحْطِمَنَّكُمْ“

سَلِيمُنْ وَ مَجْنُودُهُ لَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ه“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ کہ ”کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمانؑ اور ان کا لشکر جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔“ اب ظاہری بات ہے اگر انسانوں کی وادی ہوتی تو لازماً یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیونکہ کچلنے سے پہلے اور بعد میں لشکر کو ضرور معلوم ہو جاتا۔ اور انسانوں کو بے خبری میں کچلا نہیں جاسکتا۔ یہ تو صرف ”چیونٹیوں“ کی ہی مخلوق ہو سکتی ہے جس کو بے خبری اور لاعلمی میں کچلا جاسکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمانؑ یہ بات سن کر مسکرائے اور اللہ سے کہا کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیرے احسانات کا جو تو نے کئے ہیں مجھ پر۔ اب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خاص بات ہوئی ہے جو مروجہ قاعدے اور قانون سے ہٹ کر ہے۔ جس پر سلیمانؑ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ یہی تھی کہ آپ چیونٹی کی زبان کو سمجھ رہے تھے۔

☆ وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى زَصَلَهُ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ه لَأَعَذَّبَنَّكَ عَبْدًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحُكَ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ه (27/20-21)

”اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔“

یہاں پرویز صاحب نے کہہ دیا کہ ”ہدہد“ رسالے کا کوئی افسر تھا۔ حالانکہ اس آیت میں یہ چیز واضح ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو غائب پایا۔ اس کے بعد خط و کتابت بھی اسی ہدہد کے ذریعے سرانجام پائی۔

اس کے بعد پرویز صاحب نے جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ ہے (27/38-41)۔ اس کا ترجمہ انہوں نے بعینہ درج کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مفہوم بیان کیا ہے وہ ان کا اپنا وضع کردہ ہے اور قرآنی عبارت سے اس کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔

یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہے جیسا کہ ہم گذشتہ واقعات میں دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں کہیں ایک یا دو لفظوں کا مفہوم یا معنی بدل کر پرویز صاحب کا کام چل جاتا ہے

وہاں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور باقی آیت کو نہیں چھیڑتے۔ مگر جہاں ایک یا دو لفظوں کے مفہوم بدل کر بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا وہاں وہ پوری آیت یا آیات کو پس پشت ڈال کر اپنا علیحدہ ہی مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ اب قرآنی الفاظ ہیں کہ ”قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ“ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ”ایک اور افسر تھا جسے اس خط و کتابت کا بھی علم تھا۔ جو ملکہ سب سے ہوئی تھی۔“ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم پھر درج کرتے ہیں۔

☆ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَا أَيُّنِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ه قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْحَرِيِّ أَنَا أَيُّنِكَ بِه قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ه قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَيُّنِكَ بِه قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۚ فَمَنْ لِيْبَلُونِي ۚ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ط وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ه قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ه (27/38-41)

”آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک سرکش جن کہنے لگا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اور میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ وہ شخص کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکرگزار ہوں یا ناشکری۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پروا اور بزرگ ہے۔“

اس آیت پر بار بار غور کیجئے کیا اس سے یہی ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت سلیمان کے قبضہ میں کچھ ایسے امور بھی تھے جو آج کے Cause and Effect سے ماورا تھے۔ پلک جھپکنے سے پہلے یا اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے ملکہ سب کا تخت آ موجود ہونا کونسے علت و معلول کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس پر بھی حضرت سلیمان کا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سے پہلے بھی چیونٹی کی زبان سمجھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔

آیت (21-27/20) میں ”طیر“ کو ”رسالے“ اور ”ہد“ کو ”رسالے کا کوئی افسر“ بول دیا اور باقی آیت کا ترجمہ بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو مفہوم اپنی مرضی کا کر لیا۔ مگر اس آیت میں ایک دو الفاظ کو بدلنے سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے یہاں پورا مفہوم ہی بدل دیا۔ بعینہ جیسے قصہ موسیٰ میں ایک یا دو الفاظ کا مطلب بدلنے سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ وہاں کہہ دیا کہ میں تو ان آیات کا ”مجازی مفہوم“ لیتا ہوں۔

جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور حرف بہ حرف اسی حالت میں ہے جس حالت میں چودہ سو سال پہلے تھا۔ تو پھر اس کو من وعن کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ اس کی ہر بات یا اس کائنات میں ہر کام علت و معلول کی کڑیوں میں بندھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتے ہیں **يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ** جو چاہے کر سکتا ہے۔ قادر ہے۔ اور اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ مگر پھر بھی پرویز صاحب کیوں اللہ تعالیٰ کو بھی قانون کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔

اب دیکھتے ہیں حضرت یونس کے بارے میں قرآنی آیات پر پرویز صاحب کا نقطہ نظر
حَضْرَتُ يُونُسَ - وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ه إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ه (140-139/37)

”اور (دیکھو) یونس بھی (ہمارے) فرستادہ پیغمبروں میں سے تھا۔ (یاد کرو) جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا تھا۔“

اس میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ آپ (معاذ اللہ) خدا کے حکم کی تعمیل سے جی چرا کر بھاگ نکلے تھے۔ قرآن کریم کی رو سے اللہ تعالیٰ کے ایک رسول کے متعلق ایسی بات کا تصور بھی کفر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سورہ انبیاء میں آپ کے دشمنانک ہونے کا ذکر آیا ہے۔

☆ **وَذَٰلِكَ النَّوْنُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ قِ ص لَ إِني كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ه ص فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لَا وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ط وَ كَذَٰلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ه (88-87/21)**

”اور (اسی طرح) ذالنون (کا معاملہ یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ وہ (راہ حق میں) شمشناک ہو کر چلا گیا۔ پھر اس نے خیال کیا ہم اسے تنگی میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن پھر (جب حالت اس پر تنگ ہوئی تو مایوسی کی) تاریکیوں میں اس نے پکارا، خدا یا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرے فیصلے ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے (اپنے اوپر بڑا ہی) ظلم کیا۔ تب ہم نے اس کی پکار سن لی اور غمگینی سے اسے نجات دی (دیکھو) ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔“

ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ رسول پہلے اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتا ہے لیکن جب مسلسل دعوت و تبلیغ کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قوم صحیح راستے کی طرف نہیں آرہی تو وہ خدا کے حکم کے مطابق اس مقام کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہاں کے متعلق یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس دعوت کے لئے فضا زیادہ سازگار ہے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے جب دیکھا کہ قوم اپنی سرکشی اور مخالفت سے باز نہیں آتی تو وہ قوم سے ناراض ہو کر کسی دوسری طرف جانے کے لئے چل نکلے۔ ابھی خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ ان کا یہ فیصلہ خدا کے کسی حکم کے خلاف نہیں تھا۔ اس لیے انہیں اس کا خیال تک بھی نہیں آسکتا تھا۔ کہ ان کا یہ فیصلہ خدا کی نارضا مندی کا موجب ہوگا۔ لیکن جب انہیں مشکلات کا سامنا ہوا تو اس کا احساس ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ خدا کے حکم سے پہلے ہی کر لیا۔ اس لیے یہ منشاءً ایزدی کے مطابق نہیں ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لئے اللہ سے معافی چاہی۔

واقعہ کی مسلسل کڑیاں یوں مذکور ہیں اس کے بعد ہے۔

☆ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۚ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ (37/141-142)

”پس (جہاز کے) مسافروں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے۔ چنانچہ یہ ان لوگوں میں ہو گئے جو سمندر میں ڈال دیئے گئے۔ پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو منہ میں دبوچ لیا اور وہ اپنے آپ کو (اس وقت) ملامت کر رہے تھے۔“

قرآن نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ کشتی کے کچھ لوگ دریا میں کیوں ڈال دیئے گئے۔ لیکن پہلے جو کہا گیا ہے کہ کشتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی تو اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ

آگے چل کر کشتی بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے ڈوبنے لگی ہوگی اور ملاحوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بوجھ کم کرنے کے لئے کچھ سوار یوں کو نکال دیا جائے تاکہ باقیوں کی جان بچ جائے۔

اس کے بعد ہے

☆ قُلْ وَلَا آتَاكَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۚ لَكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُعْتَدُونَ ۚ فَابْتَدِئْ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۚ (37/143-145)

”پس اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا۔ مگر (مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے) وہ اس وقت مضمحل تھا۔“

یہاں پر مسبحین کا لفظ قابل غور ہے۔ عام طور پر اس کے معنی تسبیح بیان کرنے والا کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی پورے ہاتھ پاؤں مار کر تیرنے والا بھی ہیں۔ اس مقام پر یہی معنی زیادہ موزوں ہیں۔ اس لئے قرآن نے کہا کہ اگر وہ اچھے تیراک نہ ہوتے اور اپنے آپ کو مچھلی کے منہ سے چھڑانہ لیتے تو مچھلی انہیں ہضم کر جاتی۔ بہر حال وہ اس مصیبت سے نجات پا کر ساحل تک آ پہنچے۔ لیکن بہت مضمحل اور نڈھال ہو رہے تھے۔ (برق طور 291-293)

ان آیات میں واضح ہے کہ مچھلی نے یونس کو لقمہ بنا لیا تھا ’فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ‘ اس لیے یہاں تیراک ہونا یا نہ ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے وہ تسبیح بھی بتادی۔ ’فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ‘ پس اس نے پکارا تاریکیوں میں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر اللہ جس کی ذات ہر شرک سے پاک ہے اور میں ہی ظالم تھا۔ ’فَاسْتَجَبْنَا لَهُ‘ پس ہم نے اس کی پکار سن لی ’وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ ط‘ اور اسے نجات دلائی غم سے۔

اس لیے یہاں مسبحین کا معنی تیراک نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یونس نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔

حضرت عیسیٰؑ۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات کا۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ عیسیٰ بن باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ اور ان کی وفات بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات آپ کو عطا کئے گئے۔ مگر پرویز صاحب نے ان تمام واقعات کو عقل کے معیار پر پورا کرنے کے لیے ان کی توجیہ کی۔ اور عیسیٰ کے والد کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور انجیل کے حوالوں سے ان کا نام ’یوسف‘ بتایا۔ آئیے پہلے پرویز صاحب کا نقطہ نظر تفصیل سے دیکھتے ہیں۔

☆ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ ط كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۖ ط قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (3/37)

”سو اس کے رب نے، اس کی منت کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مریمؑ کی پرورش کا نہایت عمدہ انتظام کر دیا۔ یعنی اسے زکریاؑ (جیسے نیک انسان) کی کفالت میں دے دیا۔ مریمؑ اپنے زہد و ریاضت کی بنا پر اس درجہ مرجع انا م بن گئی کہ اس کے پاس نذر و نیاز کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جب کبھی زکریاؑ عبادت گاہ (قربان گاہ) میں آتا تو مریمؑ کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتا۔ وہ (بر بنائے احتیاط) اس سے پوچھتا کہ اے مریمؑ! تجھے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں۔ (کیونکہ اس کی کفالت تو زکریاؑ کے ذمے تھی) وہ اس کے جواب میں کہہ دیتیں کہ (انہیں یہ چیزیں ہیگل کا کوئی آدمی نہیں دیتا بلکہ) یہ اللہ کی طرف سے آجاتی ہیں۔ (یعنی جو لوگ اللہ کی نذریں مانتے ہیں۔ وہ دے جاتے ہیں) اللہ اپنی مشیت کے پیمانوں کے مطابق اس طرح رزق کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ جو عام طور پر لوگوں کے خیال میں نہیں ہوتا۔ (مریمؑ کا مقبول خلائق ہو جانا اس کا ذریعہ بنا)۔ (شعلہء مستور۔ 30)

☆ إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ لَا اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ۖ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۗ ۙ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ (3/45-46)

”اسی سلسلہ میں ملائکہ نے مریم سے کہا تھا کہ خدا تمہیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح (اور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دنیا میں صاحب وجاہت اور آخرت میں خدا کے مقربین میں سے۔“

تندرست و توانا، چھوٹی عمر میں خوب باتیں کرنے والا اور پختہ عمر تک پہنچنے والا (5/110) نہایت عمدہ صلاحیتوں کا مالک، پاکباز انسان۔ (اس سے توہمات کا دور کرنا مقصود تھا جو ایک راہبہ کے دل میں اس خیال سے پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ، خانقاہیت کی شریعت کے علی الرغم، متاثر زندگی اختیار کر رہی ہے۔ اس سے کہیں وہ یا اس کا بچہ، کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات اس قسم کے توہمات کا ایسا نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سچ مچ ایسا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے دل سے ان خیالات کا دور کرنا ضروری تھا۔

☆ قَالَتْ رَبِّ انِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (3/47)

اس پر مریم نے (زکریا کی طرح 3/40) تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ایک کنواری راہبہ ہوں۔ راہبہ کے ہاں اولاد کا کیا سوال؟ اس کے جواب میں اس سے وہی کچھ کہا گیا جو زکریا سے کہا تھا کہ یہ خدا کے اس قانون مشیت کے مطابق ہوگا جس کی رو سے عام تخلیق ہوتی ہے وہ قانون جو اس اصول پر مبنی ہے کہ خدا جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس اسکیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ (2/117)

☆ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَدَّتْ مِنْ أُمَّهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا لَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ (19/16-17)

”اے رسول! اب تو اس کتاب (قرآن) میں لوگوں سے، مریم کا قصہ بیان کر، اور سلسلہ کلام کا آغاز اس وقت سے کر جب وہ خانقاہیت کی زندگی کو چھوڑ کر، (اپنے گاؤں، ناصرہ) میں چلی گئی تھی جو (وہاں سے) مشرق کی سمت واقع تھا۔“

(خانقاہیت کی زندگی اور وہاں کے ناخوش آئند واقعات نے اس کے دل پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ وہ) وہاں بھی لوگوں سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ ہم نے (ان اثرات کو مٹانے کے لئے،

اسے زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کے متعلق (تقویت بخش اشارہ کیا) جو اس کے خواب میں) ایک اچھے بھلے انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ (شعلہء مستور 32-34)

آیت نمبر (19/17) میں ”قَتَمَلَّ لَهَا“ آیا ہے عربی لغت منتهی الارب میں اس کے ایک معنی ”داستان زدن“ بھی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی کیفیت بیان کرنا۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔ کہ اس پیغام رساں نے مریم سے اس کے ہاں ہونے والے تندرست و توانا بچے کی کیفیت بیان کی۔

دوسرے مقام پر اس آنے والے کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مملک تھا (3/44) اور ملائکہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتے (9/26) اگر چہ ان کا نزول مومنین پر بھی ہوتا ہے (41/30) اس لئے اگر وہ پیغام رساں ”فرشتہ“ تھا تو وہ حضرت مریم کو نظر نہیں آسکتا تھا۔ لہذا یہ واقعہ خواب کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ نظر آیا تھا تو کوئی انسان پیغام رساں ہو سکتا ہے۔ خود لفظ مملک کے معنی پیغام رساں بھی ہیں۔ (شعلہء مستور 34)

☆ قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ نَفِيًْا ۝ (19/18)

”مریم! اسے دیکھ کر (گھبرا گئی وہ) بولی، اگر تو خدا کے قانون کا احترام کرتا ہے تو میں خدائے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔“

اس آنے والے نے جواب دیا۔

☆ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ ۝ صَلٰوَةٌ لِّكَ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝ (19/19)

”اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تو تیرے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں (3/44) اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند عطا کرے گا۔“

اس پر حضرت مریم نے کہا۔

☆ قَالَتْ اِنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ اَنَا بَشَرٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشْرٌ وَّلَمْ اَكْ بِغِيًّا ۝ (19/20)

”اس پر مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک میں ہیکل میں رہی، پاکباز راہبہ کی زندگی بسر کی۔ وہاں کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہاں سے نکلی ہوں تو میں نے شادی نہیں کی۔ کیونکہ یہ چیز ضابطہء خانقاہیت کے خلاف ہے۔ (19/28:30/46)“

اور اللہ کے فرستادہ نے جواب دیا۔

☆ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا

مُقْضِيًّا ۝ (19/21)

”اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ قانون تخلیق کے مطابق ہی ہوگا۔ (3/46) یہ اس کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں (کہ جو مواعیت تیرے ذہن میں ہیں اور تمہیں اس طرح پریشان کر رہے ہیں، انہیں دور کر دے (19/9) خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہوگا۔ وہ ہماری طرف سے لوگوں کے لئے، موجب رحمت اور حق و باطل کے پرکھنے کی نشانی ہوگی۔ (جو شخص اس کی نبوت پر ایمان لائے گا۔ وہ حق پر سمجھا جائے گا جو اس سے انکار کرے گا وہ باطل پر ہوگا)۔ اور یہ بات طے شدہ ہے (کہ وہ بچہ ہمارا پیغمبر بنے گا) (3/47) اس کے بعد ارشاد ہے۔

☆ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ

يَلَيْتِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْسِيًّا ۝ (19/22-23)

” (چنانچہ رفتہ رفتہ وہ مواعیت دور ہوتے گئے۔ ادھر مریم کے دل سے خانقاہیت کی غلط رسم کی خلاف ورزی کا خوف دور ہو گیا۔ ادھر ایک شخص، ہیکل کے احبار اور ہبان کی تنبیہ و تحریف کے باوجود مریم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔) مریم کو ہونے والے بچے کا حمل قرار پا گیا۔ اس پر ان دنوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ گاؤں سے کہیں دور چلے جائیں (تا کہ بچے کی ولادت کسی ایسی جگہ ہو جہاں ان کی جان پہچان کا کوئی نہ ہو، اور یوں وہ، احبار اور ہبان کے طعن و تشنیع کے نشتروں سے محفوظ رہیں۔)

وضع حمل کا وقت آیا تو درد زہ کا اضطراب، مریم کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ (آئین خانقاہیت کے خلاف متاثر زندگی۔ پہلے بچے کی ولادت۔ پردیس کا معاملہ، بے سروسامانی کا یہ عالم کہ سر پر چھت تک بھی نہیں۔ مریم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ) اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگتی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔

نور کیجئے۔ قرآن کریم نے یَلَيْتِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْسِيًّا کے ایک مختصر سے ٹکڑے

میں جذبات و احساسات کی ایک پوری دنیائے نسانیت کو کس نادرہ کاری سے سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔

حضرت مریمؑ کی اس قلبی کاوش کی تسکین کے لئے ارشاد ہوا۔

☆ قَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ه (19/24)

(اس کرب و یاس کے عالم میں اسے، اس مقام کے) نشیب کی طرف سے آواز آئی کہ اے مریمؑ! گھبراؤ نہیں، اس طرف ایک (خوشگوار) پانی کی ندی ہے۔ (اور اوپر، کھجور کے درخت میں پکی ہوئی کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں۔) اور طبعی کرب و اضطراب کے لئے۔

☆ وَهَزَيْتِ إِلَيْكَ بِحِزِّ النَّخْلَةِ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حِينًا ه (19/25)

”تو کھجور کے درخت کا تنا پکڑ کے اپنی طرف ہلا۔ تازہ اور پکے ہوئے پھلوں کے خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے۔“

ان حالات کے ماتحت حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش ظہور میں آئی، حضرت مریمؑ سے کہا گیا کہ

☆ فَكَلِمَىٰ وَاشْرَبِي وَ قَرِي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ فَقَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ه (19/26)

”تو ان تازہ کھجوروں کو کھا۔ ندی کا ٹھنڈا پانی پی۔ (پھر بچے کے نظارے سے) اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ (باقی رہا تیرا یہ اضطراب کہ لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دوں گی۔ تو تم منت کا روزہ رکھ لینا) اور اگر کوئی آدمی تجھ سے کچھ پوچھے تو اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمن کے لئے اپنے اوپر روزہ واجب کر رکھا ہے۔ اس لئے میں آج کسی شخص سے بات چیت نہیں کر سکتی۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش و عنایت کے لئے بطور تشکر و امتنان روزہ رکھا۔ (جیسا کہ حضرت زکریاؑ کے تذکرہ میں لکھا جا چکا ہے۔ یہودیوں کے ہاں روزہ کی حالت میں بات چیت نہیں کی جاتی تھی۔) (شعلہء مستور 34-37)

آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے ان مقدسین طائفہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ انہیں پہلے (حضرت) مریمؑ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے رسوم خانقاہی کو اس طرح سے توڑا۔ اس

کے بعد یہ زخم کاری کہ اس کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس انداز کا! یہ ہے وہ پس منظر جس میں قرآن نے کہا ہے کہ

☆ يَا نُوحُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۗ (19/28) صلہ

”وہ اس سے کہتے کہ اے اخت ہارون! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا۔ نہ ہی تیری ماں نے ہیکل کے قوانین و ضوابط سے سرکشی اختیار کی تھی۔ (تم تو ایک شریف، مذہب پرست، پابند شریعت گھرانے کی لڑکی تھیں۔ تم نے یہ کیا کیا اور اپنے بیٹے کو کس قسم کی تعلیم دلائی؟)

یعنی انہوں نے کہا ”تمہارا گھرانہ بڑا مذہب پرست تھا۔ تیرے ماں باپ، خانقاہ کے آئین و ضوابط کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ ان کے دل میں ان مقدس قوانین و دساتیر کی بڑی عظمت تھی۔ تیری ماں نے تجھے ہیکل کی نذر کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر عقیدت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن تو نے ان تمام آئین و ضوابط کو توڑ کر ہیکل کی عظمت کو برباد کر دیا۔ اپنے ماں باپ کی عقیدت مندی کو خاک میں ملا دیا۔ خانقاہ میں راہبہ بنی تھی تو ضبط نفس کے انداز بھی سیکھتی۔ اگر اس طرح کی (متاثر) زندگی بسر کرنی تھی تو خانقاہ میں معتکف کیوں ہوئی تھی؟ یہ تو رہی تمہاری اپنی حالت۔ اس کے بعد تو نے جو بچہ جنا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قوم کے ایسے واجب الاحترام بزرگوں کے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش آتا ہے۔ اور ہیکل کے آئین و رسوم کے خلاف اس جرات سے لب کشائی کرتا ہے؟ بالآخر تمہارا اور تمہارے اس بچے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تمہارے دل میں ہیکل اور اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کا کچھ احترام باقی نہیں رہا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا تصور میں لائیے اس الم انگیز واقعہ کو قوم کے بڑے بوڑھے خانقاہ کے عمائد اور اراکین اس طرح بھڑے ہوئے درندوں کی طرح چاروں طرف سے اٹھ پڑے ہیں اور ان کے درمیان حضرت مریمؑ ساکت و صامت کھڑی ہیں۔ ہر طرف سے طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہو رہی ہے لیکن وجہء تشنیع وہ واقعہ ہے جو اللہ کی مشیت کے ماتحت، اس حکم کے مطابق ایک طے شدہ فیصلہ (امراً مقضیاً) کو پورا کرنے کے لئے عمل میں آیا تھا۔ یعنی مذہبی پیشوائیت کی خود ساختہ شریعت کے خلاف عملی احتجاج۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے بیٹے کے خلاف بھی اس قسم کے غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت مریمؑ سے بار بار اصرار کیا کہ بتاؤ کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ

خود کچھ جواب دیتیں۔ انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھو۔ یہ تمہارے اعتراضات کا جواب دے گا۔ (یہ ساری گفتگو پرویز صاحب کی خود وضع کردہ ہے قرآن میں یا تاریخ اور انجیل وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مصنف)

☆ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ط (19/29)

اس جواب پر ان کے غصہ کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے جوش غضب سے کہا کہ تم کیا کہتی ہو؟ سوال ہم نے تم سے کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دو۔ ہمیں کہہ رہی ہو کہ ہم اس بچے سے پوچھیں؟ تم نے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ اس سے تم نے ہماری کس قدر توہین کی ہے؟

☆ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ه (19/29)

انہوں نے کہا بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو ابھی کل تک جھولے میں تھا۔

آپ دیکھئے کہ ان کے اس جواب میں کتنا گہرا طنز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ابھی کل ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا، اس سے ہم کیا بات کریں؟ حضرت عیسیٰ نے ان کی اس بات کو قابل اعتناء نہ سمجھا اور خود ہی جواب دیا کہ

☆ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ط قَفِ انْنٰى الْكِنْبِ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ه وَجَعَلَنِى مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص
وَأَوْصِنِى بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ه وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِىَ زَوْكَمْ يَجْعَلَنِى حَيًّا رَ شَقِيًّا ه
وَالسَّلَامُ عَلٰى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَ يَوْمٍ اَمُوْتُ وَ يَوْمٍ اُبْعَثُ حَيًّا ه (19/30-33)

اس پر عیسیٰ ان سے کہتے کہ (یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے کہ چونکہ تم عمر میں بڑے ہو اس لئے تمہاری ہر بات کو سند تسلیم کیا جائے اور میں عمر میں چھوٹا ہوں اس لئے تم مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے بگوش ہوش سنو) میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور منصب نبوت پر سرفراز فرمایا ہے۔ اس نے مجھے زندگی کے ہر گوشے میں بابرکت بنایا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں (تمہاری خود ساختہ شریعت کی جگہ) صلوٰۃ و زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم کروں۔ اور عمر بھر میرا یہی شعار ہے۔ (تم میری والدہ کے خلاف اس طرح زبان درازی کرتے ہو؟ اس نے جو کچھ کیا ہے خدا کی سچی شریعت کے عین مطابق کیا ہے۔ اس لئے) میں اس سے

ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ میں (معاذ اللہ) ایسا شقی و بد بخت نہیں، کہ (تمہارے پیچھے لگ کر ایک بے گناہ خاتون سے سختی سے پیش آؤں۔)

تم میری پیدائش کو بھی قابل اعتراض قرار دیتے ہو! یہ تمہاری خود ساختہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ میں جس خدا کا پیغام لیکر آیا ہوں، اس کے نزدیک (میری پیدائش بھی سلامتی کی مظہر ہے۔ میری ساری زندگی، آخری دم تک، سلامتی کی حامل ہوگی۔ اور حیات اخروی میں بھی میں امن و سلامتی میں ہوں گا۔)

اس جواب پر غور کیجئے۔ اس میں حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش سے متعلق ایک حرف تک نہیں کہا۔ اس لئے کہ سوال (کسی غیر معمولی طور پر) پیدائش کا نہیں تھا بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت مریم نے رسم و رہ خالقہ چھوڑ کر عائلی زندگی کیوں اختیار کی! اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت اور کتاب کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان رسوم خاقہیت کو دین خداوندی سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب تمہاری اختراعات ہیں انہیں اس دین سے کچھ واسطہ نہیں۔ جس کے تم مدعی بنے بیٹھے ہو۔ لیکن جسے تم نے درحقیقت کچھ کا کچھ بنا رکھا ہے۔ اس لیے حضرت مریم نے متاہل کی زندگی اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہذا میں انہیں مورد الزام قرار نہیں دیتا۔ یہ تمہاری شقاوت اور قساوت قلبی ہے جو ایک عقیفہ کے خلاف دریدہ وئی سے کام لے رہے ہو۔ میں تو ایسا شقی القلب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اور اس کے ساتھ میرا سلوک ایسا ہی ہوگا۔ **وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ**۔ (شعلہ مستور 117-120)

یہ تھا پیدائش عیسیٰ کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر۔ اب عیسیٰ سے متعلق ان کے مزید کچھ تصورات دیکھتے ہیں

بینات و معجزات۔ یہاں ”بینات“ سے مراد وہ دلائل روشن و براہین محکم ہیں جو بذریعہ وحی آپ کو دیئے گئے اور جو یکسر حکمت و بصیرت پر مبنی تھے۔ باقی رہے ”معجزات“، سوان کے متعلق سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا جب منصب رسالت پر فائز ہوگا تو وہ بنی

اسرائیل جیسی مردہ قوم سے کہے گا کہ

☆ اِنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ؕ لَآ اِنِّى اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اُبْرِىءُ الْاَكْمَهٗ وَالْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اُنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدْعُرُوْنَ لَآ فِىْ يَوْمِ تَكْتُمُوْنَ اِنْ فِىْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ

(5/110:3/49)

”میں، اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نوعطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی (خاک نشینی) سے ابھر کر، فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی رفعتیں نصیب ہو جائیں گی (7/176)

یہ آسمانی روشنی، تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گی جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔

اس سے تمہاری قوم کی ویران بھتی ”جس پر تر و تازگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تمہاری وہ کمینہ خصلتیں دور ہو جائیں گی۔ جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔

مختصراً یہ کہ ذلت و خواری کی وہ موت، جو اس وقت تم پر چاروں طرف سے چھا رہی ہے (3/111) ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی (6/123)

میں، (تمہارے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ) ایسا نظام قائم کروں گا۔ جو اس کا جائزہ لیتا رہے گا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں سے کس قدر اپنے مصرف میں لاتے ہو اور کس قدر ذخیرہ (Hoarding) کرتے ہو، کہ اس سے ناجائز منافع کمایا جائے۔

اس قانون اور نظام میں تمہارے لئے باز آفرینی (ایک نئی زندگی حاصل کر لینے) کی بہت بڑی نشانی ہے بشرطیکہ تم اس کی صداقت پر یقین کر لو۔

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ایسینی سے طبابت اور قوت ارادی کے عملیات وغیرہ میں بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ خدمت خلق ان کا مسلک تھا۔ جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ مقبول تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لئے

بھیجتے تھے تو انہیں تاکید کرتے تھے کہ ”بیباروں کو اچھا کرنا۔ مردوں کو جلانا۔ کوڑھیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، اور ان تمام خدمات کے معاوضہ میں کچھ نہ لینا۔ تم نے مفت پایا ہے مفت دینا“ (متی 10/8) ظاہر ہے کہ قریہ بستی بستی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے لئے، اپنے زمانہ اور ماحول کے تقاضوں کے اعتبار سے، اس سے بہتر طریق کار، اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب ان شاگردوں میں علاج معالجہ وغیرہ کی یہ خصوصیات تھیں تو جو لوگ خود حضرت عیسیٰ کے پاس آتے ہوئے۔ وہ اس باب میں بہت بڑی توقعات لے کر آتے ہوں گے۔ اور ان کی یہ توقعات پوری بھی ہوتی ہوگی۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیلاً معراج انسانیت میں لکھا گیا ہے۔ وہاں منجملہ دیگر امور، یہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ معجزات کے متعلق گفتگو اب ایک تاریخی بحث ہے۔ اس لئے کہ خود نبی اکرم کو (قرآن کے علاوہ) کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا۔ اور حضور کے بعد سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا اس لئے اب کسی کو معجزہ ملنے یا نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک سابقہ انبیائے کرام کا تعلق ہے۔ ایک گروہ معجزات کے متعلق قرآن کے الفاظ کو ان کے حقیقی معانی پر محمول کرتا ہے۔ اس لئے معجزات کو حسی معجزات سمجھتا ہے۔ لیکن دوسرا گروہ ان الفاظ کے مجازی معانی لیتا ہے۔ اور ان سے متعلق بیان کو استعارہ سمجھتا ہے۔ میں نے ان الفاظ کے مجازی معانی لئے ہیں اور انہی کے مطابق ”مفہوم القرآن“ میں بیان کردہ مفہوم، مندرجہ بالا آیات کے نیچے درج کیا ہے۔ اس مفہوم کی رو سے حضرت عیسیٰ کے معجزات سے مراد ان کے آسمانی پیغام کی اعجاز نمائی ہے۔ جو مردوں کی بستی میں صور اسرافیل پھونک دیتا ہے۔ (قرآن نے اکثر مقامات پر غلط روش پر چلنے والوں کو مردے اور آسمانی آواز پر لپیک کہنے والوں کو زندہ انسان کہا ہے وہ بے بال و پر، کمزور و ضعیف انسانوں کو بازوئے شاہین عطا کر دیتا ہے۔) (كَهَيْبَةُ الطَّيْرِ) جس سے عروج و اقبال کی فضاؤں میں اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ انقلابی پیغام ان نیم مردہ (لیکن زندگی کی آرزو رکھنے والوں) سے اعلانیہ کہتا ہے کہ

اگر یک قطرہ خون داری! اگر مشت پرے داری

بیامن باتو آموزم طریق شاہبازی را

وہ آنکھوں پر سے جہل و تعصب کے ظلمت انگیز پردے اٹھا کر نور بصیرت عطا کرتا

ہے۔ وہ ان کے قلوب کے امراض کو شفا بخشتا ہے۔ اور اس طرح ایک پیکر آب و گل کو جیتے جاتے، تندرست و توانا انسان کی شگفتہ و شاداب صورت عطا کرتا ہے۔

باقی رہا **وَإِنِّي كُنْتُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرِيُونَ فِيَّ مُبِينٌ** (3/49)

اس سے یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ احکام خداوندی بیان کروں گا۔ جن سے واضح ہو جائے کہ کن کن چیزوں کا ذخیرہ رکھنا جائز ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں احتیاجاً روکتنا جائز نہیں۔ (شعلہ مستور 66-69)

مائدہ کے معنی۔ خدا کے مخلص بندوں کی اس جماعت نے جب اپنے آپ کو اس مقصد کی خاطر یوں وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کا ایسا انتظام فرمادیا کہ اس کی فکر ان کی تگ و تاز اور سعی و عمل کی راہ میں دامن گیر نہ ہو۔

☆ **إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ط قَالَ أَتَقْمُونَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ه قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ه** (5/112-113)

اس کے بعد اس جماعت مؤمنین نے تم سے کہا تھا کہ کیا ہمارا نشوونما دینے والا ہماری اس آرزو کو پورا کر دے گا کہ ہم معاش کے لئے انفرادی سہاروں کے محتاج نہ رہیں۔ اور ہمارے لئے سامان نشوونما خدا کے نظام ربوبیت سے ملا کرے۔ یعنی معیشت کے موجودہ ”ارضی نظام“ کی جگہ ”سماوی نظام“ قائم ہو جائے۔ اس کے جواب میں تم نے ان سے کہا تھا کہ جب تم نظام خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہئے کہ تم اس کے قوانین کی پوری پوری نگہداشت کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کا وہ نظام قائم ہو جائے گا۔ جس میں رزق کی ذمہ داری خود نظام کے سر ہوگی۔ افراد پر نہیں ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہم بلا منت غیرے۔ نظام ربوبیت ہی سے رزق حاصل کریں تاکہ اس طرف سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور ہمیں یقین آجائے کہ جو کچھ تو ہم سے کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسکی

شہادت دیں۔

”مَا آتَدَةُ مِنَ السَّمَاءِ“ کے معنی یہ نہیں کہ اوپر سے کوئی چنا چنا یا خواہن اترتا تھا۔ بلکہ جیسا کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے انتظام ہوا تھا۔ یا جیسا نظام ربوبیت کی رو سے ہوتا ہے۔ اسی قسم کا انتظام اس جماعت مومنین کے لیے کیا گیا تھا۔

☆ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۗ قَالَ اللَّهُ أَنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُمُ فَأَنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ (5/114-115)

اس پر تم نے (اے عیسیٰ) ہمارے حضور التجا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری نشوونما کا سامان، نظام ربوبیت کی رو سے عطا ہو جائے تاکہ یہ چیز، اس جماعت کے السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ (سب سے پہلے ایمان لانے والوں) کے لئے بھی جشن مسرت کا موجب ہو، اور ان کے بعد آنے والوں کے لئے بھی۔ نیز یہ، میرے قانون کی صداقت کی عملی نشانی بن جائے۔ تو ہمیں اس طرح سامان زیت عطا فرما۔ اس لئے کہ جو رزق تیرے نظام کی رو سے ملے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو انسانوں کی وساطت سے حاصل ہو۔ (انسانوں کے ہاتھ سے ملنے والے رزق سے تو پرواز میں سخت کوتاہی آجاتی ہے۔۔۔۔۔ اس رزق سے تو موت اچھی ہے۔) اس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رزق کا اسی طرح انتظام کر دیں گے۔ لیکن اپنے متبعین سے کہہ دو کہ اگر تم نے اس نظام کی صحیح صحیح قدردانی نہ کی اور جن بنیادوں پر اسے قائم کیا گیا ہے۔ تم ان سے پھر گئے تو اس کی ایسی سخت سزا ملے گی جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہ ملی ہو۔ (شعلہء مستور 54-52)

یہ تھا عیسیٰ کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور۔ اب ہم قرآنی آیات کی رو سے اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پیدائش مسیح کو۔

۱۔ پیدائش مسیح۔ قرآن کریم نے انہیں بن باپ کے خدا کی قدرت کاملہ سے پیدا ہونے کا بتایا ہے۔ مگر پرویز صاحب اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مریم نے ہیکل کی زندگی ترک کر کے ”یوسف“ نامی شخص سے شادی کی تھی۔ اس طرح انہوں نے عیسیٰ کا باپ

زبردستی سے بنایا۔ کیونکہ بن باپ کے پیدائش مروجہ قاعدہ و قانون کے خلاف تھی۔ آئیے ہم پہلے قرآن کریم کی وہ آیات درج کرتے ہیں جہاں عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔

ایک بات قابل غور ہے کہ سورۃ ال عمران اور سورۃ مریم میں عیسیٰ کی پیدائش کے ساتھ ہی تکئی کی پیدائش کا ذکر ہے اور حضرت زکریا کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ہم ان آیات کو بھی ساتھ ہی درج کریں گے۔

☆ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۗ فَادَّاتُهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِبَشَرٍ مُمْتَدِّعًا ۗ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۗ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ إِنَّكَ الْأَنْكَلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَاطًا ۗ وَأَذْكُرُّكَ كَثِيرًا ۗ وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۗ (ال عمران 38-41)

”وہیں زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تکئی کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، عورتوں سے بے رغبت اور نبی ہے۔ نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا! اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا! نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ صرف اشارے سے سمجھائے گا اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔“

☆ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۗ فَاسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَجِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۗ وَبُكِّلِمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۗ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۗ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ (3/45-47)

”جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح بن مریم ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے۔ اور وہ میرے مقررین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی! مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

اب یہاں غور کیجئے دونوں جگہ یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں ایک ہی طرح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور دونوں طرف سے ایک ہی حیرت کا جواب ہے ”اَنۡتِیۡ یٰحٰیوۡنُ لَیۡسَیۡ غُلَامٌ“ یعنی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ مروجہ قاعدہ اور قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف عمر گزر چکی ہے اور دوسری طرف کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ مگر دونوں طرف ایک ہی طرح کا جواب دیا گیا۔ ”كَذٰلِکَ اللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ“ یعنی اللہ جو چاہے سو پیدا کرتا ہے۔ اس کو تو کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو صرف ”مُحْنٌ“ کہہ دینا ہے۔

اب دیکھتے ہیں یہی واقعات سورہ مریم میں۔

☆ كَهۡنِیۡعَصَ ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَہٗ زَکَرِیَّا ۝ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗ نِدَآءَ خَفِیّٰہٗ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیۡ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَیۡئًا وَّلَمۡ اَکُنۡ بِیۡدَعَاۡکَ رَبِّ شَیۡئًا ۝ وَاِنِّیۡ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ اٰمْرَاتِیۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِیۡ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًا ۝ یٰرَبِّیۡنِیۡ وَ یٰرَبِّکَ مِنْ اِلٰی یَعْقُوۡبَ ۝ وَاَجْعَلۡہٗ رَبِّ رَضِیًّا ۝ یٰزَکَرِیَّا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَمٍ ۝ اَسْمَہٗ یَحٰییَ ۝ لَمۡ نَجْعَلۡ لَہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ یٰحٰیوۡنُ لَیۡ غُلَمٌ وَّ کَانَتِ اٰمْرَاتِیۡ عَاقِرًا ۝ وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰی ۝ قَالَ کَذٰلِکَ ۝ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰٓئِیۡنَ وَ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ ۝ وَ لَمۡ تَکُ شَیۡئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلۡ لِّیۡ اٰیۃً ۝ قَالَ اِنۡتَکَ اِلَّا تُکَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنَ الْمِحْرَابِ ۝ فَا وَّحٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبِّحُوْا بُکْرَۃً وَّعَشِیًّا ۝ یٰحٰییَ خُذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّۃٍ ۝ وَ اٰتِنَا الْحُکْمَ صَبِیًّا ۝ وَ حَنَانًا ۝ مِنْ لَّدُنَّا ۝ وَ زَکُوۡۃً ۝ وَ کَانَ تَقِیًّا ۝ وَ بَرًّا ۝ بِوَالِدَیْہِ ۝ وَ لَمۡ

”کھیسے۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ جب کہ اس نے اپنے رب سے خفیہ دعا کی تھی۔ کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے۔ میری بیوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا! ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام تھیں ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمادیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور خود جب کہ تو کچھ نہ تھا اس سے پہلے، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرمادے، ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو مت بات کرتین رات تک۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگئے تو ہم نے وحی کی کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے نبی! میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمادی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔“

یہاں بھی اسی چیز کا اظہار ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ حیران کن سوال اسی لیے ہے کہ کوئی چیز قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ”قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا“ کہہ دیا ہے تیرے رب نے کہ وہ میرے لیے بہت آسان ہے اور اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی شے نہیں تھا۔“ اب یہ جواب ہی ایسا ہے

کہ اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جاسکتا۔ کہ جو رب، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اور انسان بھی نہیں تھا اس وقت بغیر کسی وسیلہ (Nothing) سے یہ کائنات اور انسان کی تخلیق کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے کیا مشکل ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ”وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ“ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے زکریا کی بیوی سے بانجھ کا نقص دور کر دیا۔ اب پرویز صاحب اور تبعین پرویز یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل قاعدے اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اس لیے اس واقعہ میں کوئی بھی معجزانہ بات نہ ہوئی۔ حالانکہ اس آیت میں بھی صرف بیوی کے نقص کے دور کرنے کا ذکر ہے حضرت زکریا کے بڑھاپے کا اور ضعف کا کیا علاج؟ یہ نہیں بتایا؟ اگر ایسا قاعدہ اور قانون روا رکھنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ واضح انداز میں کہہ دیتا۔ کہ ”ہم تیری بیوی کا علاج کر دیں گے اور تجھے بڑھاپے میں قوت پہنچادیں گے۔“ اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر بھی تو یہ معجزہ ہی ہے کہ ایسا طریقہ کار صرف ایک فرد کے لیے کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قاعدہ اور قانون تو پوری نوع کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ نے یہاں یہ جواب ہی نہیں دیا۔ بلکہ یہی کہا کہ ”قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا“

اب آگے چلتے ہیں۔ مریم کے بارے میں اس سے اگلی آیت ہی سے واقعہ شروع ہوتا ہے

☆ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۗ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۗ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ۖ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۖ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۗ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۗ فَحَمَلَتْهُ فَاتَّيَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۗ فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَسِيًّا ۖ مَنَسِيًّا ۗ فَوَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ۖ أَلَّا تَحْزَنِي ۖ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۗ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَنِيًّا ۗ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَاقْرِي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۗ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا

تَحْمِلُهُ ط قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ه يَأْتَحَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا
كَانَتْ أُمَّكَ بَيْعِيًّا ه ه فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ط قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ه
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ط طَفِئَ النَّسَى الْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ه وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ص
وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكُوفِ مَا دُمْتُ حَيًّا ه وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ نَزِمَ يَجْعَلَنِي حَبِيبًا رَأْسِي ه
وَالسَّلَامَ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ه ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ط قَوْلَ
الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ه مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لَّا سُبْحَانَ ط إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط (مریم 35-16/19)

”اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک
مشرقی مکان میں آئیں۔ اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی
روح کو بھیجا۔ پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمن کی پناہ
مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد
ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو
کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے۔ لیکن تیرے
پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں
گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے یکسو
ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر در زہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے
ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسر
ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزرده خاطر نہ ہو۔ تیرے رب نے تیرے پاؤں
تلاے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تروتازہ پکی
کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے
تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں
گی۔ اب حضرت عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی
بری حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم

نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔“

صرف انہی آیات کو ہی بار بار غور سے پڑھ لیا جائے تو حقیقت عیاں ہو جاتی ہے اور ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے اس میں فرشتے سے مکالمہ ہے جو کہ آدمی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اور آپ نے اس سے پناہ چاہی۔ جواباً اس نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا انٹی یُکُونُ لِيْ عَلَمٌ وَّ لَمْ يَمْسُسْنِيْ بَشَرًا وَّ لَمْ اَكُ بَعِيًا ہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

غور کیجئے یہاں بھی مریم کے ذہن میں شادی کا ذرا بھی تصور نہ تھا۔ اور اسی وجہ سے ہی حیرانی تھی کہ بنا کسی بشر کے مس کئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب بھی یہ نہیں دیا گیا کہ تمہاری شادی ہوگی۔ اور پھر بیٹا ہوگا۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ (ایسا ہی ہے تجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی تو بدکار ہے) تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيُّ هَيِّنٌ۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ مریم خانقاہی زندگی چھوڑ کر متاثر زندگی کی راہ اختیار کر رہی ہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بغیر کسی قاعدے اور قانون کے ایک جوان لڑکی بیٹے کو جنم دینے جا رہی ہے۔ اسی لیے مریم نے کہا يٰلَيْتَنِيْ مِثْ قَبْلَ هٰذَا وَاَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْ سِيَاهِ اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور کوئی بھولی بسری لڑکی ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ مت غم کھا۔ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اور اگر کسی بشر کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے

روزہ رکھا ہے اور میں کلام نہیں کر سکتی۔ پس جب مریمؑ، حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں گئیں تو انہوں نے کہا قَالُوا يَمْرُؤُا لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ه يَأْتِخَتِ هُرُؤُنَ مَا كَانَ اَبُوكَ اَمْرًا سَوِيًّا وَّ مَا كَانَتْ اُمَّكَ بَعِيًّا ؕ ص انہوں نے کہا اے مریم! تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔

یہاں قوم بھی یہ جانتی تھی کہ حضرت مریمؑ کی شادی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ پھر حضرت مریمؑ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو پھر قوم نے کہا كَيْفَ نُنَكِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ه کہ جو ابھی گود میں ہے ہم اس سے کس طرح بات کریں؟ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ آپ کو گود ہی میں قوت گویائی عطا ہوئی۔ مگر پرویز صاحب نے اس کو اور ہی معنی پہنا دیئے کہ ”ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی کل تک گود میں تھا۔“ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لَّا سُبْحٰنَہٗ ؕ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ ؕ ط اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے اور وہ جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا! تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔

چونکہ عیسیٰ کے والد نہیں تھے اور بعد میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپؑ (معاذ اللہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے یہاں اللہ نے وضاحت کر دی۔

علاوہ ازیں پورے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ہی ذکر موجود ہے اور آپؑ کے والد گرامی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کے ساتھ عیسیٰ کا تذکرہ والدہ ہی کی نسبت سے کیا گیا ہے۔

☆ يَاۤ اَهْلَ الْکِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ وَّ لَا تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْاَلْحَقَّ ط اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلٌ اللّٰهِ وَاٰیٰتُہٗ ؕ اَلْفَاہَا اِلٰی مَرْیَمَ وَاٰیٰتُہٗ ؕ رُوْحٌ مِّنْہٗ نَفَاہُنَا بِاللّٰهِ وَاٰیٰتُہٗ ؕ وَاٰیٰتُہٗ ؕ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَہٗ ط اِنْتَهُوْا عِیْرًا لِّکُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہٌ وَّ اِحْدٌ ط سُبْحٰنَہٗ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ وَاٰیٰتُہٗ ؕ اَلْمَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاٰیٰتُہٗ ؕ فِی الْاَرْضِ ط وَاٰیٰتُہٗ ؕ بِاللّٰهِ وَاٰیٰتُہٗ ؕ (4/171)

”اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، مسیح عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے مریمؑ کی طرف

ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

☆ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ط
كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ط اَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّينُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَنْتِي يُوْفِكُوْنَ ه (5/75)

”مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی ماں ”صدیقہ“ تھیں۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں۔ پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پلٹائے جاتے ہیں۔“

☆ اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ه (5/110)

”جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے۔“

متذکرہ بالا دو آیات میں وضاحت کے ساتھ صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ (مریم) کا ذکر ہے۔ (5/75) میں تو بالکل ہی بات واضح ہو گئی کہ صرف ”ماں بیٹا“ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ والد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور (5/110) میں خاص طور پر ”عیسیٰ“ اور ”مریم“ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نعمت جو رب نے ان دونوں پر کی۔

حالانکہ اگر مریم راہبانہ روش زندگی ترک کر کے کسی فرد کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہوتیں (بقول پرویز صاحب) تو اتنے بڑے اقدام پر عیسیٰ کے والد کا تذکرہ بھی ہونا چاہئے تھا اور اللہ کو ان پر بھی اپنی نعمت کا تذکرہ کرنا چاہئے۔ جس نے پوری قوم کی مخالفت کے باوجود ایسا قدم اٹھایا۔“

☆ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ه (3/59)
”اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔“

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر وضاحت کر دی کہ پیدائش مسیح تو مثل آدم ہے۔ یعنی جس طریقہ کار سے آدم کی پیدائش بغیر قانون کے ہوئی۔ (یعنی بغیر ماں باپ کے) تو اسی طریقے سے عیسیٰ کی پیدائش بھی بغیر کسی قانون کے ہوئی۔ مگر چونکہ پرویز صاحب نے یہ تعین کر لیا ہے کہ پیدائش صرف موجودہ طریقہ کار (یعنی ماں اور باپ) سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جگہ بھی مختلف توجیہات دی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں

”ہم ’ابلیس و آدم‘ میں بیان کردہ قصہ آدم میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ آدم جس کی تخلیق کا ذکر آیا ہے کسی شخص واحد کا نام نہیں۔ بلکہ اس سے مراد خود نوع انسانی ہے جس کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے ہوئی اور ارتقائی مدارج طے کرتے کرتے موجودہ شکل پیدا ہو گئی۔ اس اعتبار سے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر عام انسانوں سے یہی کہا ہے کہ تمہاری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تفصیل انسان اور آدم کے عنوانوں میں (ابلیس و آدم میں) گذر چکی ہے۔ آپ اس سلسلہ میں آیات (30/20:23/5) دیکھ لیں۔ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ آدم (یعنی نوع انسانی) کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے ہوئی۔ لیکن ابتداء کو انتہا تک پہنچنے کے لیے مختلف تدریجی مراحل طے کرنے پڑے اور یہی کن فیکون ہے۔ اسی قسم کا کن فیکون حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہاں بھی مقصود ابتداء سے انتہا تک مختلف تدریجی مراحل طے کرنے سے ہے۔“

(شعلہ مستور۔ 131-132)

(اگر کن فیکون کا یہی مطلب ہے تو پھر آدم اور عیسیٰ کا کن فیکون آپس میں نہیں ملتا۔ کیونکہ بقول پرویز صاحب آدم تو ارتقاء کے ذریعے آدم بنے۔ اور عیسیٰ کی والدہ مریم نے راہبانہ طریق چھوڑ کر شادی کر لی۔ کن فیکون کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں

☆ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ ۗ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝** (36/81-82)

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے اتنا کہہ دیتا ہے۔ کہ ’ہوجا‘ وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ مصنف)

حضرت مہجی کی پیدائش کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ جب حضرت زکریا نے بیٹے کی موعودہ ولادت پر اظہار تعجب کیا تو ارشاد ہوا کہ تعجب کیا ہے! وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (19/9) اس سے پیشتر ہم تمہیں پیدا کر چکے ہیں دراصل حالیکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت زکریا کی اپنی پیدائش عام حالات کے ماتحت ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت مہجی کی پیدائش ہوئی۔“ (شعلہ مستور 132)

حیرت ہے کہ اگر پیدائش عام حالات کے تحت ہوئی تو پھر تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر قرآن میں حضرت زکریا کے الفاظ ہیں۔

قَالَ رَبِّ اَنْتَ اَنْتَ يَكُوْنُ لِيْ غُلْمًا وَّ كَانَتْ اِمْرَاْتِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ (19/8)
 ”انہوں نے کہا! اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔“

صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی چیز قانون سے ہٹ کر ہونے جا رہی ہے۔ اور ایسا تعجب صرف زکریا یا مریم کے معاملے میں ہی نہیں ہے بلکہ ابراہیم کے معاملہ میں بھی ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن کریم کے چند مقامات دیکھتے ہیں

☆ وَاَلْقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لِيْكَ اَنْ جٰءَ بِعَجَلٍ حٰنِيْدٍ ۝ فَلَمَّا رَا اَيْدِيْهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْ قَوْمِ لُوْطٍ ط وَاَمْرَاْتُهُ قٰئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاسْحٰقَ لَا وَاَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝ قَالَتْ يٰوَيْلَتِيْ اِلٰدٌ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ط اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ قَالُوْا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتِ اللّٰهِ وَرِسٰلَتِهِ عَلٰيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ط اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ (هود 73-69/11)

”اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغام برابر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا کچھڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی

ہوئی تھی وہ ہنس دی۔ تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگیں آہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے۔ تم پر اے اس گھر کے لوگو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی بزرگیوں والا ہے۔“

☆ وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ه
قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمِ
تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰطِنِينَ ه (الحجر 55-51/15)

”انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سلام کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک ہوشیار، دانا فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے دبوچ لینے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو۔ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل سچی، تجھے لائق نہیں کہ نا امید لوگوں میں شامل ہو جا۔“

☆ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ه إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ه قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ه فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ه فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ه لَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ ه قَالُوا لَا نَخَفُ ه وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ه فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ه قَالُوا كَذٰلِكَ لَا قَالَ رَبُّكَ طٰنَةً هُوَ الْوَٰحِكِيمُ
الْعٰلِيمُ ه (الذريت 30-24/51)

”کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے۔ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فریہ پھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا۔ اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں۔ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے۔ اور انہوں نے (حضرت) ابراہیم کو ایک دانا، عالم لڑکے کے ہونے کی بشارت دی۔ پس ان

کی بیوی نے حیرت میں آکر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا! ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے۔ بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔“
 ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ اللہ کو انسانی ضابطوں کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہتا ہے کسی بھی طرح کا کام انجام دے سکتا ہے۔ آیت 3/58 میں جس طریقہ سے عیسیٰ کو مثل آدم قرار دیا گیا، وہاں پرویز صاحب نے کوئی قوی دلائل نہیں دیئے۔ بس جس طرح کا ان کا سائل ہے کہ بات کو اصل موضوع سے ہٹا کر دوسری باتوں میں توجیہ تلاش کی جائے۔ یہاں بھی وہی سلسلہ ظاہر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

”قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کو مثل آدم اس لیے بھی کہا ہے کہ انا جیل کے بیان کے مطابق، حضرت عیسیٰ خود اپنے آپ کو ابن آدم کہا کرتے تھے۔ مثلاً انجیل متی میں ہے (تب اس نے) (مسح نے) شاگردوں کے پاس آکر کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو۔ دیکھو وقت آپہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے۔)

متی باب 26 صفحات 36

لہذا جو اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے اس کی پیدائش کی مثال خود آدم (آدمی) کی ہے۔ وہ آدمی کا بیٹا ہے۔ اور آدمی ہی کی طرح خود بھی پیدا ہوا ہے۔

ان سوالات کی اہمیت کیوں؟ پیدائش اور وفات حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم قرآن کریم سے یہ کچھ سمجھ سکے ہیں لیکن اگر آپ ان نتائج سے متفق نہ ہوں تو قرآنی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ (جیسا کہ متعدد بار لکھا جا چکا ہے) آپ ان پر از خود غور کیجئے کیونکہ قرآن ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن تدبر فی القرآن میں خارجی اثرات داخل نہ ہونے دیجئے۔ کہ اللہ کی کتاب محکم اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس باب میں آپ کی قلبی کیفیات کا ہمیں پورا پورا اندازہ ہے۔ اس لیے کہ ان مسائل (بالخصوص وفات و حیات حضرت مسیحؑ) کو اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر شخص کا اس بحث میں الجھنے کو جی چاہتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے تو حضرت عیسیٰ کی وفات علمی دنیا میں ایک تاریخی سوال اور دنیائے مذہب میں قرآنی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے متعدد دیگر مسائل کو غور و فکر اور تاریخی انکشافات کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس

پر بھی غور و تدبر ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اسے اہمیت حاصل نہیں۔ عیسائیوں میں یہ مسئلہ ان کے مذہب کی بنیاد و اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں اس کی خاص اہمیت کی وجہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سوال دین کے اصول و اساس میں سے نہیں۔ لیکن دور حاضرہ میں (بالخصوص بعض مخصوص مقاصد کے ماتحت) اسے اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس سوال کو کفر و ایمان کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ سنجیدگی سے اس سوال پر غور کریں گے یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ جب کسی قوم کے سامنے کوئی زندہ نصب العین حیات نہیں رہتا تو کس طرح اس کے قوائے عملیہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کس طرح اپنا سارا وقت منطقی مویشگانہ فیوں اور دور از کار فلسفیانہ نکتہ آفرینیوں میں صرف کرتی اور ان لا حاصل نظری مباحث کو خاص اہمیت دے کر اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے زندگی کا واضح نصب العین اور ان کے قلوب میں اس کے حصول کی تڑپ تھی وہ اس قسم کے مباحث میں کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔“ (شعلہء مستور 132-134)

حالانکہ یہ اعتراض تو پرویز صاحب پر خود بھی لگایا جاسکتا ہے۔ کہ ان کا اتنا ضخیم کام بھی تو صرف منطقی مویشگانہ فیوں اور دور از کار فلسفیانہ نکتہ آفرینیوں اور لا حاصل نظری مباحث پر مشتمل ہے۔ اور ان کے سامنے بھی کوئی واضح نصب العین نہ تھا۔ اور ان کا پیش کردہ ”قرآنی نظام ربوبیت“ بھی ناقابل عمل ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ کارل مارکس پرویز صاحب سے زیادہ اپنے نظریات میں سچا تھا کہ اس نے جو نظام پیش کیا وہ خود اور اس کے پیروکار اس پر عمل پیرا تھے۔ مگر پرویز صاحب اور ان کے پیروکار جس ”قرآنی نظام ربوبیت“ کی بات کرتے ہیں وہ ان پر کبھی بھی عمل پیرا نہیں رہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں نے ان سے کہا کہ آئیں اس نظام کی ابتدا کے لیے عملی قدم اٹھائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ لوگ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ بلکہ یہاں تک کہ پرویز صاحب نے قرآن کریم سے جس طرح ”قانون وراثت“ اور ”وصیت“ کی تفسیر کی۔ وہ تو اس پر بھی عمل نہ کر سکے۔

درج بالا پیرا گراف (شعلہء مستور) ظاہر کرتا ہے کہ ”پیدائش مسیح“ اور ”مشل آدم“ پر پرویز صاحب کو اپنے بیان کردہ مفہوم کو ثابت کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے انہوں

نے بات کا رخ ہی پھیر دیا اور اپنے تمام دلائل تو بیان کر دیئے۔ اور پورا واقعہ تفصیلاً بیان کرنے کے بعد باقیوں کو یہ پیغام دیا کہ اس میں غور و تدبر وقت کے ضیاع کا باعث ہے۔

لگتا ہے کہ پرویز صاحب خود بھی اس چیز کا احساس رکھتے تھے کہ پیدائش مسیح کے بارے میں جو دلائل انہوں نے فراہم کئے وہ قاری کو مطمئن کرنے سے عاری ہیں اس لیے انہیں بار بار کہیں وضاحت کرنا پڑی اور کہیں موضوع کا رخ بدلنا پڑا۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں۔

”پیدائش حضرت عیسیٰ کے متعلق مزید تصریحات۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق اناجیل کا بیان اور قرآن کریم کی متعلقہ آیات، شروع میں درج کی جا چکی ہیں۔ لیکن اس مسئلہ نے قلوب و اذہان میں جس قدر اہمیت اختیار کر رکھی ہے وہ مزید تفصیلی بحث کی متقاضی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ ان کے مذہب کی تمام عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے انبیت والوہیت مسیح کے عقائد اسی بنا پر قائم ہیں کہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ لیکن خود ہمارے ہاں بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں۔ (اس کے وجوہات آگے چل کر ملیں گے)۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کا اس باب میں کیا ارشاد ہے۔ قرآن نے جن مقامات پر ولادت حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے انہیں غور سے دیکھئے اور جس نتیجہ پر وہ مقامات پہنچادیں انہیں صحیح سمجھئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات کے یقینی مفہوم متعین کرنے میں ابھی زمانہ کی علمی سطح کے اور بلند ہونے کا انتظار کرنا پڑے۔ تا آنکہ تاریخی انکشافات و اثری تحقیقات ان متشابہ آیات کو حکمت میں بدل دیں۔ قرآن نے خود اپنے متعلق کہا ہے کہ جوں جوں ”آیات خداوندی“، انفس و آفاق میں بے نقاب ہوتی جائیں گی قرآن کے دعاوی مثبت حقائق کی شکل میں سامنے آتے جائیں گے۔ یعنی اس کے حقائق انسانی علم کی سطح کی بلندی کے ساتھ ساتھ کھلتے جائیں گے۔ لہذا ہم ان حقائق کو اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ ہم اپنے ذہن میں پہلے ایک عقیدہ قائم کر لیں اور پھر اس کے تائیدی شواہد تلاش کرنے کے لئے قرآن کریم کی ورق گردانی

کریں تو یہ ”تدبرنی القرآن“ کا ایسا غلط طریقہ ہے جسے درحقیقت ”تدبرنی القرآن“ کہنا ہی غلط ہے۔ قرآن کریم کو اپنے خیالات و تصورات کے تابع لے آنا، بہت بڑی جسارت ہے۔ اس سے دلوں پر مہریں لگتی اور آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو خالی الذہن ہو کر سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد اگر ایسی باتیں سامنے آئیں جو سردست آپ کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ تو قرآنی حقائق کو کھینچنا ان کو اپنی عقل کے قالب میں ڈھالنے کی سعی ناکام نہ کیجئے۔ بلکہ قرآنی حقائق کو اپنی جگہ محکم اور اٹل سمجھتے ہوئے انتظار کیجئے تا آنکہ مزید تحقیق و تدبر آپ کی عقل میں اتنی وسعت پیدا کر دے کہ اس میں قرآنی حقائق سما سکیں۔ اگر قرآن کریم کا یہ ارشاد ہو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ظہور میں آئی تھی۔ تو بلا ادنیٰ تا مل ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم ہر لمحہ بدلنے والی عقل کی خاطر، نہ بدلنے والے حقائق کو ریک تالیات سے موڑ تو نہیں سکتے۔ اور اگر قرآن کریم اس طرف لے جائے کہ آپ کی پیدائش عام انداز کے مطابق ہوئی تھی تو محض اس لیے کہ اس سے ایک ایسے عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو ہم میں ایک عرصہ سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ بے معنی نکتہ آفرینیوں اور دور از کار موٹو گائیوں کی سعی لا حاصل بھی خود فریبی سے زیادہ نہیں۔ ہمارے تمام رجحانات و معتقدات، قرآن کے تابع ہونے چاہئیں اور بس!“

(شعلہء مستور 96-98)

قرآن کریم کے مفہوم اور زمانہ کی علمی سطح کا تعلق بھی عجیب بات ہے حالانکہ چودہ سو سال پہلے کے ان پڑھ اور جاہل قبائل نے کبھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ انہیں قرآن کریم کے کسی مقام کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ خود پرویز صاحب نے زمانہ کی علمی سطح بلند ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ تمام قرآن کریم کا مفہوم اپنے عقیدے کے مطابق بیان کر دیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ پرویز صاحب بھی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس باب میں بالکل خاموش رہتے اور تاریخی انکشافات اور اثری تحقیقات کا انتظار کرتے۔ بہر حال ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں لکھا ہونا چاہئے تھا کہ ”حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے“ پھر وہ اس کو مان لیتے۔ لیکن اس بات کی

کوئی ضمانت نہیں کہ پھر وہ ان الفاظ کا یہی مفہوم لیتے یا اس کو بھی مجازی مفہوم پر محمول کرتے؟
قول فیصل۔ اب ہم آتے ہیں ”پیدائش مسیح بن باپ کے“ پر اپنی آخری دلیل کی طرف، امید ہے کہ اس کے بعد اس چیز کو ماننے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہ رہے گی۔

☆ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْتُكُمُ الْبَيِّنَاتِ الْوَارِثَةَ لِيَاۤتِيَ بِكُمُ الْاٰيَاتِ الْوَارِثَةَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُوْنَ حُرْمَاتِ الْوَالِدِيْنَ
وَبَرّٰٓءِ الْوَالِدِيْنَ وَالْوَالِدِيْنَ (سورہ مریم 14-19/12)

”اے تھکی! میری کتاب مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا۔ اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔“

☆ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ طَافْتُ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْتُكُمُ الْبَيِّنَاتِ الْوَارِثَةَ لِيَاۤتِيَ بِكُمُ الْاٰيَاتِ الْوَارِثَةَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُوْنَ حُرْمَاتِ الْوَالِدِيْنَ
اَوْصِيْنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ وَ بَرّٰٓءِ الْوَالِدِيْنَ (سورہ مریم 32-39/30)

”اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا۔“

تھکی کے والد اور والدہ تھے اس لیے ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَالِدِيْهِ کا لفظ استعمال کیا۔ جس میں تشبیہ کا صیغہ عربی قواعد کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ اور عیسیٰ کی چونکہ صرف والدہ ہی تھیں اس لیے وہاں وَالِدِيْهِ کہہ کر واحد مونث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ معمولی عربی جاننے والا بھی یہ فرق ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ کے والد ہوتے تو ضرور یہاں بھی تشبیہ کا صیغہ استعمال ہوتا۔ اس لیے ان تصریحات سے بات واضح ہوگئی کہ عیسیٰ کی پیدائش روایتی قانون سے ہٹ کر ایک معجزہ کے طور پر ہوئی۔ اس لیے اس چیز کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہئے۔

معجزات۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ کو بہت سے معجزات عطا ہوئے۔ اس سلسلے میں

آپ پر یز صاحب کا موقف دیکھ چکے ہیں۔ آئیے قرآن کی دو آیات کو دیکھتے ہیں۔

☆ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۗ فَاسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۗ وَكَلِمَتُ النَّاسِ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّ مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشْرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۗ وَرَسُولًا ۗ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۗ اِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ لَآ اَنۡبِىْ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۗ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاُبْرِىْءُ الْاَكْمَةَ
وَالْاَبْرَصَ وَاُحۡىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاُنۡبِئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَاِمَّا تَدَّخِرُوْنَ لِاٰبِيْ
يُؤۡنِسُكُمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ اِنۡ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ (ال عمران 49-45/3)

”جب فرشتوں نے کہا اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ جس کا نام مسیح بن مریم ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی! مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور توراہ اور انجیل سکھائے گا۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم مومن ہو۔“

☆ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرۡ نِعْمَتِىْ عَلَیْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۗ اِذْ اٰتٰتُكَ رُوحَ
الْقُدُسِ فَكَلِمَتُ النَّاسِ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۗ وَاِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ

وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ۚ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۚ وَ
تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُمُ بَالِئِينَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُّبِينٌ ۝

(المائدہ 5/110)

”جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر
ہوا ہے۔ جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی
اور بڑی عمر میں بھی۔ اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت اور انجیل کی
تعلیم دی۔ اور جب کہ تم میرے حکم سے مٹی سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے۔
پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے۔ اور تم اچھا
کردیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برص کے بیمار کو میرے حکم سے۔ اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر
کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان
کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور
کچھ بھی نہیں۔“

یہ تھے وہ معجزات جو عیسیٰ کو عطا ہوئے۔ دوسری آیت کا آخری ٹکڑا وضاحت کر رہا ہے
کہ یہ تمام حسی معجزات ہی تھے جو عام قاعدے قانون سے ہٹ کر وقوع پذیر ہوئے۔ کہ جب عیسیٰ
نے وہ معجزے پیش کئے تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اگر کوئی چیز قاعدے اور قانون
(Laws of nature) کے مطابق ظہور پذیر ہوئی ہوتی تو کفار بالکل یہ اعتراض وارد نہ کرتے۔

باقی رہا پرویز صاحب کا معاملہ! تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ میں تو ان
آیات کے مجازی معانی لیتا ہوں۔ اب یہاں غور و فکر اور بحث و تحقیق کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
بحث و تحقیق کی گنجائش تو وہاں ہوتی ہے جہاں یہ طے ہو کہ جناب یہ عربی زبان ہے، یہ اس کے
قواعد و ضوابط ہیں، یہ سیاق و سباق ہے۔ ان کے مطابق ان آیات کا یہ مطلب بنتا ہے۔ مگر جہاں
کوئی معیار (Criteria) ہی موجود نہ ہو تو پھر تو کسی بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ (مزید تفصیل کے لیے
دیکھئے باب ”مجازی مفہوم“)

وفات مسیح۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مسیحؑ کو نہ تو صلیب دی گئی اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باحفاظت اپنی طرف اٹھالیا۔ لیکن اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی اور بعد میں اپنی طبعی موت پر اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ آئیے پہلے پرویز صاحب کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔

”قرآن کریم نے سب سے پہلے، ایک اصولی چیز بیان فرمائی ہے کہ اس اختصار میں

تمام تفصیل و جزئیات محصور ہو گئی ہیں۔ **وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَاللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ه (3/54)** ”اور پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں نے (مسیح کے خلاف) مکر کیا (یعنی مخفی اور باریک طریقے مخالفت کے کام میں لائے) اور خدا بھی ویسے ہی طریقے کام میں لایا (یعنی مسیح کی حفاظت کے پوشیدہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیئے) اور یاد رکھو، (اللہ جسے بچانا چاہے تو) مخفی طریقوں سے کام لینے والوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں!“

یعنی یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت مسیحؑ کو گرفتار کر کے رومیوں کے ہاتھوں صلیب پر لٹکوا دیا جائے، لیکن اللہ ان کی تدبیر سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے اپنے اس برگزیدہ رسول کو اس ”لعنتی موت“ سے بچانے کی خود تدبیر کر رکھی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے مقابلہ میں خدائی تدبیر کامیاب ہوگی۔ **وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ه** یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیحؑ کو صلیب دیا گیا اور اس طرح وہ (معاذ اللہ) لعنت کی موت مرے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔

☆ **وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۗ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظُّنِّ ۗ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۗ (4/157)**

”اور (بیز) ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا (سولی پر چڑھا کر) قتل کر ڈالا۔ حالانکہ (واقعہ یہ ہے کہ) نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی چڑھا کر ذلت کی موت مارا۔ بلکہ حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی۔ (یعنی صورتحال ایسی ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا، ہم نے مسیحؑ کو مصلوب کر دیا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں تھا) اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا (یعنی

عیسائیوں نے جو کہتے ہیں مسیحؑ مصلوب ہوئے لیکن اس کے بعد زندہ ہو گئے) تو بلاشبہ وہ اس کی نسبت شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اس بارے میں ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ ظن و گمان کے پیچھے جائیں۔ اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔

انہوں نے یقیناً نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ صلیب پر لٹکایا۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَكِنْ شَيْبَةً لَّهُمْ (انہیں اس باب میں سخت اشتباہ ہو گیا) بس اس ٹکڑے کے اندر اصل واقعہ نقاب اوڑھے مسکرا رہا ہے۔ اس کے متعلق یہود و نصاریٰ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ محض ظن و تخمین ہے، علم و حقیقت نہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔ حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیحؑ کو ہرگز ہرگز قتل نہیں کیا۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ وہ (معاذ اللہ) ایک لعنتی کی موت مرے سر تا سر لغو اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکمال حکمت و تدبیر حضرت مسیحؑ کو یہودیوں کی مشنوم چال سے محفوظ رکھا اور لعنتی کی موت کے بجائے، عزت و تکریم کی اس انتہائی بلند یوں تک پہنچا دیا جو ایک رسول کا صحیح مقام ہے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (4/158)

(شعلہء مستور 76-75)

ہجرت۔ بہر حال حضرت مسیحؑ نے ان حالات میں فلسطین سے ہجرت کر لی (جس طرح رات کی تاریکی اور خاموشی میں حضور نبی اکرمؐ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی) اور کسی دوسری طرف تشریف لے گئے۔ یہ اسی قسم کی ہجرت تھی جسے ہم اتمام حجت کے بعد، انبیائے سابقہ کے احوال و کوائف میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ہوڈ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ، حضرت ابراہیمؑ، وغیرہم (علیہم السلام) نے اسی طرح ہجرت کی تھی۔ ان میں سے بعض انبیائے عظام کے بعد از ہجرت واقعات زندگی کے متعلق قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اکثر وہ ہیں (حضرت ہوڈ، صالحؑ، لوطؑ) جن کی بعد از ہجرت زندگی کے متعلق قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ اس لیے کہ جیسا کہ لکھا جا چکا ہے۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ کسی رسول (یا قوم) کی پیدائش سے وفات (یا ابتدا سے انتہا) تک کے تمام واقعات بیان کرے۔ وہ ان واقعات میں سے صرف اتنے حصہ پر اکتفا کرتا ہے۔ جسے وہ مقصد پیش نظر کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بعد از ہجرت زندگی کے متعلق بھی قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔

وفات۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ قرآن کریم نے کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے اس خیال اور باطل عقیدہ کی تردید کر دی ہے کہ حضرت مسیحؑ کو صلیب دیا گیا تھا۔ باقی رہا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے تھے۔ تو قرآن سے اس کی بھی تائید نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے رسولوں کی طرح اپنی مدت عمر پوری کرنے کے بعد وفات پائی۔ سورہ آل عمران کی جو آیت اوپر درج کی جا چکی ہے۔ اس میں وفات کا ذکر صاف طور پر موجود ہے۔

☆ **إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِيْ اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔** (3/55)

”جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ! میں تیرا وقت پورا کروں گا (وفات دیدوں گا) اور تجھے (یعنی تیرے درجات کو) اپنی طرف بلند کروں گا۔ تیرے مخالفین (کی ہمتوں) سے پاک کر دوں گا۔“

سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تیری اور تیری والدہ کی پرستش کیا کریں۔ وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ معاذ اللہ! میں بھلا ایسا کیسے کہہ سکتا تھا۔ باقی رہے یہ لوگ (میرے تابعین سو۔ کُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط (5/117) جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا) کہ اس قسم کے مشرکانہ عقائد ان میں پیدا نہ ہوں) لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی تو اس کے بعد ان کا نگران تو ہی ہو سکتا تھا۔ (میں نہیں)۔“

(شعلہء مستور 81-79)

وفات کے معنی۔ جو شخص ان تصریحات پر خالی الذہن ہو کر غور کرے گا۔ وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ نزول قرآن کے وقت حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کی تائید قرآن کریم کی آیات سے نہیں ملتی۔ بلکہ اس کے برعکس آپ کے ”گزر جانے“ اور وفات پا جانے کی شہادت قرآن میں موجود ہے، وفات کے معنی ہیں اس طرح پورا ہو جانا (یا پورا کر دیا جانا) کہ اس میں سے کچھ بقایا نہ رہے۔۔۔ تفصیل کے لیے دیکھئے میری لغات القرآن)۔ لہذا وفات کے معنی ہوں گے ”کسی کے وقت کا پورا ہو جانا۔“

یعنی دنیا میں قیام کی مدت کا پورا ہو جانا۔ قرآن کریم میں وفات کا لفظ ان معنوں میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں مومنین کی ایک دعا مذکور ہے کہ

☆ رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ (3/193)

”پس خدایا ہمیں سامان حفاظت عطا فرمادے۔ ہماری برائیاں مٹا دے اور (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ ہماری موت نیک کرداروں کے ساتھ ہو۔“

یہاں توفنا کے معنی ظاہر ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے

☆ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ (7/126)

”پروردگار! ہمیں صبر و شکیبائی سے معمور کر دے۔ (تا کہ زندگی کی کوئی اذیت ہمیں اس راہ میں ڈگمگانہ نہ سکے۔) اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ تیرے فرماں بردار ہوں۔“

حضرت یوسفؑ کی یہ دعا کہ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ (12/101) بھی اسی مفہوم کو لئے ہوئے ہے۔ سورہ محمد میں اس لفظ کے معنی اور بھی واضح ہو گئے ہیں۔

وَ كَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ (47/27) تو (غور کرو، ان کا) کیا حال ہوگا جب ملائکہ انہیں وفات دیں گے ان کے مونہوں اور ان کی پیٹھوں کو مارتے ہوں گے۔

ان کے علاوہ کئی ایک اور مقامات بھی ہیں جن میں يَتَوَفَّى کے معنی ماردینے کے ہیں۔ مثلاً (2/240, 2/234, 4/15, 16/70, 22/5, 32/11) بغرض اختصار ان آیات کو درج نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم میں خود دیکھ لیجئے۔ ان کے معانی میں کسی قسم کا اشکال نہیں۔ بلکہ ان مندرجہ صدر آیات سے بھی زیادہ واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں۔“ (شعلہء مستور 82-83)

”قرآن کریم میں دو ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں توفی کے معنی موت دینے کے نہیں ہیں۔ مثلاً سورہ انعام میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ۚ لَمَّا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ (6/60) اور (دیکھو) وہی ہے جو رات کے وقت تم کو ”وفات دے دیتا ہے“ (یعنی سلا دیتا ہے) اور جو کچھ تم نے دن (کی حرکت و ہوشیاری) میں کدو کاوش کی تھی، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر

(جب رات بھر سو لیتے ہو، تو) دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ (بدستور کدو کاوش میں لگ جاؤ، اور زندگی کی) مقررہ میعاد پوری ہو جائے۔
اس کی تفسیر سورہ زمر میں ان الفاظ میں آئی ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فِيمِصْرِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (39/42)

”اور دیکھو، اللہ ”نفوس“ کو (دو طرح پر) وفات دیتا ہے (ایک تو) ان کی موت کے وقت، اور (دوسرے) جو مرے نہیں، ان کی نیند میں۔ پھر انہیں روک رکھتا ہے جن پر موت کا حکم کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں قوم کے لئے بڑی ہی نشانی ہے۔ جو غور و فکر کی عادی ہو۔“

ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ”نفوس“ کے معنی جان کے نہیں بلکہ نفس شعوریہ (Conscious Mind) کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بحالت نیند اور بحالت موت نفس شعوریہ (احساس و ادراک) کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ نیند کی صورت میں تو اس کھوئے ہوئے شعور و ادراک کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن موت کی صورت میں واپس نہیں لوٹایا جاتا (جب تک پھر دوسری زندگی عطا نہ ہو) اس لئے کہ حالت نیند میں انسان میں سوائے شعور ادراک کے اور سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ ان معانی کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی مندرجہ صدر آیات میں توفیٰ کے معنی موت نہیں بلکہ نیند کی سی بے ہوشی کے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ لی جاسکتی ہے۔ کہ آپ کو صلیب دی گئی لیکن آپ صلیب پر بے ہوش ہو گئے۔ مرے نہیں۔ اور لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ آپ مر چکے ہیں۔ (یعنی لوگوں کا وہی خیال جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے) لیکن، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے دیگر قرآن کے پیش نظر یہ صحیح نہیں۔ قرآن کریم آپ کے صلیب دیئے جانے کی بصراحت تردید کرتا ہے۔ (وَمَا صَلَّيْوْهُ) پھر سورہ مائدہ کی مندرجہ صدر آیت میں واضح الفاظ میں ہے کہ ”جب تک میں ان میں رہا ان کی حالت پر گواہ تھا۔ اس کے بعد جب تو نے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔“ اس سے

بھی ظاہر ہے کہ یہاں وفات سے مراد نیند کی سی بے ہوشی نہیں بلکہ موت کی بے خبری ہے۔ ورنہ اگر نیند کی سی بے ہوشی ہوتی تو ہوش میں آجانے کے بعد پھر وہی پہلی سی (باخبری) کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ضمن میں توفیٰ کے معنی وفات پا جانا ہیں۔ سو جانا نہیں۔“ (شعلہ مستور 84-86)

رفع الی السماء۔ اب دیکھئے ترفع (آسمان پر چڑھ جانے) کا مفہوم۔ اس کے لئے تو سورہ آل عمران کی اسی آیت کو سامنے رکھئے جسے اوپر درج کیا جا چکا ہے (اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ) اور دوسرے سورہ نساء کی یہ آیت بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ (4/158) حضرت عیسیٰ کے ترفع کا ذکر انہی دو آیات میں آیا ہے۔

رفع کے معنی ہیں اوپر اٹھانا، بلند کرنا، سورہ رعد میں ہے اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا (13/2) ”اللہ وہ ہے جس نے بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو آسمانی کڑوں کو بلند کیا۔ یا مثلاً وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمْ الطُّوْرَ (2/63) ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ حضرت یوسفؑ کے تذکار جلیلہ میں ہے وَرَفَعَ اَبُوہِ عَلَی الْعَرْشِ (12/100) اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ پھر درجات کی بلندی کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے مثلاً وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلْکُمْ خَلَایِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ (6/165) ”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے سے درجات میں بلند کیا۔ اور اس صدر نشین بزم کائنات (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے ذکر کی بلندی کے لیے بھی (وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ (94/4) کے الفاظ آئے ہیں۔ ان آیات میں رَفَعَ کے ساتھ درجت یا ذکر کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن تہا رَفَعَ کے معنی بھی بلندی، درجات و عروج مراتب کے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے۔ وَکُوْنُ شِعْرٰنَا لِرَفْعٰنہٖ بِہَا (7/176) اور اگر ہم چاہتے تو ان (قوانین) کے ذریعے ہم اس (کے مقام) کو بلند کر دیتے۔ یہی وہ ارتفاع درجات و مراتب اور عروج مقامات و مناصب ہے جن کا ذکر حضرت ادریسؑ کے قصہ میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ وَرَفَعْنٰہُ مَکَانَ عَلِیًّا (19/57) اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا ”حضرت ادریسؑ کو“ بڑے اونچے مقام تک اٹھانے کا یہ مفہوم نہیں کہ انہیں بہ جسد غصری اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر بٹھادیا گیا تھا۔ بلکہ (جیسا کہ عام محاورہ ہے) اس

سے ان کے مقام و مدارج کی بلندی مفہوم ہے۔ اور جب اس بلندیء مقام کا ذکر اللہ کے عباد صالحین کے متعلق ہوگا تو اس سے مطلب ”قرب الہی“ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ”قرب الہی“ سے مفہوم یہ نہیں کہ انسان جسمانی طور پر ”اللہ کے قریب“ جا بیٹھتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی مقصود بلندی مدارج و علو شرف انسانیت ہوتا ہے۔ یہی مطلب حضرت عیسیٰ کے تذکرہ میں ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ (اللہ نے اپنی طرف بلند کیا) اور ”رَافِعُكَ إِلَيَّ“ (میں تجھے اپنی طرف بلند کروں گا) سے ہے۔ یعنی بلندی مدارج و مراتب۔ مختلف انبیائے کرام کے مختلف مقامات مدارج و مناصب کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ قَلْبَكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (2/253) ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ اور ”رَافِعُكَ إِلَيَّ“ فرمایا گیا ہے، (یعنی اللہ نے اپنی طرف بلند کیا) اور اس سے اس امر پر دلیل لائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ لیکن اگر (الیہ اور الی سے) یہ مفہوم لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی خاص مقام میں متمکن ہے۔ اس مفہوم سے خود ذات باری تعالیٰ کے متعلق جو تصور قائم ہوتا ہے۔ وہ محتاج تشریح نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہات و اطراف کی نسبتوں سے بلند اور مکان و زمان کی اضافتوں سے منزہ ہے۔ وہ ہر مقام پر ہے اور اس کے لیے کسی خاص مقام اور گوشہ کی تعیین یکسر غلط اور اس کی ذات کے متعلق قرآنی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ جسے ایک ثانیہ کے لیے بھی دل میں جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اس لئے جہاں حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت یا مقام میں ہے اور حضرت عیسیٰ اس جہت یا مقام (آسمان) کی طرف اٹھالیے گئے ہیں۔ الیہ (اللہ کی طرف) کا لفظ صرف حضرت عیسیٰ کے متعلق ہی استعمال نہیں ہوا بلکہ متعدد دیگر مقامات پر بھی آیا ہے۔ جہاں سے یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے ”آسمان کی طرف اٹھالینا“ مراد نہیں ہو سکتا مثلاً اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (2/156) ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کسی خاص مقام پر ہے اور ہم اس مقام کی

طرف لوٹ کر جائیں گے۔“ (شعلہء مستور 88-86)

”ان تصریحات سے واضح ہے کہ یَعْرُجُ إِلَيْهِ اور يَصْعَدُ إِلَيْهِ اور مُهَاجِرًا وَ ذَاهِبًا
إِلَى رَبِّي میں الی سے مراد کسی خاص مقام کی سمت نہیں بلکہ تکمیل مدارج ہے۔ اسی طرح قصہ
حضرت عیسیٰ میں ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ میں الیہ سے مفہوم کوئی خاص سمت نہیں۔ بلکہ بلندیء مدارج
ہے۔ اور یہ لفظ ایک خاص مقصد کے پیش نظر استعمال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا زعم باطل تھا کہ
انہوں نے حضرت مسیحؑ کو صلیب پر لٹکا دیا تھا جس سے آپ (معاذ اللہ) لعنت کی موت مرے
تھے۔ لعنت کے معنی ہیں دوری۔ (انعامات خداوندی سے دوری یا محرومی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
حضرت عیسیٰ صلیب دیئے ہی نہیں گئے (ماصلبوہ) بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے وفات پا گئے
(متوفیک) اور انہیں انعامات خداوندی سے دوری نہیں بلکہ قرب حاصل ہے (بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
إِلَيْهِ)۔ اب سورہ آل عمران کے ان الفاظ کو پھر سے سامنے لائیے۔ اِنِّي مُتَوَقِّئُكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ
(اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا اور بلند درجات عطا کرنے والا ہوں) وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا یعنی تجھے ان کفار کے اتہامات سے پاک اور صاف کرنے والا ہوں۔“
(شعلہء مستور 90-89)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ نظر ”وفات مسیح“ کے بارے میں، اس میں چند نکات قابل غور ہیں۔
☆ پرویز صاحب نے لغت کے مطابق جو معانی ”وفات“ اور ”رفع“ کے بیان کئے ہیں۔ ان میں
کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ”توفی“ وفات کے معنوں میں اور ”پورا پورا لینے اور
دینے“ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے جو حوالہ جات پرویز صاحب نے
دیئے ہیں ان کو ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ”رفع“ کے معنی اوپر اٹھانے کے بھی ہیں اور ”درجت
بلند کرنا“ بھی ہیں۔

ہمارا استدلال یہ ہے کہ زبان میں الفاظ کے معانی کا تعین سیاق و سباق کرتا ہے۔ اس
لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس سیاق میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں ان کا مفہوم کیا بنتا
ہے۔ ”رفع“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب نے دیگر قرآنی آیات کا سہارا لیا مگر

”جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ میں ہی تمہارے آپس کے تمام تراختلافات کا فیصلہ کروں گا۔“

آیت 4/157-158 کی روشنی میں اس آیت میں ”مُتَوَفِّيكَ“ کا مطلب ”میں تجھے وفات دوں گا۔“ نہیں ہو سکتا بلکہ ”میں تجھے پورا لے لوں گا“ ہی ہو سکتا ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کے ساتھ ہی ”رَافِعُكَ إِلَيَّ“ بھی موجود ہے۔ وفات دے کر اپنی طرف اٹھانا تو کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بلکہ اس صورت میں اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔

☆ اگلی بات یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ یہاں ”درجت“ کا لفظ استعمال کر دیتا۔ جیسا کہ ان آیات میں کئے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ (6/166) اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے سے درجات میں بلند کیا۔ يَا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط (2/253) ”یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں۔ اور رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (94/4) اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔

لیکن جہاں مسیح کے ساتھ ”رفع“ کا لفظ استعمال ہوا وہاں عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق ”كَ“ اور ”ة“ کی ضمیر استعمال کی گئی جو غلط ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی ذات ہے۔ نہ کہ ان کے درجات۔

إِلَيْهِ أَوْرِ إِلَيْهِ۔ سابقہ صفحات میں آپ نے دیکھا کہ پرویز صاحب کے نزدیک **إِلَيْهِ** اور **إِلَيْهِ** کی توجیہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے قبول نہیں کی جاسکتی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کسی خاص جہت یا مقام میں ہونا لازم آتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مبرا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ذات الہی کی کنہ و حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ”رَفَعَ“ کا لفظ استعمال کیا۔ جس طرح کے حالات و واقعات اور مشکلات و مصائب کا شکار حضرت عیسیٰ ہوئے۔ ایسے ہی مشکل ترین حالات کا شکار دیگر انبیاء کرام بھی ہوئے۔ آئیے کچھ آیتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔

☆ حضرت ابراہیم۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ۝ قُلْنَا يٰۤاٰرَٔ كُوْنِيْ
بُرْدًا ۙ وَ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۙ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَى
الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ (21/68-71)

” کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور راحت کی چیز بن جا۔ گوانہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔“

☆ حضرت لوط۔ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْحٰكِيَةَ ۙ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ فَسٰقِيْنَ ۙ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۙ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝
(21/74-75)

” اور ہم نے لوط کو بھی حکمت اور علم دیا اور اسے بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ اور تھے بھی وہ بدترین گندے گار۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ بے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔“

☆ حضرت نوح۔ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ فَجَعَلْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكُرْبِ
الْعَظِيْمِ ۙ وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الْذٰلِمِيْنَ كَذٰبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ فَاَعْرَفْنٰهُمْ
اٰجْمَعِيْنَ ۝ (21/76-77)

” اور جب نوح نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اسکے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے اس کی مدد کی یقیناً وہ برے لوگ تھے۔ پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔“

☆ حضرت ایوب۔ وَاٰيُوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّىْ مَسْنِيْ الضُّرَّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۝ (21/83-84)

”اور جب ایوبؑ نے اپنے رب کو پکارا کہ میں انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور جو دکھ انہیں تھا۔ اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔“

☆ حضرت یونسؑ - وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَمِ ۗ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝ (21/87-88)

”اور مچھلی والے (حضرت یونسؑ) کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔“

☆ حضرت موسیٰؑ - فَلَمَّا تَرَاءَ الْحَمْعُنَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۗ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۗ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ۗ وَزَلَفْنَا لِمِ الْأَخْرِيِّينَ ۗ وَاتَّخَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۗ ثُمَّ آغْرَقْنَا الْأَخْرِيِّينَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (26/61-68)

”پس جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تو موسیٰؑ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ موسیٰؑ نے کہا ہرگز نہیں۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰؑ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا۔ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لاکھڑا کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب

وہر بان ہے۔“

☆ حضرت ہودؑ - وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ حَادِدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا عِوَاجٍ نَّجَّيْنَاهُمْ

مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ هٗ (11/58)

”اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ہودؑ کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچالیا۔

☆ حضرت صالحؑ - فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ صَالِحٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن

بَيْنِي يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ هٗ (11/66)

”پھر جب ہمارا فرمان آپہنچا ہم نے صالحؑ کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچالیا۔ اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔“

☆ حضرت شعیبؑ - وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَيْبٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا عِوَاجٍ

أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبِيحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِزْيِينًا هٗ (11/94)

”جب ہمارا عذاب آپہنچا ہم نے شعیبؑ کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت آواز کے عذاب نے آدو بچا۔ جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مردہ ہو گئے۔“

مندرجہ بالا آیات سے یہ واضح ہے کہ حضرات انبیائے کرامؑ مصائب و آلام کا شکار ہوئے تو ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، ان کو مصیبت سے نجات دلائی اور دکھوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نَحْنُ، كَشَفْنَا اور نَصَرْنَا جیسے الفاظ استعمال کئے۔ اور کہیں بھی ان مصائب سے نجات کے معاملہ میں ”رفع“ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور جب حضرت عیسیٰؑ کو یہود سے بچایا تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے بلکہ قرینہ سے ہٹ کر ”رفع“ کا لفظ استعمال کیا۔ اور کہا ”رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ جو خود ظاہر کرتا ہے کہ یہاں معاملہ دیگر انبیاء حضرات سے مختلف ہے۔ وگرنہ ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ کا استعمال چنداں مشکل نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھالیا۔ اور دیگر انبیاء حضرات اپنی اقوام پر عذاب سے چھٹکارا پانے کے بعد یا ہجرت کرنے اور

نجات پانے کے بعد اپنی اپنی طبعی موت پر اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ ”پھر انہیں موت آگئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے“ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ”إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ“ میں ”میں تجھے وفات دوں گا“ کا معنی کرنے سے یہ چیز غیر ضروری ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہی کہا کہ میں تجھے ”وفات“ دوں گا۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت (4/157) میں یہودی کی بات کا جو جواب دیا ہے کہ **وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا** اس کے بعد **بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ** کی بجائے **تَوَفَّيْ** یا **مَتَوَفَّيْهِ** کے الفاظ آنے چاہئیں تھے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں وفات دی۔ مگر الفاظ کا استعمال مفہوم کی تشریح کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آیت 3/55 میں **مَتَوَفَّيْكَ** کے معنی ”پورا پورا لے لوں گا“ ہی کہنے جاسکتے ہیں۔

باقی رہی یہ بات کہ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پابند نہیں بنا سکتے۔ **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ** (22/18) وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ** (22/14) وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ **لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ** (21/23) اس سے یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور سب سے پوچھا جاسکتا ہے۔

نزول مسیح۔ موجودہ دور میں مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ امام مہدی اور دجال بھی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نبوت کے اعلان کے بعد قرآن کریم میں کسی بھی نئے آنے والے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آئیے اس سلسلہ میں پرویز صاحب کا موقف ملاحظہ کرتے ہیں۔
 ”سادہ لوح مسلمان دور حاضر کی ”جدید قادیانی نبوت“ کی کامیابی و ناکامی کے اندازے مردم شماری کے اعداد و شمار سے لگاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ دس کروڑ کے سمندر میں اس ”نبوت“ نے

کس طرح اس بحرِ ذخار کو اس کی اپنی ہی موجودگی کے طلسمِ پیچ و تاب میں الجھائے رکھا اور یوں اس کی وہ قیامت خیز تلاطم انگیزیاں جو دنیا کا نقشہ بدل دینے کے لئے کافی ہو سکتی تھیں اپنے ہی بھنور میں گھر کر ضائع ہو گئیں۔ کیا یہ کامیابی چھوٹی کامیابی ہے؟ مسلمان اس نصف صدی کی روند اد پڑھ پڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بحث و جدل کا فلاں میدان مارا۔ اور ہمارے فلاں مولوی صاحب نے فلاں مناظرہ جیتا۔ اور آسمان اس پر ہنس رہا ہوتا ہے کہ

وائے نادانی، قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو

اس تمام طلسمِ پیچ و تاب کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ چند روایات جن میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰؑ بچسد عنصری آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہونگے۔ ان چند روایات نے آج تک مسلمانوں کے پاؤں کہیں ٹکنے ہی نہیں دیئے۔ اس کے ساتھ ہی ہر صدی کے اخیر پر ایک مجدد اور پھر ایک ”مہدی آخر الزماں“ کی آمد سے متعلقہ روایات۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ”آنے والے“ کے لیے کھڑکی خود کھول دی۔ لیکن جب کوئی اس کھڑکی کے راستے اندر آیا تو اس کے ساتھ گتھم گتھا ہونا شروع ہو گئے۔ ان سے پوچھئے کہ جس دروازہ کو ”ختم نبوت“ کے عظیم الشان قفل نے بند کیا تھا۔ اس میں اس قسم کے درپچوں اور کھڑکیوں کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ”اس جدید نبوت“ کی بحث کا مدار کیا ہوتا ہے؟ پہلے قرآن کی رو سے ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ فوت ہو چکے ہیں۔۔۔ بہت اچھا۔۔۔ بات ختم ہوگئی! لیکن بات تو اس کے نزدیک ختم ہو جائے جو قرآن کریم کو دین کا مدار مانے۔ اب وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھئے فلاں روایت میں حضرت عیسیٰؑ کے آنے کی خبر موجود ہے۔ اس لیے وہ آنے والا ”مسح ابن مریم“ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا مثیل ہوگا۔ اور وہ مثیل مسح تشریف لے آئے ہیں۔ بس یہ ہے ساری گتھی۔۔۔ اور اس کا حل؟ کس قدر آسان!! یعنی ان سے کہیئے کہ

i۔ آپ مانتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ فوت ہو چکے اور ان کے دوبارہ تشریف لانے کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ اس لیے

ii۔ کوئی روایت جو حضرت عیسیٰؑ کی آمد کی خبر دیتی ہے وضعی اور جھوٹی ہے جو ہمارے لیے سند نہیں

ہوسکتی۔ اب فرمائیے کیا ارشاد ہے؟

لیجئے بحث ختم ہوگئی۔ لیکن یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ان روایات کو محکم اور اٹل سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآنی آیات کے معانی اس طرح کئے جاتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طرح وہ روایات سچی قرار پاجائیں۔ جب تک آپ کی یہ روش ہے قیامت تک کے لیے مدعیان مسیحیت و مہدیت آتے رہیں گے اور آپ کو انہی لاطائل مسائل میں الجھا الجھا کر ختم کر دیں گے۔“

(شعلہء مستور 136-135)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ نظر نزول مسیح کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی آنے والے کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قرآن کریم تا قیامت انسانیت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں ”کسی بھی نئے آنے والے“ کی ضرورت نہیں رہتی۔

حضرت محمدؐ۔ معجزات کے سلسلہ میں ہم نے مختلف انبیائے کرامؑ کے حالات کا جائزہ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت محمدؐ کو کوئی حسی معجزہ عطا ہوا یا نہیں۔ قرآن کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ کہ کفار مکہ آپؐ سے بار بار معجزات کا تقاضا کرتے تھے۔ لیکن آپؐ کا جواب ہوتا کہ ”میں تو صرف ڈرانے والا ہوں“ یا ”میں تو بشر رسول ہوں“ پھر قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے معجزات کا بھیجنا اس لیے بند کر دیا کہ پچھلے لوگوں نے انہیں جھٹلادیا۔

لیکن نبی کریمؐ کی ذات کے متعلق قرآن کریم میں مذکور دو مقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

1۔ واقعہ معراج 2۔ شق القمر

اور مقام حیرت ہے کہ پرویز صاحب نے حضورؐ کی سیرت پر جو کتاب ”معراج انسانیت“ لکھی

ہے۔ اس میں ان دونوں مقامات پر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ اور واقعہ معراج کے حوالہ سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جس کا مفہوم پرویز صاحب بطور ”ہجرت“ لیتے ہیں۔ ”معراج انسانیت“ میں جو بات ”ہجرت“ کے عنوان سے انہوں نے دیا ہے۔ اس میں اس آیت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

ہاں! ان مقامات کے لیے انہوں نے اپنے آڈیو/ویڈیو دروس میں گفتگو کی ہے۔ اور خاص طور پر سورہ نجم کے آغاز پر پہلے دو تمہیدی درس صرف مولانا مودودیؒ کے تصور واقعہ معراج پر تنقید میں بیان کئے ہیں۔

اس بات کا اقرار پرویز صاحب بھی کرتے ہیں کہ مخالفین بار بار معجزہ کا تقاضا کرتے تھے۔ آئیے اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔

”معجزہ طلبی۔ مخالفین کہتے کہ اگر آپ خدا کی طرف سے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ آپ مامور من اللہ ہیں۔

☆ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۝ (13/27)

”یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی (عجیب و غریب) نشانی اترتی؟ اے رسول! ان سے کہہ دو کہ عجیب و غریب نشانیاں (معجزات) دکھا کر حقیقت کو منوانے کا سوال ہی نہیں، اس کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ جو شخص عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتا، اسے صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جو علم و بصیرت کی رو سے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے سامنے راستہ نکھر کر آجاتا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ان مطالبات کی وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے۔

☆ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ لَا---- قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ (17/90-93)

”اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں، جب تک کہ تو اس قسم کی باتیں کر کے نہ دکھا دے، مثلاً ایسا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یا تیرے پاس

کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور اس کے درمیان بہت سی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو کہتا ہے کہ ہم پر تباہی آئے گی تو اس کے لیے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آگرے، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آکھڑے ہوں۔ یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہو گیا ہے۔ ایسا ہو کہ تو آسمان پر چڑھ جائے۔ اور اگر تو آسمان پر چڑھ بھی گیا، تو ہم یہ بات ماننے والے نہیں جب تک تو ایک (لکھی لکھائی) کتاب ہم پر نہ اتار لائے، اور ہم خود پڑھ کر اسے جانچ نہ لیں (اے رسول) ان سے کہہ دے سبحان اللہ! (میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ تو کیا نہیں) میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک انسان ہوں جو تم تک حق کی بات پہنچاتا ہوں۔“

قرآن کریم میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بار بار معجزات کے لیے تقاضا کرتے تھے۔ اور خدا کی طرف سے ہر بار اس کا انکار ہوتا تھا اور نہایت شدت سے انکار۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے علم و حقائق عطا کئے جانے کے لیے (وحی کا) فوق الفطرت طریق اختیار کیا گیا تو پھر اس وحی کو منوانے کے لیے کوئی خارق عادت عجبہ کیوں نہ دکھایا گیا بالخصوص جب مخالفین کی طرف سے اس کے لیے اس قدر تقاضا کیا جاتا تھا۔ یہ سوال غور طلب ہے اور اس کا جواب حقیقت کشا۔

انسانوں کی راہ نمائی کے لیے وحی کا طریق اس لیے اختیار کیا گیا کہ ابدی حقائق اور مستقل اقدار کا تخلیق یا دریافت کر لینا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس کے دائرہ عمل سے باہر کی چیز ہے۔ (وحی کی کنہ و حقیقت اور عقل انسانی کے دائرہ عمل و حیطہ ممکنات کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ مقام نہیں۔ اس لیے ہم یہاں انہی اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔) ان حقائق کو رسول پر منکشف کر کے اس سے کہہ دیا کہ انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور ان سے کہہ دو کہ تم عقل و فکر کی رو سے ان پر غور کرو اس کے بعد اگر تم اس نتیجہ پر پہنچو کہ یہ واقعی صداقت پر مبنی ہیں تو انہیں بطیب خاطر اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لو۔

آپ نظام کائنات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیائے کائنات کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جو ان کے لیے خدا کی طرف سے وضع

کئے گئے ہیں۔ لیکن انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کے اس اختیار کو کسی طرح بھی سلب کر لیا جائے۔ تو یہ اپنی بات کو بہ جبر و اکراہ منوانے کے مرادف ہوگا۔ جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قرآن کا واضح ارشاد ہے)۔ اکراہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اکراہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اس سے زبردستی اپنی بات منوالے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اکراہ کی شکل یہ ہے کہ انسان کو (مثلاً نشہ پلا کر اس کی) قوت ارادی کو ماؤف کر دیا جائے اور اس طرح اس سے کوئی بات منوالی جائے۔ انسانی عقل و فکر کو ماؤف کرنے کی ایک صورت اور بھی ہے (مثلاً) ایک شخص آپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور آپ اسے نہیں مانتے۔ اس پر وہ سرخ آنکھیں نکال کر گرجتا ہے اور اپنے بالوں کو نچوڑتا ہے تو ان میں سے دودھ کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ پر رعبہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اس حالت میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ بتاؤ! میری بات مانتے ہو یا نہیں۔ اور آپ ہاں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ عقل و فکر کو ماؤف کر کے بات منوانے کا ایسا طریقہ ہے جس کے مظاہرے ہمارے سامنے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی بات منوانا نہیں چاہتا۔ وہ انسانی عقل و فکر کو ماؤف کر کے اور اس طرح اس کا اختیار و ارادہ سلب کر کے اس کا سراپے سامنے جھکانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ نظام کائنات غیر متبدل قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے انسانی زندگی کے لیے بھی کچھ قوانین مقرر ہیں جو رسولؐ نے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں خوشحالیاں اور سرفرازیاں نصیب ہوگی۔ اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو یا ان کے خلاف جانا چاہتے ہو۔“

معراج انسانیت (423-425)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ نظر۔ تصریحات بالا سے دو نکات سامنے آتے ہیں جن پر ہم بحث کریں گے بقول پرویز صاحب

- 1- حضورؐ سے معجزات کا تقاضا کیا گیا اور جواباً اس کا شدت سے انکار ہوتا رہا۔
- 2- انسانی عقل و فکر کو ماؤف کر کے اور اس کی قوت ارادی کو سلب کر کے کوئی بات منوانا جبر و اکراہ

میں شامل ہے اور اس لیے معجزہ کا کوئی جواز نہیں رہتا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ سے معجزات کا تقاضا کیا جاتا تو آپ کا جواب یہی ہوتا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ جواب کہیں بھی نہیں دیا گیا کہ یہ طریقہء کار اللہ کے ہاں کبھی روا نہیں رکھا گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو معجزے دیتا ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دے گا۔ اس لیے تم اس پیغام (قرآن) کو ہی معجزہ سمجھو۔ بلکہ آپ کا جواب کیا ہوتا۔ اس کے لیے ملاحظہ کرتے ہیں چند آیات۔

☆ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ط قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (6/37)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرمادیتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ معجزہ نازل فرمائے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔“

☆ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۗ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ (10/20)

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ سو آپ فرمادیتے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔“

☆ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ط أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ (20/133)

”انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟“

☆ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ۝ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۗ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ (21/5-6)

”پس اسے چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟“

☆ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

نَحِيلِي وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا
 كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَعِ فِي
 السَّمَاءِ طُولًا ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا
 بَشَرًا مَّرْسُولًا ۝ (17/90-93)

”انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے نہیں تا وقتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ
 جاری کر دیں۔ یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ
 بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں۔ یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا
 کریں۔ یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا تو آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو
 آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب
 نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ میں تو
 صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔“

☆ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ
 يُؤْمِنُ بِهٖ ط وَمَا يَحْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ؕ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَلَا
 تَخْطُوْهُ بِيَمِيْنِكَ اِذَا لَا رٰتَابَ الْمُبْتَطَلُوْنَ ؕ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ ؕ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ
 اُوْتُوْا الْعِلْمَ ط وَمَا يَحْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ؕ وَقَالُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَبِّهٖ ط قُلْ
 اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ؕ اَوَلَمْ يَكْفٰهُمُ اَنَا اَنْزَلْنَا عَلٰيكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى
 عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ؕ (29/47-51)

”اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے
 وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار
 صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے
 ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک شبہ میں پڑتے۔ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو
 اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور وہ
 کہتے ہیں کہ اس پر کچھ نشانات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتارے گئے۔ آپ کہہ دیجئے

کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں۔ اور میں صرف واضح طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمادی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان دار ہیں۔“

متذکرہ بالا آیات میں تو معجزہ کا اثبات ہی ملتا ہے انکار نہیں۔ وگرنہ کس قدر آسان تھا کہ نبی کریم کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ذہن کو ماؤف کر کے بات نہیں منواتے۔ اس لیے آپ لوگ معجزہ کا تقاضا مت کریں لیکن ان آیات میں یہی کہا گیا کہ معجزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جیسا کہ سابقہ انبیائے کرام کے معاملہ میں ہوا۔ اور اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر آیت (29/47-51) میں بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ جہاں وَمَا يَحْجِدُ بِإِنشَاءِ إِلَّا الْكٰفِرُونَ ہ اور وَمَا يَحْجِدُ بِإِنشَاءِ إِلَّا الظّٰلِمُونَ ہ سے مراد قرآن کریم کی آیات لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ”آیت“ یعنی ”معجزہ“ آپ پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہاں ”آیت“ کا لفظ ساتھ ساتھ استعمال میں لا کر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ آخری والا لفظ ”آیت“ کسی نشانی، معجزہ اور مافوق الفطرت واقعہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں بھی جواب انکار میں نہیں ہے بلکہ کہا گیا قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط کہ اے نبی! ان سے کہہ دو کہ نشانیاں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اس قدر واضح آیات کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ میں انبیائے کرام نے جو معجزات دکھائے ان کو نہیں مانتا یا ان کی کوئی اور توجیہ کرتا ہوں۔ تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ معجزات کے ذریعے (معاذ اللہ) اللہ اپنی بات زبردستی منوانا چاہتا ہے تو یہ قیاس غلط ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما چکے ہیں کہ ”اگر وہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔“ پھر آپ دیکھیں کہ حضرات انبیائے کرام نے جتنے بھی معجزات دکھائے تو وہ معجزہ دیکھنے والے تمام لوگوں نے قبول نہیں کئے۔ بلکہ کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس لیے معجزہ سے مقصود اگر قوت ارادی سلب کر کے، ذہن کو ماؤف کر کے اور اختیار و ارادہ بے بس کر کے اپنی بات منوانا ہوتا تو پھر تو فرعون بھی ایمان لے آتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معجزہ کا اصل مقصد کیا ہے

☆ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ طَوَاتَيْنَا نُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً
فَطَلَّمُوا بِهَا ط وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوُّفًا ه (17/59)

”اور ہم نے نشانات (معجزات) کے نازل کرنے سے روک صرف اس لیے کی ہے کہ پچھلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو بطور نشان کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور ہم تو صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔“

اس آیت میں بھی معجزہ کا اثبات ہی ہے۔ آخر کوئی چیز Exist کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روک کی۔ پھر وضاحت سے کہہ دیا کہ قوم ثمود کو تو اونٹنی دی تھی۔ وہ کیا تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ اونٹ اور اونٹنی تو تقریباً تمام زمانوں اور قوموں میں موجود رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معجزہ کا مقصد بیان کر دیا کہ تکبر، غرور، سرکشی اور یہاں تک کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے جب وعظ و نصیحت نے کام نہ کیا تو پھر ان کو نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ وہ ڈر کر ہی اس بات پر ایمان لے آئیں کہ خدا صرف ایک ہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔

اب آتے ہیں اس نکتہ کی طرف کہ آیا حضور کو کوئی معجزہ عطا کیا گیا یا نہیں۔ اس سلسلہ میں ہم جائزہ لیں گے پرویز صاحب کے تصور کا ان دو مقامات کے بارے میں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا یعنی ”واقعہ معراج“ اور ”شق القمر“۔

ویسے ”معراج“ کے نام سے قرآن کریم نے کسی واقعہ کو موسوم نہیں کیا بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ہی ہمارے علماء نے اس کو ”معراج“ کے نام سے موسوم کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں پرویز صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔

☆ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ه (17/1)

”پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہا! کیا بات ہے ان کی تدبیروں کی! آپ کی ذات کے خلاف کفار نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ انتہائی تدبیر یہ تھی کہ کس طرح سارے قبائل کا ایک ایک نمائندہ مل کر آپ کو راتوں رات قتل کر دیا جائے۔ تاکہ روز روز کا ٹٹنا ہی ختم ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اس نے مستقل طور پر زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ اس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا ”گھبراؤ نہیں۔ یہ دیکھو کہ وہ ان کی گرفت سے کتنا اونچا ہے، جس نے یہاں ان کے لیے تدبیر کی اور وہ راتوں رات ان کو یہاں سے نکال کر مدینے کی طرف لے گیا۔“

(مطالب الفرقان فی دروس القرآن - صفحہ 23 سورہ بنی اسرائیل)۔

”یہ عجیب چیز ہے اور ہاں! عجیب بات ہے کہ میں نے تو اب مفہوم القرآن میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، جب یہ چیز دیکھی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے تو یہ حضور کی شب جہرت کے واقعہ کا بیان ہے اور اس سے مراد ”مدینہ“ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے انسان ہمہ توکل تو کسی وقت نہیں ہو سکتا۔ میرے سامنے یہ تاریخ نہیں تھی۔ جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو قرآن کریم میں، صرف قرآن میں، غور و تدبر کے بعد، ایک نتیجہ نکالا تھا کہ یہ شب جہرت کا بیان ہے وہ میں نے لکھ دیا تھا۔

لیکن مدینہ کے نام کے سلسلہ میں بڑی تلاش میں رہا کہ شاید کہیں سے میرے تدبر قرآن کو تصویب مل جائے اس کے بہت عرصہ بعد میں نے مصر سے ایک قرآن کریم منگوایا۔ اس میں اس کے حاشیے پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ”مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ البیڑ ہے“ پوچھیے نہیں اس دن مجھے اس بات سے کس قدر خوشی ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ایک بات جو میں نے محض اپنی فکری بنیاد پر لکھی تھی، اس کی ایک تائید ملی۔ پھر مجھے اس کی تلاش ہوئی کہ یہ انہوں نے کیسے لکھا۔ آپ حیران ہونگے کہ اس کے بعد مجھے یہ تاریخیں مل گئیں اور ان تاریخوں میں ایک چیز یہ مل گئی کہ مدینہ کا نام ”مسجد اقصیٰ“ تھا اور خود وہ خچر جس پر سوار ہو کے حضور نے یہ سفر مکے سے مدینے تک کیا تھا اس خچر کا نام ”اسری“ رکھ دیا گیا تھا۔ حضور نے اس خچر پر کئی سفر کئے ہیں اور ہماری تاریخ میں اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ اس کا نام یہ کیسے پڑ گیا۔ اب آ کے یہ عقده کھلا کہ یہ وہی خچر تھا جس پر حضور نے یہ سفر جہرت کیا تھا۔ وہ ”مسجد اقصیٰ“ تو

وہاں پہلے سے موجود تھی۔ یہ تو مدینے کا نام مسجد اقصیٰ تھا جیسے مسجد الحرام سے صرف کعبہ ہی مراد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس سے پورا مکہ مراد ہوتا ہے خود قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد الحرام سے نکال دیا اور جب وہ مدینے میں آئے تو اس سے مراد کعبہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ کعبہ میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا انداز بیان ہے مدینے کا نام ”مسجد اقصیٰ“ تھا اور مسجد تو اب ہمارے ہاں چار دیواری کے اندر گھری ہوئی رہتی ہے۔ ورنہ مسجد تو حضور کے ارشاد کے مطابق ”مکمل روئے زمین کا تخت، مسلمان کی مسجد ہے“۔ یہ جہاں بھی کھڑا ہو کے اپنے خدا کی اطاعت کرے گا، وہی جگہ مسجد کہلائے گی۔ یہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے عزیزان من۔ یہ الگ بات ہے کہ اجتماع کے لیے عمارت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن معنوی اعتبار سے مسجد صرف اس عمارت کو ہی نہیں کہتے بلکہ جس مقام پر بھی خدا کے قوانین کی بات اونچی ہوگی، غالب آئے گی، اس کے لیے وہ سرزمین مسجد تصور ہوگی۔

(مطالب الفرقان فی دروس القرآن، سورۃ بنی اسرائیل۔ صفحہ 44-45)

پرویز صاحب کی ان تشریحات کے بعد اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مفہوم کریں گے؟ جس میں ”اسری“ خچر ہو، مسجد حرام سے مراد پورا ”مکہ“ ہو اور مسجد اقصیٰ سے مراد ”مدینہ“ ہو؟

پرویز صاحب کے نزدیک یہ ہجرت کا واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر عقلی ضابطوں پر پورا نہیں اترتا۔ اس لیے پرویز صاحب کو اس آیت کی ایسی تشریح کرنا پڑی۔

ان تشریحات پر تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآنی آیت اپنی جگہ واضح ہے۔ اور یہ ایک رات یا رات کے کچھ حصے کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ جس میں اللہ نے اپنے بندے، یعنی محمدؐ کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔

قرآن کریم نے اس واقعہ کی مزید تفصیلات بیان نہیں کیں۔ بات صرف اتنی ہی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسی پر ہی اکتفا کیا جاتا۔ مگر اس میں قصے کہانیاں اور افسانہ طریاں اس انداز سے کی گئی ہیں کہ بات کچھ کی کچھ ہو کر رہ گئی ہے اور مفسرین کرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی

کریمؐ کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا۔ پھر آسمانوں کی سیر و دیگر۔ حالانکہ قرآن کریم نے ایسی کوئی تفصیلات بیان نہیں کیں، اور پرویز صاحب کی ان قصہ کہانیوں پر تنقید بجائے۔ (تفصیل کے لیے مطالب الفرقان فی دروس القرآن۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم وید یو درس، پہلی دو کیسٹس ملاحظہ فرمائیں۔)

یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریمؐ کے درمیان ہوا۔ اس کو بطور معجزہ اس وقت کے انسانوں کے سامنے نہیں دکھایا گیا۔ لوگوں کو صرف اس کی اطلاع دی گئی اس پر امانا و صدقاً ہی کہنا چاہیے تھا۔ مگر کتب روایات و تفاسیر میں ایسی باتیں شامل کی گئیں جو نہ تو عقلی طور پر میل کھاتیں اور نہ ان کو قرآنی دلائل کی سہولت میں سر تھی۔

یہ تھا واقعہ معراج، اب دیکھتے ہیں شق القمر کا واقعہ۔

☆ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ لَا حِكْمَةَ ۚ بِاللَّغَةِ فَمَا تُغْنِ النُّذُرَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ أَيُّومَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ۚ خَشَعُوا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۚ لَا مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ط يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (54/1-8)

قیامت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ زور دار چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت مقرر پر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے۔ لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبیؐ تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہونگے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔“

اب دیکھتے ہیں پرویز صاحب نے اس کا کیا مفہوم کیا ہے۔

1۔ وہ انقلاب کی گھڑی (جس کے متعلق ان سے اتنی مدت سے کہا جا رہا تھا) بالکل قریب آ پہنچی ہے اب ان مخالفین عرب کی قوت و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اور ان کا پرچم (جس پر قمر کا نشان ہے) ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

2۔ اس آنے والے انقلاب کی کئی ایک علامات ان کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن ان کی سرکشی اور مدد ہوشی کا یہ عالم ہے کہ یہ ان پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے۔ بلکہ اٹے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب وہی جھوٹے افسانے ہیں جنہیں ہم ایک عرصہ سے سنتے چلے آئے ہیں۔

3۔ یہ اس انقلاب سے متعلق ہر بات کو جھٹلاتے ہیں اور بدستور اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ (اور جب ان سے ذرا زور سے کہئے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس تباہی کے متعلق یوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسے لے کر کیوں نہیں آتے۔ انہیں معلوم نہیں کہ) اعمال کے نتائج اپنے وقت پر محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں۔

یہ تھا پرویز صاحب کا مفہوم۔ ظاہر ہے اس میں گرامر کے قواعد و ضوابط، تراجم کے اسلوب، لسان العرب، سیاق و سباق و دیگر کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ بلکہ یہ ان سب سے وراء پرویز صاحب کے ذہن کی اختراع ہے۔ جس میں چاند کے پھٹنے کو پرچم کے پھٹنے پر محمول کیا گیا۔ حالانکہ دوسری آیت پہلی آیت کو مزید واضح کر رہی ہے کہ ”اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ زور دار چلتا ہوا جادو ہے۔“ پرچم کا پھٹنا تو جادو نہ تھا۔ جبکہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا جادو ہی ہو سکتا ہے۔ (ان لوگوں کی نظر میں)۔ جبکہ وہ تو معجزہ خداوندی تھا۔



قانون

علامہ غلام احمد پرویز کے لٹریچر میں اور ان کی تقاریر میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ملے گی وہ ہے لفظ ”قانون“ یا ”قانون مکافات عمل“۔ اس کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ انسانی دنیا میں کوئی بھی کام اور حرکت قانون کی کارفرمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں پر عمل اور حرکت کے پس منظر میں علت اور معلول (Cause & Effect) کا فرما ہے۔ اور اس عمل میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ یعنی انسانی دنیا کے معاملات میں خدا تعالیٰ بھی قانون کا پابند ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے ایسے تمام مقامات جہاں مافوق الفطرت واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ پرویز صاحب نے ان کی توجیہ ایسے انداز میں کی ہے کہ ان کو قانون کا پابند کر دیا ہے۔ اس کے لیے انہیں تحریف / ایجاد لغت کے غیر معمولی استعمال، سائنسی شواہد اور الفاظ کے بیان کا سہارا لینا پڑا۔ اور اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ ان کا پیش کردہ مفہوم عربی گرامر اور سیاق و سباق پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے ”قانون“ کے لیے کسی واضح لفظ کا استعمال نہیں کیا لیکن پرویز صاحب نے اسے کیسے اخذ کیا۔ آئیے انہی کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔

”اس سلسلہ میں ایک لفظ کا ذکر خصوصیت سے کرنا ضروری ہے جو آپ کو زیر نظر لغت میں بکثرت ملے گا۔ وہ لفظ ہے ”قانون“۔ ہمارے ہاں قانون سے عام طور پر مفہوم وہ (Laws) لئے جاتے ہیں جن کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ قانون کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ قانون سے مراد ایسے محکم اصول ہیں جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مثلاً ”قانون فطرت“ سے مراد ہیں وہ لگے بندھے اصول و ضوابط جن کے مطابق خارجی کائنات کا محور العقول سلسلہ اس نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ ”قوانین خداوندی“ سے مراد ہیں انسانی زندگی سے متعلق وہ اصول و ضوابط جو قرآن کریم کی دین میں محفوظ ہیں۔ و قس علی ذلک۔ لہذا اس لغت میں جہاں یہ لفظ (قانون) آئے سیاق و سباق کے مطابق اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہئے۔“

(لغات القرآن - 28)

یہ تو تھا قانون کا ایک تعارف۔ لیکن یہ لفظ آیا کہاں سے اس کے بارے میں لغات

القرآن میں امر (امر) کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”قرآن کریم میں خَلْقُ کے مقابلہ میں اَمْرٌ کا لفظ آیا ہے (7/54)۔ اور اس کا ایک خاص مفہوم ہے جس کے سمجھنے کے لیے اس لفظ کے بنیادی معانی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی علامت۔ اشارہ۔ راہ نمائی نیز ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نشوونما کے بھی ہیں۔ اور (جیسا کہ عنوان خ۔ل۔ق میں لکھا گیا ہے) خَلْقُ کے معنی ہیں مختلف عناصر میں نئی نئی تراکیب سے نئی چیزوں کو پیدا کرنا۔ خَلَسْتُ پیدائش کا یہ وہ مرحلہ ہے جب اشیاء بالعموم اپنی محسوس شکل میں ہمارے سامنے آجاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اشیاء کے اس طرح وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جب یہ ہنوز تدبیری حالت (In the Process of Becoming) میں ہوتی ہیں۔ ”یہ تدبیری مرحلہ“ عالم امر سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ کائنات میں ایک تو اشیائے کائنات ہیں (مثلاً سورج۔ چاند۔ ستارے۔ زمین۔ درخت وغیرہ) اور دوسرے وہ قانون ہے جس کے مطابق یہ تمام اشیائے کائنات ایک نظم و ضبط کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ اس قانون کو بھی اَمْرٌ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے ضمن میں عنوان ش۔ی۔ا کے ماتحت ملے گا)۔

اشیا کی ”تدبیری حالت“ کے متعلق قرآن کریم میں ہے إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (2/117) ”جب وہ ایک تدبیر (امر) کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس امر سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“ یہ امر کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح متشکل ہوتا ہے اسکے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ ہمارا عالم محسوسات کی دنیا تک محدود ہے اور یہ امور عالم محسوسات سے آگے کی باتیں ہیں۔ مشہور مفکر Pringle Attison کہتا ہے کہ یہ انگریزی زبان کی کوتاہ دامنی ہے جس میں تخلیق کے لیے صرف ایک لفظ (Creation) ہے۔ حالانکہ محسوس کائنات کی تخلیق اور غیر مرئی وغیر محسوس کی تخلیق میں جو ہم فرق ہے اس کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ دو الگ الگ الفاظ ہوتے۔ قرآن نے اس کے لیے خلق اور امر الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔

امر کا دوسرا حصہ، جس سے مفہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کائنات کے رگ و پے میں کار فرما ہے۔ ہمارے سامنے ہے اور اس کے متعلق ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی صرف

اس حد تک کہ فلاں چیز کس قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ وہ قانون ایسا کیوں ہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن پانی کو کیوں ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اَمْرٌ (یعنی قانون کائنات) کی شہادتوں سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (7/54) سورج، چاند، ستارے، خدا کے امر (قانون) کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وَالْفُلُكُ تَحْرِيٌّ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ (22/65) کشتی سمندر میں اس کے امر (قانون) کے مطابق چلتی ہے۔ آیت (24/12) میں اِذْذُ اور اَمْرٌ مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ (اذن کے معنی بھی قانون خداوندی ہیں۔ دیکھئے عنوان 'اذن')

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح طبیعی کائنات (Physical world) میں تمام اشیاء ایک خاص قانون کے تحت سرگرم عمل رہتی ہیں اور ہر نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی تمدنی دنیا میں بھی (اتوا م کا) عروج و زوال اور زندگی اور ہلاکت ایک خاص قانون کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ یہ مکافات عمل کا قانون ہے اور اسے بھی اَمْرٌ کہا گیا ہے۔

لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَّيْهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَّا هَبْنَةً وَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنَّا هَبْنَةً (8/42) (یہ سب اسلئے ہے کہ) خدا کا امر پورا ہو کر رہے۔ یعنی جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی رو سے ہلاک ہوا اور جسے زندہ رہنا ہے، وہ بھی دلیل و برہان کے مطابق زندہ رہے۔ یہ اَمْرٌ (قانون مکافات عمل) وہ ہے جس کی نتیجہ خیزی میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ رسول بھی نہیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (3/127) اے رسول تجھے اس قانون میں کوئی دخل نہیں۔ یہ امر (قانون) جس کا تعلق انسانی اعمال سے ہے وحی کے ذریعے (رسولوں) کو ملتا ہے اور ان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو۔ وَأَتَيْنَهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ (45/17) ”اور ہم نے انہیں امر کی واضح باتیں دیں۔“ يَا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ (65/5) ”یہ خدا کا امر (قانون) ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔“ لہذا خدا کے امر کے تین گوشے ہیں۔ ایک وہ جہاں ہر قانون متعین ہوتا ہے اور ہر تدبیر بنائی جاتی ہے۔ اس گوشے کی حقیقت و کیفیت کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں

خدا کا امر، قانون کائنات کی شکل میں کارفرما ہے۔ یہ قانون ہر شے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا علم تجربہ، عقل، بصیرت اور مشاہدات کی رو سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور تیسرا گوشہ وہ ہے جہاں خدا کا قانون انسانوں کی دنیا سے متعلق ہے۔ یہ قانون وحی کی رو سے رسولوں کو ملتا ہے اور رسولوں کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو۔ یہ قانون قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ جس کے مطابق قوموں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ہر انسان زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ گوشہ اول میں خدا اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق جس طرح کا قانون چاہتا ہے مرتب کرتا ہے۔ گوشہ دوم میں خدا اپنی اسکیم کو اپنے مرتب فرمودہ قوانین کے مطابق چلاتا ہے۔ اور اشیائے کائنات اس قانون کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ گوشہ سوم میں خدا کا قانون وحی کے ذریعے ملتا ہے لیکن انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کی اطاعت کریں اور جی چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لیں۔ جس قسم کی روش انسان اختیار کرے گا۔ اسی کے مطابق نتائج اس کے سامنے آجائیں گے۔ خدا کا امر (قانون) خارجی کائنات سے متعلق ہو یا انسانی زندگی سے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔“ (لغات القرآن 257-259)

پرویز صاحب نے اس کتاب کا نام ”لغات القرآن“ رکھا ہے حالانکہ اس کتاب کے انداز بیان کی رو سے یہ نام غیر مناسب ہے۔ لغت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے معانی۔ اور لغات القرآن کا مطلب ہے قرآن کریم میں موجود الفاظ کے معانی۔ لیکن اس کتاب کے طرز تحریر میں پرویز صاحب کے ذاتی تصورات و خیالات کا غلبہ ہے۔ اب پرویز صاحب نے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ لغت کے لحاظ سے امر کا معنی قانون ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس لفظ کو ان معنوں میں ہی استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک عالم امر کا تعلق ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ تین گوشے جو پرویز صاحب نے بیان کئے ہیں۔ پرویز صاحب نے یہ ساری تمہید صرف اپنے ذاتی مفہوم کو ٹھونسنے کے لیے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز صاحب کا یہ عمومی انداز ہے کہ وہ آیات میں سے دو تین الفاظ لے کر اس کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ پوری آیت سامنے لائی جائے تو بات کچھ اور بنتی ہے۔ اب اوپر پرویز صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے ’لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (3/127) اے رسول تجھے اس

قانون میں کوئی دخل نہیں۔“ پوری آیت اور اس سے پچھلی آیت سامنے لائیں تو بات یوں بنتی ہے۔
 ☆ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ه لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ه (3/127-128)

” (تاکہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے۔ کیونکہ وہ ظالم ہیں۔“

اب اس ٹکڑے میں امر کا مطلب قانون نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ واضح کر دیا گیا کہ پیغمبر کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہ چاہے تو انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اور اس آخری ٹکڑے نے یہ بات مزید واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس کے بعد پرویز صاحب ایک اور ٹکڑا پیش کرتے ہیں۔ ”ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ (65/5) یہ خدا کا امر (قانون) ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔“ اس آیت اور اس سے پچھلی آیت کو بھی ہم سامنے لاتے ہیں۔

☆ وَاللَّيْئُ يَعْصِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نَّسَا إِلَيْكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئُ لَمْ يَحِضْنَ ط وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَحْلَاهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ه ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مِّنْ أَعْرَافِهِ (65/4-5)

”تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔“

پرویز صاحب نے ایک چیز کو بالکل فراموش کر دیا ہے کہ قانون اور حکم دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں۔ فطری قوانین کی خلاف ورزی پر سزا فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ جیسے آگ میں

ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جھلس جاتا ہے۔ یا پانی میں ڈوبنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے۔ جیسے قتل کے کیس میں یا ڈکیتی کے کیس میں سزا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قانون۔ مگر جہاں تک اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تو ان میں ترغیب کا پہلو سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں فوری سزا لگاؤ نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک شخص کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے مگر ایک مقام پر آکر وہ توبہ کر لیتا ہے اور صالح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ سابقہ اقوام کے سلسلہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کا کام آخر وقت تک اس جدوجہد میں ہی رہنا ہے کہ اس کی قوم بد اعمالیوں کو چھوڑ کر اچھے عمل شروع کر دے۔ اور اس کے لیے بعض اوقات ڈرانے کے لیے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا۔ چونکہ انسان اختیار و ارادہ سے عبارت ہے اس لیے اسے قوانین کی جکڑ بندیوں میں قید رکھنا ناممکن ہے۔ لہذا اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کا فرق محل نظر رہنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ”امر“ کا لفظ قرآن میں ہر جگہ ”قانون“ کے معنی ہی میں استعمال ہوا ہو۔ بلکہ بہت سارے مقامات پر اس کا استعمال حکم، معاملہ، کام اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جن کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پرویز صاحب کے ”عالم خلق“ اور ”عالم امر“ سے متعلق تصور پر۔

عالم خلق۔ عالم امر۔ خدا اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کائنات ظہور میں آئی تھی اور اس وقت بھی خدا رہے گا جب یہ سلسلہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا ”خدا کی دنیا“ اس کی تخلیق کردہ کائنات ہی نہیں۔ اس سے ماورا اور بھی ہے۔ قرآن کریم نے اسی جہت سے ”خدا کی دودنیاؤں“ کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہے عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کائنات سے ماورا ہے۔ اور دوسرا ہے عالم خلق، جو خدا کی پیدا کردہ کائنات پر مشتمل ہے۔ **اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ** (7/54) آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا، عالم امر سے نہیں۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی معلول (Effect) بغیر علت (Cause) کے وجود میں آسکتا ہے۔ اور نہ کوئی شے کسی پہلے سے موجود مسالہ (Material) کے بغیر وجود پذیر ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ عالم امر سے نہیں۔ خدا اس کائنات کو عدم سے

وجود میں لایا۔ یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ایسی کائنات ظہور میں آئی چاہیے اور پھر اس کا یہ عمل، جس سے اس نے اسے پیدا کر دیا۔ قانون علت و معلول اور (دنیا میں) نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جس میں کوئی قانون نہیں بلکہ خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہی ”خدا کی وہ دنیا ہے“ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ** (22/14) وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے **إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ** (11/107) یقیناً تیرا رب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** (5/1) وہ اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کا چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ** (22/18) وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ **لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ** (21/23) اس سے یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور سب سے پوچھا جاسکتا ہے۔ (کتاب التقدير 35-36)

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم امر میں ہر فیصلہ یا ہر کام، خدا کے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سرانجام پاتا ہے۔ وہاں کوئی لگا بندھا قانون نہیں جس کے مطابق ہر فیصلہ صادر ہو۔ لیکن عالم خلق میں خدا کا امر قاعدے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے۔ **وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا** (33/38) خدا کا امر بیانیوں کے قالب میں ڈھل گیا۔ وہ مقررہ اندازوں کا پابند ہو گیا۔ اور اس طرح **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (65/3) خدا نے ہر شے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔
پھر آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”بادنیٰ تدبر یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ جس چیز کو قرآن نے قدر کہہ کر پکارا ہے۔ اسے ہماری اصطلاح میں قانون فطرت (Law of Nature) کہا جاتا ہے۔ لہذا، **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (65/3) کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اشیائے کائنات کے لیے قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق وہ وجود میں آتی، بڑھتی، پھلتی، پھلتیں اور اس کے بعد معدوم ہو جاتیں۔ (یا کوئی دوسری ہیئت اختیار کر لیتی ہیں۔) (کتاب التقدير 39-40)

4۔ اجمالی طور پر تمام اشیائے کائنات کے متعلق کہا کہ **فَقَدْرَةٌ تَقْدِيرًا** (25/2) اس نے ہر شے کو

پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ اور پیمانہ مقرر کر دیا۔ بلکہ ہر شے کو پیدا ہی ایک خاص پیمانے کے مطابق کیا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (54/49) سورۃ الاعلیٰ کی وہ دو آیتیں بڑی غور طلب ہیں جن میں کہا کہ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْهِ لَا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدْيُهُ لَا (3-87/2) خدا نے ہر شے کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پھر اس میں سے حشو وزوائد کو الگ کر کے۔ اس کا تناسب قائم کیا۔ پھر اس کے لیے ضروری پیمانے مقرر کئے اور اس کے اندر اس امر کی راہ نمائی رکھ دی کہ وہ ان پیمانوں کے مطابق اپنی نشوونما کس طرح کر لے۔

5۔ اب آپ اس گوشے کی طرف آئیے جس میں اس لفظ (قدر) کا مفہوم، عصر حاضر کی اصطلاح میں (قانون فطرت) کے مطابق زیادہ وضاحت سے سامنے آجاتا ہے۔ ہمارے ہاں (اب) ابتدائی جماعتوں کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ دن اور رات، ایک دوسرے کے بعد کس طرح آتے ہیں۔ یہ زمین کی گردش کا نتیجہ ہیں اور اس کی گردش ایک لگے بندھے قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دن اور رات (طلوع اور غروب آفتاب) کے اوقات اس حتم و یقین کے ساتھ متعین کر لیے جاتے ہیں کہ ان میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ اس کے متعلق کہا کہ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (73/20) اللہ نے دن اور رات کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ اسی طرح چاند کے متعلق کہا وَ قَدْرَهُ مَنَازِلَ (10/5) خدا نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔

اس کے بعد دیکھئے کہ لفظ تقدیر کے معنی کس قدر واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں کہا کہ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ سورج (نظام شمسی) بھی اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (41/12) (یہ خدا کے مقرر کردہ پیمانے، قوانین ہیں) ان تصریحات سے واضح ہے کہ تقدیر کے معنی قانون فطرت کے ہیں نہ کہ ”انسان کی قسمت“ کے۔ (کتاب التقدير 41)

متذکرہ بالا تصریحات میں پرویز صاحب کا کہنا یہ ہے خدا کی دو دنیاں ہیں ایک عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کائنات سے ماورا ہے اور دوسرا ہے عالم خلق۔ جو خدا کی پیدا کردہ کائنات پر مشتمل ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (7/54) جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں

ایسی کسی تقسیم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پرویز صاحب نے قرآنی آیت کا صرف ایک ٹکڑا اس کے ثبوت میں پیش کر دیا ہے۔ آئیے ہم ذرا اس پوری آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔

☆ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (7/54)

”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی آ لیتی ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں یا درکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔“

اس آیت میں ”خلق“ اور ”امر“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے ”خلق“ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور پھر ”امر“ یہ کہ سورج، چاند، ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں اور پھر کہا اَللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ یا درکھو اللہ کے لیے ہی خاص ہے خالق اور حاکم ہونا۔ یعنی ان دونوں صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں زمین و آسمان کو نہ تو کسی اور خالق نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی سورج، چاند، ستارے کسی اور خالق کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔

اس آیت میں یہ کہیں واضح نہیں کہ کوئی ایسی دو دنیا میں ہیں۔ ”عالم امر“ اور ”عالم خلق“ اور دوسری بات یہ کہ بقول پرویز صاحب ایسی کائنات جس میں کوئی قانون، علت و معلول موجود نہیں بلکہ خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے وہ ”عالم امر“ ہے۔ جس کے ثبوت کے طور پر پرویز صاحب نے کچھ آیات کے ٹکڑے پیش کیے ہیں۔ (21/23, 22/18, 5/1, 11/107, 22/14)

آئیے ہم ان آیات کو پورا درج کرتے ہیں۔

☆ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ (22/14)

”بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔“

☆ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۚ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ (11/106-107)

”پس جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہونگے وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان وزمین برقرار ہیں۔ سوائے اس وقت کے جو اللہ کا چاہا ہو ہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔“

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ط إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (5/1)

”اے ایمان والو! عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے موبیشی، چوپائے حلال کئے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بنا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔“

☆ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ (22/18)

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

☆ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝ (21/21-23)

”ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر آسمان و

زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ پس اللہ ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے جوابدہ نہیں۔ اور سب اس کے آگے جوابدہ ہیں۔“

ان آیات پر غور کرنے سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان تمام آیات کا تعلق تو انسانی دنیا سے ہے اور انسانوں کے بارے میں ہی تو اعداد بیان کئے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ بغیر علت و معلول کے خدا کا ارادہ عالم امر میں قائم ہوتا ہے جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں غلط ہے۔ اس لئے پرویز صاحب کو چاہئے تھا کہ پوری آیات درج کرتے تاکہ بات واضح ہو جاتی۔ نہ کہ صرف آیات کے ٹکڑے لے کر اپنا مفہوم بیان کرتے۔ اس لیے عالم امر کے وجود کے اثبات میں یہ آیات بطور دلیل پیش نہیں کی جاسکتیں۔

اس کے بعد پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ ”عالم خلق میں خدا کا امر قاعدے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا (33/38) خدا کا امر پیمانوں کے قالب میں ڈھل گیا۔“

”عالم خلق“ کے متعلق جو دو آیات کے آخری ٹکڑے پرویز صاحب نے پیش کئے ہیں۔ ان کو بھی ہم پورا درج کرتے ہیں۔

☆ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا ه (33/38)

”جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے حلال کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کئے ہوتے ہیں۔“

☆ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ؕ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ه فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ط ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَمَنْ

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَلَا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ طَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِلِ شَيْءً قَدْرًا ه (3-65/1)

”اے نبی! (اپنی امت سے کہہ دو) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی ہوئی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنا ہی برا کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ اور اللہ کی رضا مندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا۔ اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔“

یہ تھی پوری آیت اور اس آیت کا آخری ٹکڑا جس سے پرویز صاحب نے ”عالم خلق“ میں قانون کی عملداری کی بات کی۔ متذکرہ بالا آیات میں صاف نظر آ رہا ہے کہ عائلی قوانین کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سارے کاموں کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس آخری ٹکڑے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ ”عالم خلق“ ہے اور یہاں سارے کام فطری قوانین کے مطابق وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اور ان قوانین میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پابند ہوگئی ہے اور وہ بھی اس میں دخل نہیں دے سکتی۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”عالم امر“ اور ”عالم خلق“ کی تقسیم غیر قرآنی ہے۔ اور دنیا میں اور انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ کو قانون کا پابند بنانا بھی غیر قرآنی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نارمل حالات میں دنیا کا نظم و نسق فطری قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بیان کردہ

معجزات اور فطری قوانین میں مطابقت نہیں ہے۔ عام دستور کے مطابق تو بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو فرعون قتل کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کھول کر دیکھئے کہ موسیٰ کے لیے کیوں ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے کہ فرعون ان کو قتل نہ کر سکا۔ یا عام حالات میں آگ تو ہر حال میں جلاتی ہے۔ مگر ابراہیمؑ کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتی۔ قرآن کریم ایسے واقعات سے بھر پڑا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حضرت زکریاؑ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے مگر دعا کرنے سے ان کو اولاد عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اس دنیا میں فطری قوانین کا پابند ہے۔ وہ قادر مطلق ہے با اختیار و بارادہ ہے۔ اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ وہ جوابدہ نہیں ہے۔ اس لیے بندگی اور خدائی کا فرق ملحوظ خاطر رہنا چاہئے۔

اس کے بعد پرویز صاحب نے قانون کے لیے کَلِمَةُ اللَّهِ اور سُنَّةُ اللَّهِ کے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں۔ آئیے ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔

کَلِمَةُ اللَّهِ اور سُنَّةُ اللَّهِ۔ قانون خداوندی کے لئے قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں۔ ایک کَلِمَةُ اللَّهِ اور دوسرے سُنَّةُ اللَّهِ۔ قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آجاتا ہے کہ کلمہ قانون کی نظری حیثیت ہے۔ جسے فارمولا کہا جاسکتا ہے۔ اور سنت اللہ اس فارمولا کی عملی شکل۔ یعنی جب وہ نظری قانون، عملی پیکر اختیار کرے تو اسے سنت اللہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ یعنی وہ روش جس پر خدا چل رہا ہے۔ یا جس پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ دونوں غیر متبدل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (6/34) کلمات اللہ (قوانین خداوندی) کو کوئی بدل نہیں سکتا (16/115)، (18/27) دوسری جگہ ہے لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (10/64) کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کے سلسلہ میں سورہ احزاب میں ہے۔ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (33/62) خدا کی یہی سنت (روش) اقوام سابقہ کے سلسلہ میں بھی رہی ہے (اور یہی قوم مخاطب کی صورت میں بھی رہے گی) تو سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ (40/85)، (48/23) دوسرے مقامات پر تبدیلی کی جگہ تحویل کا لفظ آیا ہے۔

یعنی روش خداوندی اپنا رخ تک نہیں بدلتی۔ (17/77), (35/43)

(کتاب التقدير - 44)

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اسے سمٹا کر بیان کیا جائے تو حسب ذیل نتائج سامنے آئیں گے۔

1- **إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ خدا نے ہر شے کے لئے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور انہی

قوانین کی رو سے وہ ان پر پورا پورا کنٹرول رکھتا ہے۔

2- اشیائے کائنات ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہیں۔

3- یہ قوانین ”قَدَرٍ مَّعْلُومٍ“ ہیں۔ یعنی ان کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انسان میں اس کی

صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کر سکے۔ (جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے) قصہ آدم

میں جو کہا گیا ہے کہ **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (2/31) ”ہم نے آدم کو تمام ”اسما“ کا علم دے

دیا۔ تو اس سے مراد علم اشیائے کائنات۔ یعنی قوانین فطرت اور اشیائے کائنات کی خصوصیات و

تاثیرات کا علم ہے۔ جب انسان، ان قوانین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو فطرت کی قوتیں اس کے

کنٹرول میں آجاتی ہیں۔ قصہ آدم میں اسے ”ملائکہ کے سجدہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (2/34)

قرآن کریم نے ان تمام تصریحات کو چند جامع الفاظ میں سمٹا دیا ہے۔ جہاں کہا ہے

کہ **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ** (45/13) خدا نے تمام

اشیائے کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے تاکہ تم ان سے فائدے حاصل کر سکو۔ انہیں

اپنے کام میں لاسکو۔ **إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ** (45/13) جو قوم بھی اس حقیقت پر

غور و فکر کرے گی وہ اس میں، (کائنات میں انسان کا مقام متعین کرنے کے لئے) بڑی واضح

نشانیوں پائے گی۔

ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کے تخلیقی پروگرام کی اس نئی منزل میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا

ہے اور وہ یہ کہ خدا کا امر (جو کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں تھا) ”امر مقدور“ ہو گیا۔ یعنی وہ

مطلق اختیار کے بجائے قانون ہو گیا۔ اور قانون بھی ایسا جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ

دیگر، اس مرحلہ میں خدا نے اپنے اوپر آپ پابندیاں عائد کر لیں۔ خدا کے لئے ”پابندی“ کے تصور

سے احساس پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس نے خود ہی ایسا کیا اور کہا ہے تو ہمارے لئے

ایسا تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ”باک“ کے کیا معنی؟ جب یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ (کہ تو انہیں خداوندی غیر متبدل ہیں) تو اسے تسلیم کرنا ہی صداقت شعاری ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔ كَتَبَ عَلَيٰ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ (6/54) اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں كَتَبَ كَالْفِظَانِ مَقَامَاتٍ پَرَايَاہے جہاں کسی بات کو کسی پر فرض (یعنی لازم) قرار دیا گیا ہو۔ جیسے كَتَبَ عَلَيٰكُمْ الصِّيَامَ (2/183) تم پر روزے فرض قرار دیئے گئے ہیں۔ یعنی یہ فریضہ خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد کیا گیا ہے۔ لہذا كَتَبَ عَلَيٰ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے اپنے آپ پر خود یہ پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (10/103) مومنین کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھنا، خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ یہاں حَقًّا عَلَيْنَا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ دوسری جگہ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (30/47) مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي ۝ (58/21) خدا نے یہ لکھ رکھا ہے۔ (فیصلہ کر رکھا ہے) کہ ہم اور ہمارے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ (الحج 22/16)

خدا کی یہ رحمت، مومنین کی نجات، فتح و نصرت، غلبہ و تمکین، (جنہیں خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے۔) کن شرائط سے مشروط ہے۔ اس کی وضاحت کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے خود اپنے اوپر بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں کو، خدا کا وعدہ، بھی کہا گیا ہے۔ وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا (16/38) یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جس کا ایفا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ (نیز 9/31، 5/35، 40/77، 40/77، 40/77) ان ”وعدوں“ کے متعلق اس نے بالتصریح کہہ دیا کہ ان کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ (30/6) یہ خدا کا وعدہ ہے اور یاد رکھو کہ خدا اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ (نیز 3/193)

خدا کے وعدے۔ خدا کے یہ ”وعدے“ درحقیقت اس کے مقرر کردہ قوانین ہیں اور انکی خلاف ورزی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مراد اس ”پابندی“

سے جو خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے۔ (کتاب التقدير 48-46)

تصریحات بالا سے ”تقدیر کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ لفظ ”تقدیر“ کے صحیح مفہوم کے متعلق جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سامنے لائیے۔ سورۃ انعام میں ہے۔ وَجَعَلَ الْيَلَّ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ه (6/96) خدا نے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو (وقت کے) حساب و شمار کا ذریعہ بنایا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی ”تقدیر“ ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے۔ کہ ”یہ خدا کا مقرر کردہ قانون ہے“۔ اسی طرح سورۃ یسین میں ہے۔ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ه (36/38) اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر ہے۔ تیسری جگہ ہے۔ وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ط وَحِفْظًا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ه (41/12) اور ہم نے تمہاری قریبی فضا میں جگمگاتے چراغ (ستارے) روشن کر دیئے اور انہیں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر ہے۔ اجمالاً سورۃ فرقان میں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ه (25/2) اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر ان کے لئے ”تقدیر“ مقرر کر دی۔ یہاں بھی ”تقدیر“ سے مراد خدا کے مقرر کردہ قوانین ہیں۔ سورۃ الدھر میں جنت کے آنجوروں کے متعلق ہے۔ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَلْدَرُوهَا تَقْدِيرًا ه (76/16) یہ آنجورے چمکدار چاندی کے ہوں گے۔ اور انہیں خاص پیمانوں کے مطابق بنایا گیا ہوگا۔

قرآن کریم میں انہی مقامات پر تقدیر کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کے معنی بالکل واضح ہیں۔ یعنی خدا کے مقرر کردہ پیمانے، یا قوانین خداوندی، جن کے مطابق یہ کارگہ کا ننانے سرگرم عمل ہے۔ اس سے واضح ہے کہ جن معنوں میں یہ لفظ (تقدیر) ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ اس قرآنی مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔ ”انسان کی تقدیر“، ”اس کی تقدیر“، ”میری تقدیر“ یہ سب غلط ہے۔ تقدیر تو صرف خدا کی ہے۔ یعنی قانون خداوندی۔ لہذا انسانوں کی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر، خدا کا وہ قانون ہے جو انسان کی حالت کے مطابق اس پر وارد ہو جاتا ہے۔ جس قسم کی روش انسان اختیار کر لے۔ اسی قسم کی خدا کی تقدیر (خدا کا قانون) اس پر منطبق ہو جاتی ہے۔ جو شخص آگ میں انگلی ڈالتا ہے۔ خدا کی تقدیر اس پر وارد ہو جاتی ہے۔ کہ وہ جلن اور سوزش کی تکلیف میں

بتلا ہو اور جب وہ اس پر مرہم لگا لیتا ہے۔ تو خدا کی یہ تقدیر اس پر منطبق ہو جاتی ہے کہ اسے راحت اور سکون حاصل ہو جائے۔ (کتاب التقدیر 58-59)

متذکرہ بالا تصریحات میں پرویز صاحب نے یہ تین الفاظ بطور ”قانون“ کے استعمال کئے ہیں۔ لیکن ان میں بڑا واضح فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ یعنی ایک بات ہے جسے اللہ کی روش کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے جسے قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔

انسانی زندگی کے باہمی معاملات کے تصفیہ کے لیے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں۔ وہ قوانین فطرت سے قطعی مختلف ہیں۔ اور ان کو آپس میں ملایا نہیں جاسکتا۔ مثلاً قانون فطرت ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے۔ یا کسی چیز کو ہوا میں اچھالیں تو وہ واپس زمین کی طرف گرتی ہے۔ یہ قوانین فطرت فوری طور پر اپنا نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس میں نتیجہ قانون کے مطابق 100 فیصد درست رہتا ہے۔ مگر انسانی زندگی کے معاملات میں نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے قتل کی سزا قتل ہے مگر ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ قاتل بچ جاتے ہیں یا یہ کہ چوری کی سزا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ لیکن اس کو بعض اوقات چوری کی سزا نہیں ملتی۔ پھر یہ کہ کسی موقع پر کوئی فرد اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی سزا کو ٹال دے۔

اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ”خدا نے اپنے اپنے پر پابندیاں عائد کر لیں“۔ یا یہ کہ ”خدا قانون کا پابند ہو گیا۔“ اس کے لیے پرویز صاحب نے ان آیات کو بطور حوالہ درج کیا ہے۔ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (6/12) یا حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ (10/103) یا وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا (16/38) اور وَعَدَ اللَّهُ طَلًّا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ (30/6) ”یہ خدا کا وعدہ ہے اور یاد رکھو خدا اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔“

ان چیزوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ خدا تعالیٰ قانون کا پابند ہو گیا ہے درست نہیں ہے۔ آئیے ان ٹکڑوں کی پوری آیات کو دیکھتے ہیں۔

☆ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا أَنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ مَبْجَاهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (6/54)

”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے گا تم پر سلامتی ہے۔ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔ کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے۔ پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔“

☆ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قُلْ لِلَّهِ ط كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ه (6/12)

”آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمایا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

ان آیات میں واضح ہے کہ اللہ نے رحمت کرنا اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ لیکن ان آیات اور انہی جیسی دیگر آیات کا یہ مفہوم قطعاً غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فطری قوانین کے تابع کر لیا ہے۔ جیسا کہ پرویز صاحب نے لَاتَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور وَعَدَ اللَّهُ اور دیگر آیات بیان تو کر دیں، مگر آخر میں مفہوم کیا نکالا؟ کہ ”خدا نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیں۔“ یا یہ کہ ”خدا کے وعدے“ اس کے مقرر کردہ قوانین ہیں۔“

ان آیات کا مفہوم اپنی جگہ واضح ہے۔ لیکن خدا کو قانون کا پابند بنا کر انسانی دنیا میں اس کی مرضی کو ختم کر دینا سراسر غیر قرآنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (22/18) اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (21/21-23) وہ جو کرتا ہے اس بارے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا بلکہ سارے اسی کے آگے جوابدہ ہیں۔

اس کے باوجود یہ کہنا کہ خدا کو قانون کا پابند ہو گیا ہے۔ ایک غیر قرآنی تصور ہوگا۔ اور ایک چیز کو پرویز صاحب نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ جسے کہتے ہیں خدا کی مرضی! اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور فوری طور پر جو چیز خلاف قانون نظر آرہی ہوتی ہے لیکن اس کے وجود پذیر ہونے میں خدا کی حکمت، منشا اور مرضی کا

عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** (30/47) مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ مگر بہت سے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اور خلفائے راشدین میں سے تین خلفاء کو شہید کر دیا گیا۔

یا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ **وَلَنَبَلِّغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعَمْرَاتِ ط وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ** ۵ (2/155) اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔

اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرد فطری قوانین کے مطابق اپنی پوری سعی و کوشش سے عمل کرتا ہے۔ لیکن نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو کس طرح سے ہم انسانی زندگی میں خدا کی مرضی کا انکار کر سکتے ہیں۔ اور اس کو قانون کا پابند بنا سکتے ہیں۔ پرویز صاحب نے صرف اپنے تصورات کو بنیاد بنا کر ”قانون“ کے لفظ کا استعمال کیا۔ اور جہاں کہیں بھی قرآنی ترجمہ یا مفہوم اپنے خیالات کے خلاف گیا تو وہاں ”قانون“ کا لفظ استعمال کر کے اس کو اپنے خیالات کے تابع کیا۔

اس کے بعد پرویز صاحب نے مشیت خداوندی کو بھی قانون کے دائرے کے اندر محدود کر دیا۔ اور قرآنی اصطلاحات کو من پسند معانی پہنایئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔

”**لَوْ شَاءَ اللَّهُ**۔ قرآن کریم میں یہ ترکیب متعدد مقامات میں آئی ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو۔۔۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں کرنا چاہئے کہ ”اگر اللہ اس قسم کا قانون مشیت مقرر کر دیتا تو ایسا ہو جاتا۔۔۔“ مثلاً اگر کہا جائے کہ نمک، نمکین کیوں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ نمک نمکین ہو۔ اگر اس کا قانون مشیت یہ ہوتا کہ نمک میٹھا ہو، تو نمک میٹھا ہو جاتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ۔۔۔ اگر خدا چاہے تو اب بھی نمک میٹھا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس

کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا چاہے گا نہیں۔ کیونکہ اس نے قوانین مشیت مقرر کر دینے کے بعد خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ اس ترکیب (لَوْ شَاءَ) میں لَوْ کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔“
(کتاب التقدير 197)

”سورہ یونس میں ہے۔ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر مشیت خداوندی میں ایسا ہوتا تو وہ انسانوں کو پیدا ہی ایسا کر دیتا کہ وہ سب ایمان لے آتے۔ (10/99) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى۔۔۔ [اگر ہماری مشیت کا تقاضا ہوتا کہ تمام انسان مجبوراً ایک ہی راہ پر چلیں تو ہم ان کے اندر ایسی جبلت رکھ دیتے۔] لیکن ہمارا قانون مشیت یہ نہیں۔ انسانوں کے لیے قانون یہ ہے کہ ہم نے رسول کی وساطت سے انہیں بتا دیا ہے کہ ان کے لئے صحیح راستہ کونسا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (18/29) جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔“
(کتاب التقدير 199-200)

”أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا (13/31) اگر خدا کی مشیت کا تقاضا ہوتا تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کر دیتا کہ وہ سب راہ راست پر چلتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ۔۔۔۔۔ (2/253) اگر مقصود مشیت یہ ہوتا کہ انسانوں میں اختلاف اور قتال کو جبراً روک دیا جائے تو خدا انہیں پیدا ہی مجبور کر دیتا۔“ (کتاب التقدير 202)
”قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت، مشرکین اور کفار، لَوْ شَاءَ اللَّهُ سے یہی مراد لیتے تھے۔ سورہ انعام میں ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا۔۔۔۔۔ (6/148) اگر اللہ کو ایسا منظور نہ ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد ایسا کرتے۔ (16/35), (43/20) سورہ یسین میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھوکوں اور ناداروں کی مدد کرو تو کفار یہ کہتے ہیں کہ أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ (36/47) کیا ہم ان لوگوں کی روٹی کا انتظام کریں، جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اسے انہیں بھوکا رکھنا منظور نہ ہوتا تو وہ انہیں امیر کیوں نہ بنا دیتا۔ اس نے جو انہیں غریب رکھا ہے تو اس سے ظاہر ہے

کہ وہ انہیں روٹی دینا ہی نہیں چاہتا۔ اگر ہم انہیں روٹی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا کی مشیت سے جنگ کریں۔

قرآن نے یہ ذہنیت مشرکین اور کفار کی بتائی ہے اور اسے سخت جہالت اور گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ **لَوْ شَاءَ اللَّهُ** کا قرآنی مفہوم وہی ہے جسے پہلے بیان کیا گیا ہے۔“

(کتاب التقدیر 203)

یہاں پرویز صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان آیات کا مفہوم کیا بنے گا۔

مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ہمارے ہاں **مَا شَاءَ اللَّهُ** کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔۔ جو اللہ چاہے گا۔ اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم جو جی میں آئے کر لیں، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا۔ یعنی جو خدا کو منظور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم، تقدیر کے اس تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کی رو سے انسان کو مجبور قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے) تقدیر کا یہ تصور خلاف قرآن ہے۔ اس لئے **مَا شَاءَ اللَّهُ** کا مذکورہ صدر مفہوم بھی صحیح نہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ جو شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے **وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ** (2/255) انسان علم خداوندی میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بجز اس طریق کے، اور اس حد تک جو اس کے قانون مشیت نے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی عقل و بصیرت کی رو سے یا وحی کے ذریعے۔ یہی دونوں طریق ہیں جو قانون مشیت نے حصول علم کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی انسان کو، علم خداوندی کے مقابلہ میں، محدود علم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

سورہ کہف میں، دو باغ والوں کا قصہ تمثیلاً بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک صحیح نگاہ رکھتا تھا اور دوسرے کے متعلق کہا ہے **وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ** ط (18/35) وہ اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ وہ خدا کا بھی منکر تھا اور اس کے قانون مکافات کا بھی۔ قانون مکافات عمل سے انکار (یعنی اس حقیقت سے انکار کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے) کا نتیجہ یہ ہوا کہ (اس نے کھیتی کی طرف سے غفلت برتی اور) وہ تباہ ہو گئی۔ اس پر اس کے ساتھی نے (جو ان امور پر ایمان

رکھتا تھا) اس سے کہا کہ تجھے چاہئے تھا کہ اپنی کھیتی اور باغات کو دیکھ کر ہمیشہ یہ کہتا کہ **مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** (18/39)۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کسی میں ایسی قوت و اقتدار نہیں کہ انہیں پیدا کر سکے اور پروان چڑھا سکے۔“
(کتاب التقدير 204)

”سورہ یونس میں ہے کہ اے رسول! یہ مخالفین تجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اگر ہم غلط روش پر چلتے رہے تو ہماری تباہی آجائے گی۔ تو ہمیں بتاؤ کہ وہ تباہی کب آئے گی۔ اس کے جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے اس طرح پوچھتے ہو گویا اس انقلاب کا لانا میرے اپنے اختیار میں ہے۔ لہذا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کب آئے گا۔ یہاں سب کچھ خدا کے قانون مشیت کی رو سے ہوتا ہے۔ وہ انقلاب تو ایک طرف **لَا أَمَلُكَ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** (10/49) میں تو خود اپنی ذات کے لیے بھی، خدا کے قانون مشیت کے خلاف، نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ہونہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لئے سکھیا کو مدد حیات بنا لوں یا پانی میں زہر کی خاصیت پیدا کر دوں۔ یا ایسا کر سکوں کہ میرے کھیت میں گندم دو ماہ بعد فصل دے دے اور فریق مخالف کے کھیت میں سال بھر کے بعد۔ یہاں ہر بات کے لیے ایک قانون مہلت مقرر ہے۔ **لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ** (10/49) جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک ثانیہ کی بھی دیر سوری نہیں ہوتی۔ لہذا، یہ انقلاب بھی اسی قانون مہلت کے مطابق واقع ہوگا۔

یہاں سے **لَا أَمَلُكَ لِنَفْسِي ضَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** کا مفہوم واضح ہو گیا۔“

(کتاب التقدير 205)

”قرآن کریم میں بعض مقامات پر **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** آتا ہے۔ مثلاً سورہ الاعلیٰ میں ہے کہ **سَنُقَرِّفُكَ فَلَا تَنْسَى هَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط** (87/6-7) اے رسول! ہم نے تجھے قرآن کو اس انداز سے دیا ہے کہ تو اس میں سے کچھ بھی بھول نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ**۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ تو اس میں سے صرف اتنا بھلا سکتا ہے جتنا خدا چاہے۔ اس سے زیادہ نہیں بھلا سکتا۔ خدا کی طرف سے حضور کو جو جی عطا ہوئی تھی اس کا ایک حرف بھی بھلایا نہیں جاسکتا

تھا۔ (17/86) صاحب المنار، مفتی محمد عبدہ (مرحوم) نے لکھا ہے کہ
 ”استثناء، بالمشیت قرآن میں ہر جگہ ثبوت اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ یعنی جہاں اِلَّا کے بعد مَا
 شَاءَ اللّٰهُ وغیرہ الفاظ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے خلاف کبھی
 نہیں ہوگا۔ ان مقامات میں اِلَّا کہنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان امور کا ثابت اور دائم رہنا خدا کی
 مشیت کی رو سے ہے۔ اگر اس کی مشیت اس کے خلاف ہوتی تو وہ انہیں ویسا ہی بنا دیتا۔ لہذا
 فَلَا تَنْتَسِي ۗ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ کے معنی یہ ہیں کہ تو اسے ہرگز ہرگز نہیں بھلا سکے گا۔

(کتاب التقدیر 206)

” اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ میں شَاءَ کا مفہوم ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یعنی خدا کا قانون
 مشیت۔ باقی رہا حرف اِنْ تو اس کے معنی عام طور پر ”اگر“ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے
 ۔۔۔۔ ایک اور معنی بھی ہیں۔ جنہیں (بدقسمتی سے) ہمارے ہاں کے قرآن کریم کے تراجم میں
 نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عربی گرامر کی رو سے کہا جائیگا کہ یہ حرف، تعلیل یا سبب بیان کرنے کے
 لیے آتا ہے۔ یعنی جس مفہوم کے لیے ہم اردو زبان میں، چونکہ، استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان
 میں ان معانی کے لئے اِنْ بھی آتا ہے۔ سیوطی نے (اتقان) میں اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ اِنْ
 کے ان معانی کی رو سے دیکھئے کہ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کا کیا مفہوم مرتب ہوتا ہے۔ اسے بھی ایک مثال
 سے سمجھئے۔ آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی! مجھے جلدی جانا ہے۔ چائے کا تکلف چھوڑو۔
 اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ وہ دوست دیکھی چولھے پر چڑھا دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ چائے
 میں کیا دیر لگے گی۔ آگ چل رہی ہے۔ پانی میں نے رکھ دیا ہے۔ اب دس منٹ میں چائے تیار ہو
 جائے گی۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ۔۔۔ دس منٹ میں؟۔۔۔ وہ کہتا ہے کہ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ یعنی
 جو کچھ میں کر رہا ہوں چونکہ یہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہے، اس لئے اس کا نتیجہ بھی ایسا
 مرتب ہو کر رہے گا۔ یا بالفاظ دیگر جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ جب یہ قانون مشیت کے مطابق ہے تو یہ
 نہیں ہو سکتا کہ اس کا نتیجہ ایسا نہ نکلے۔ لہذا ایسا ہو کر رہے گا۔ (کتب لغت میں ہے اِنْ بمعنی اِذْ
 بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ”جب“ ہے)۔ اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھئے کہ بات کہاں سے کہاں

جا پہنچتی ہے۔ وہی ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ جو فقہان یقین اور عدم خود اعتمادی کے لئے بولا جاتا تھا۔ اب، تم و یقین اور کامل خود اعتمادی کا آئینہ دار ہو گیا۔ یہ ہے إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا قرآنی مفہوم۔ سیوطی نے اِنْ بمعنی ”چونکہ“ یا ”جب“ کے سلسلہ میں جو مثالیں دی ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ مثلاً سورہ آل عمران کی مشہور آیت وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (3/139) اس کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ تم مومن ہو۔ اس لئے تم دنیا میں سب سے بلند مقام پر ہو گے۔ یا جب تم مومن ہو۔ تو ہو نہیں سکتا کہ تم بلند ترین مقام پر فائز نہ ہو۔

سورہ فتح میں ہے لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ --- (48/27) چونکہ تمہارا تمام پروگرام خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہے اس لئے تم ضرور امن و عافیت سے کعبہ (یا مکہ) میں داخل ہو گے۔ یا بالفاظ دیگر، جب تمہارا پروگرام خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ تم داخل ہو گے اور بالضرور داخل ہو گے۔

جب حضرت یوسف کے والدین اور دیگر اہل خاندان مصر میں آئے تو آپ نے ان سے کہا۔ قَالَ اذْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (12/99) چونکہ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس لئے تم مصر میں امن و آرام رہو گے۔ جب حضرت موسیٰ کے خسر نے (جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے) حضرت موسیٰ سے کارندگی کا معاملہ طے کیا تو ان سے کہا کہ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (28/27) چونکہ میں خدا کے قوانین کا پابند ہوں۔ اس لئے تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ (نیز 37/102، 18/69) جنگِ احزاب میں منافقین نے بڑی غداری کی تھی۔ بعد میں یہ سوال سامنے آیا کہ ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ مجرمین کے سلسلہ میں، خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی میں اصلاح کا امکان نظر آئے اور وہ اپنے کئے پر نادم ہو۔ تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو، جرم کی سزا دی جائے۔ اس قانون کے پیش نظر، ان (منافقین) کے متعلق بھی کہا گیا کہ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (33/24) انہیں سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ اس کا فیصلہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوگا۔

(جسکی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے)۔

سورہ لقمان میں ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (31/34) کوئی شخص یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ اس لئے کہ واقعات کے ظہور پذیر ہونے کے سلسلہ میں بعض ایسی کڑیاں بھی رونما اور موثر ہو جاتی ہیں۔ جن کا انسان کو قبل از وقت علم نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ کڑیاں ہیں جنہیں غیب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور جن کے متعلق کہا ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں کہا گیا کہ مستقبل کے جو امور ایسے ہوں جن کے اسباب (Causes) کی تمام کڑیوں کا تمہیں قبل از وقت علم نہ ہو، ان کے متعلق تم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ آج سے سو سال بعد سورج کہن کس وقت لگے گا۔ لیکن یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکھی، اس جگہ سے اڑ کر کس جگہ بیٹھے گی۔ ایسے معاملات کے سلسلہ میں کہا کہ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم یہ مت کہو کہ میں کل یقینی طور پر ایسا کروں گا۔ جو کچھ تم نے کرنا ہے اس کے لئے قانون خداوندی کے مطابق ضروری اسباب مہیا کرتے جاؤ اور یہ کہو کہ اگر اس کے قانون کے مطابق جملہ اسباب مہیا ہو گئے تو پھر یقیناً ایسا ہوگا۔

مَنْ يَشَاءُ۔ عقیدہ جبر کی سند اور تائید میں جو آیات شہود سے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ، وہ ہیں جن میں مَنْ يَشَاءُ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”جسے چاہے، مثلاً يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (16/93) وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔“ يَا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (2/284) وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ يَا يُسِّطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (17/30) وہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وغیرہ۔

اگر اس قسم کی آیات کے یہی معنی لئے جائیں جو ان کے عام ترجموں کی رو سے متعین ہوتے ہیں۔ تو یہ انہی مضامین سے متعلق قرآن کی بے شمار دیگر آیات کے خلاف جاتے ہیں۔ مثلاً ہدایت و ضلالت کے متعلق ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (18/29) ان سے کہہ دو کہ حق خدا کی طرف سے آگیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے

قبول کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ عذاب و مغفرت کے متعلق بے شمار مقامات میں کہا گیا ہے کہ **حِزَّآءٍ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ رزق کی بسط و کشادہ وغیرہ کے سلسلہ میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** (53/39) انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔

جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے۔ اگر **مَنْ يَشَاءُ** سے متعلق آیات کے معنی یہ لئے جائیں کہ ”وہ جسے چاہتا ہے“ دے دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں، تو قرآن کریم کی مختلف آیات ایک دوسرے کے متضاد ہو جائیں گی۔ اور (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے) قرآن کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے۔ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا مذکورہ صدر آیات، باہدگر متضاد نہیں ہو سکتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان کے قاعدے کی رو سے، **مَنْ يَشَاءُ** کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ”جسے اللہ چاہے“۔ اور دوسرے یہ کہ ”جو شخص ایسا چاہے۔“ مثلاً **يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ کہ جو شخص ہدایت لینا چاہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے اور جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ رہتا ہے۔ اسی طرح رزق سے متعلق آیت کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اسے رزق کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے۔ جو اپنے لئے رزق کی تنگی چاہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں معانی میں ترجیح کن معانی کو دی جائے گی۔ سو اس کا جواب آسان ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو قرآن کریم کی دیگر آیات اور اس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور، قانون مکافات عمل ہے۔ یعنی انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے۔ لہذا ان آیات کا وہی مفہوم قرآنی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ جس میں **مَنْ يَشَاءُ** کا فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔“

(کتاب التقدیر 216-218)

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔۔۔ وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آپ دوسرے باب پر نگہ باز گشت ڈالئے۔ اس میں بتایا گیا (اور اسے بعد میں دہرایا گیا ہے) کہ خدا کے تخلیقی مراحل کے دو پروگرام ہیں۔ مرحلہ اول، عالم امر کا ہے جس میں ”خدا“ اشیا کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اور ان کے حفظ و بقا، نشو و نما اور محو و ثبات کے لئے قوانین مقرر کرتا ہے۔ اس مرحلہ میں اس کی قدرت مطلقہ اس طرح کار فرما ہوتی ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ پہلے سے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر ہوتا ہے۔ نہ کوئی حدود و قیود عائد۔ یہاں يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (42/49) کا صحیح ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ وہ جو جی میں آئے پیدا کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (22/14)۔ جو کچھ اس کے ارادے میں ہوتا ہے۔ وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (21/23)، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے فلاں چیز کو ایسا کیوں بنایا ہے۔ یا جو قوانین وہ وضع کرتا اور جو احکام نافذ کرتا ہے۔ وہ ویسے کیوں ہیں۔ (2/253, 5/1) “ (کتاب التقدير 219-220) آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”اس کے تخلیقی پروگرام کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں ہر کام اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ جن میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ اس مرحلہ میں يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کے معنی ہونگے۔۔۔ وہ ہر بات اپنے قانون مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلاً

۱۔ سورہ رعد میں ہے۔ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ (13/38-39) ہر عمل کے نتیجے کے لیے ایک میعاد ہوتی ہے اور یہ میعاد خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ اس کے مطابق اقوام یا اشیاء کا محو و ثبات (باقی رہنا یا مٹ جانا) ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہلے یہ کہا ہے کہ ہر بات کے لیے ایک قانون (کتاب) مقرر ہے اور اس کے بعد مَا يَشَاءُ کہا۔ ظاہر ہے کہ یہاں مَا يَشَاءُ، کے معنی ”خدا کے قانون مشیت کے مطابق“ ہو سکتے ہیں۔

۲۔ محو و ثبات کے اس اصول کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے کہ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ

النَّاسِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ فَلَا خَدَانَةَ لِكُلِّ مَحْكَمٍ
 قانون حیات نظریہ زندگی مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں، جماعت مومنین کو
 قیام و ثبات نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی کے مطابق ظالمین تباہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَ يَفْعَلُ
 اللَّهُ مَا يَشَاءُ (14/27)، ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ قانون
 مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایسا محکم قانون اور اصول بنانے کے بعد بھی ”وہ جس طرح
 جی میں آئے“ کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ جسے چاہتا ہے یونہی تباہ کر دیتا ہے۔
 (کتاب التقدیر 221)

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لَوْ شَاءَ اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ اور مَنْ
 يَشَاءُ جیسے الفاظ آئے ہیں۔ پرویز صاحب نے ان کا مفہوم کیا ہے ”قانون مشیت“، اور دوسری
 بات جو پرویز صاحب نے کہی کہ ان مقامات پر مَنْ يَشَاءُ کا فاعل انسان کو مانا جائے تو مفہوم
 درست ہوگا۔

جہاں تک ”فاعل“ والی بات کا تعلق ہے تو اس کا تعین صرف سیاق و سباق ہی کر سکتا
 ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جہاں اس کا فاعل انسان ہے۔ لیکن جہاں يَشَاءُ کے
 ساتھ ”اللہ“ لکھا ہوا ہے وہاں تو انسان کو فاعل نہیں مانا جاسکتا۔

اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف یعنی ”قانون مشیت“۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر قرآن
 کریم میں جہاں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں۔ ”سو اللہ چاہے“، ”اگر اللہ چاہتا“، ”جسے اللہ چاہے“
 وغیرہ۔ وہاں پرویز صاحب نے ان کا مطلب قانون مشیت کر دیا ہے۔ اور ذات خداوندی کو
 انسانی دنیا اور انسانی معاملات سے لے کر دیا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ”قانون مشیت“ ہے کیا؟ فطری قوانین کی حد تک تو بات سمجھ میں
 آتی ہے کہ یہ تمام کائنات سائنسی قوانین کے ماتحت ہے اور مغربی اقوام ان قوانین کو تسخیر کر کے،
 تسخیر کائنات کی طرف گامزن ہیں اور ترقی یافتہ بھی ہیں اور خوشحال بھی ہیں۔
 ”قانون مشیت“ کے بارے میں نہ تو ہمیں اس کائنات سے کوئی راہنمائی ملتی ہے اور

نہ ہی قرآن کریم نے کچھ بتایا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے؟ اور آیا کہ یہ بھی قابل تفسیر ہے؟ اور ہونا تو یہ بھی چاہئے تھا کہ مغربی اقوام اس قانون کو بھی مستحکم کر لیتیں، اور ترقی یافتہ کے ساتھ ساتھ ”ہدایت یافتہ“ بھی شمار ہوتیں۔ مگر وہاں ترقی تو نظر آتی ہے ہدایت کم ہی نظر آتی ہے۔ مگر قرآن کریم نے سائنسی یا فطری قوانین کو کم ہی بیان کیا ہے۔ اس کا زیادہ تر مخاطب انسان اور انسانی معاملات ہیں۔ اور جہاں کہیں انسانی معاملات کا بیان ہوگا۔ وہاں ذات خداوندی کا بیان بھی ہوگا۔ کوئی چیز اللہ نے بذاتہ اپنی طرف منسوب کی ہے تو اسے ہم ”قانون مشیت“ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

اب ہم چند قرآنی آیات بیان کرتے ہیں جن سے ان الفاظ کا مفہوم مزید واضح ہوگا۔

☆ **بُعَسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيَا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءٌ وَبِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ط وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ه (2/90)**

”بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ وہ انکا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔“

☆ **كَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط (2/272)**

”انہیں ہدایت پر لے آنا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

☆ **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ه (3/6)**

”وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اسکے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

☆ **قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ن وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه (3/26)**

”آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے

ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

☆ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝** (4/48)

“بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔“

☆ **إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ۝** (4/133)

”اگر وہ چاہے تو اے لوگو! وہ تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

☆ **وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومُوا بِحَبْمِهِمْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَشَاءُ لَكُنَّا عَلَمِينَ ۝** (6/39)

”اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے، گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔“

☆ **وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمٍئِيَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝** (6/111)

”اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے رو برو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ تر لوگ جاہل ہیں۔“

☆ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝** (9/28)

”اے ایمان والو! مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں۔ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔“

☆ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (12/56)

”اسی طرح ہم نے یوسفؑ کو ملک میں بسا دیا کہ وہ جہاں چاہے رہے ہے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔“

☆ قَبْلًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۗ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ (12/76)

”پس یوسفؑ نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے۔ پھر اس جام کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسفؑ کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا۔ مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہتا تھا۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا موجود ہے۔“

☆ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ (14/19)

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔“

☆ يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ قَدْ لَعَنَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ (14/27)

”ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کچی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ظالم لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔“

☆ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ (16/2)

”وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس تم مجھ سے ڈرو۔“

☆ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ط إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
وَكِيلًا ۝ (17/54)

”تمہارا رب تم سے بہ نسبت بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے۔ چاہے تمہیں سزا دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔“

☆ وَلَقِنْ شِقْنًا لَنذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ (17/86)
”اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ سب سلب کر لیں۔ پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آسکے۔“

☆ نُورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ط (24/35)

”نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

☆ وَلَوْ شِئْنَا لَكَبَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝ (25/51)

”اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔“

☆ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ
دَلِيلًا ۝ (25/45)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا۔“

☆ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ (32/13)

”اگر ہم چاہتے تو ہر فرد کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔“

☆ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ط إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ ۝ (42/49-50)

”آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس کو

چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔“

☆ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ (42/27)

”اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔“

☆ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ (42/19)

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت والا اور بڑے غلبہ والا ہے۔“

☆ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصِرَ مِنْهُمْ ۗ لَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ۗ (47/4)

”اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امتحان لے۔“

☆ وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّذَنْ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى ۝ (53/26)

”اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔“

☆ كَلَّا اِنَّهُۥ تَدْكِرُ ۗ ۙ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۗ وَمَا يَنْدُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ هُوَ اَهْلُ النَّوٰى وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝ (56-74)

”سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اسے یاد کر لے اور وہ بھی جب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اسی سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخش دے۔“

☆ اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
الْيَمِينِ ۝ (76/29-31)

”یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور دردناک عذاب کی تیاری تو صرف گنہگاروں کے لیے ہے۔“

☆ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ لَا يَمُنُّ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (81/27-29)

”یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

ان آیات پر غور کرنے کے بعد یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی مرضی“ کو قانون مشیت کے پیرائے میں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ پرویز صاحب نے ہر جگہ جہاں بھی کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے وہاں ”قوانین خداوندی“، ”قانون مشیت“ وغیرہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانی دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ اور ”قانون“ کے لفظ کے استعمال سے ان کا مفہوم اسی طرح کے فطری یا سائنسی طریق کے قوانین ہیں جن پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد جہاں دل کیا ”قانون مشیت“ کا لفظ استعمال کر لیا اور جہاں دل کیا ”مشیت خداوندی“ کا لفظ استعمال کر لیا۔ اور جہاں دل کیا اس کو ”مرضی“ یا ”رضا“ یعنی اصل معنوں میں استعمال کر لیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنِ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۝ (18/29) جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔

مقام حیرت ہے کہ جہاں پر ”لَوْ شَاءَ“ کا لفظ کا فر لوگ استعمال کر رہے ہیں وہاں اسی مفہوم کو صحیح سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے یہاں کچھ آیتیں دیکھتے ہیں۔

☆ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ
الْمُبِينُ ۝ (16/35)

”مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔“

☆ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ؕ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۗ

(43/20)

”اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو (جھوٹ باتیں) کہتے ہیں۔“

☆ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ

يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ ۗ سَلٰٓءُ ۗ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلٰٓئِلٍ مُّبِينٍ ۝ (36/47)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرو تو کافر کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔“

پرویز صاحب نے مفہوم القرآن میں (16/35) آیت کے لیے ”لَوْ شَاءَ اللَّهُ“ کا مطلب یہی کیا ہے۔ ”اگر اللہ چاہتا تو“۔ اور باقی آیات میں بھی۔

اب دیکھئے کہ ان آیات میں لفظ ”قانون مشیت“ استعمال کریں تو ان آیات کا کیا

مطلب بنے گا، مثلاً (36/47) کو اگر پرویز صاحب کے الفاظ میں بیان کیا جائے تو مفہوم ہوگا

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرو تو کافر، ایمان

والوں سے کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔“ (معاذ اللہ)

اس لیے یہ طریقہ کار غلط ہے کہ قرآنی الفاظ کے مطالب اپنی مرضی سے کہیں کچھ

استعمال کئے جائیں اور کہیں کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان آیات میں یہ الفاظ کفار کے منہ سے ادا

کروا کے ان کے کیسے معانی واضح کر دیئے ہیں۔

اب دی گئی آیات کریمہ پر غور کریں تو دیکھیں کہ کس طرح قانون مشیت کسی کو بیٹے،

کسی کو بیٹیاں دے سکتا ہے؟ اور کسی کو بانجھ رکھ سکتا ہے اور کس طرح رزق کی کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سائے کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا۔ اس کا تو قانون مشیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا۔ لیکن اس نے تو بعض کی بعض کے ذریعے سے آزمائش بھی کرنا ہے۔

ان بیان کردہ آیات میں جو بھی افعال بتائے گئے ہیں وہ ایک کلی باختیار و ارادہ اور مقتدر ہستی ہی سرانجام دے سکتی ہے۔ اور ”قانون“ نام کی کوئی جامد چیز ایسے کام سرانجام نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے انسانی دنیا کے لیے قوانین بنا دیئے ہیں۔ اور اب ان میں دخل نہیں ہوتا۔ ایک قطعاً غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری / سائنسی قوانین خارجی کائنات کے لیے بنائے ہیں۔ کیونکہ باقی کائنات ان قوانین کی پیروی کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بالواسطہ تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ جہاں اس انداز کے قوانین ناقابل عمل ہیں۔

اگر انسانی زندگی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا تو پھر قرآن میں بیان کردہ معجزات کے واقعات کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوٹ اور ان کے ساتھی تو عذاب سے بچ جاتے ہیں مگر ان کی بیوی اور دیگر قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر اقوام کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زور دے کر بیان کیا ہے۔ کہ ہم ایمان والوں کو بچالیں گے۔

اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسانی دنیا میں ”داخل“ نہیں کرتے پھر ”دعا“ کا کیا وجود رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”یونس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا تو ہم نے اسے نجات دی۔“ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کی انفرادی دعائیں بھی ہیں۔

اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ”مَنْ يَشَاءُ“ کا ترجمہ ”جسے اللہ چاہے“ کرنے سے ”مسئلہ جبر“ لازم آتا ہے تو یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے کہ انسان ایک باختیار و ارادہ ہستی ہے اور یہ چیز ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے جب کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت پر ڈال دیتا۔ ”يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ صرف ایک ٹکڑے کو بنیاد بنا کر ”مسئلہ جبر“ کو لازم نہیں

کیا جاسکتا جبکہ قرآن نے فرمایا ہے۔ ”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ه (2/26)“ اس سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ فقط فاسقوں کو کرتا ہے۔“ پھر کہا ”وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ (14/27)“ وہ تو ظالم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ”وَالَّذِيْنَ جَاهَلُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهُمْ سُبُلَنَا“ کہ جو لوگ ہمارے راستے کی جانب جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔

پھر ساری قرآنی تعلیم کا یہی تو فلسفہ ہے کہ نیک لوگ جنت کے حقدار ہوں گے اور کافر، ظالم اور فاسق لوگ ہی دوزخ کے حقدار ہوں گے۔ ”مسئلہ جبر“ کے حوالے سے کبھی قرون اولیٰ کے عربوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ یہ تو زبان کا اسلوب ہے عربوں کی زبان ہے اور انہیں ہر طرح سے زبان کے حوالے سے معاملات کی سمجھ آرہی تھی۔

دعا۔ اب ہم جائزہ لیں گے دعا کے موضوع پر پروفیسر صاحب کے تصور کا۔
 ”ہمارے ہاں دعا کا مفہوم خدا سے کچھ مانگنا لیا جاتا ہے۔ اس میں مانگنے کا تصور ایسا غالب اور عمیق ہوتا ہے کہ ہم ”دعا مانگنے“ کے الفاظ بھی عام طور پر بولتے ہیں۔ حالانکہ اگر خود دعا سے مفہوم ”مانگنا“ لیا جائے تو ”دعا مانگنا“ کی ترکیب بے معنی اور بے ربط ہو جائے گی۔ عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں۔ بلکہ کسی کو آواز دینا، بلانا، پکارنا ہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے معنی مدد مانگنے کے لئے جاتے ہیں۔

قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جو حضرات انبیائے کرام کے لئے ہوئے دین خالص کے نہیں، بلکہ اس کی محرف شکل، مذہب کے پیرو ہوتے ہیں۔ اور ان کے سلسلہ میں بھی جو دین خالص (قرآن) کے قبیح ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک لفظ کو اول الذکر کے سلسلہ میں استعمال کرتا ہے۔ تو اس سے وہی مفہوم لیتا ہے۔ جو ان کے ہاں مروج ہوتا ہے۔ اور جب اسی لفظ کو ثانی الذکر کے ضمن میں استعمال کرتا ہے تو اس سے صحیح قرآنی مفہوم لیتا ہے۔ مثلاً وہ الہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن مذہب پرستوں کے ہاں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے اور دین کی رو سے کچھ اور۔ یا جب وہ عبادت کا لفظ استعمال کرتا ہے

تو مذہب پرستوں کے ہاں اس سے مفہوم پرستش، پوجا پاٹ (Worship) ہوتا ہے۔ لیکن دین کی رو سے اس کے معنی احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت ہوتا ہے۔ دین میں پرستش کا تصور نہیں بلکہ اطاعت اور محکومیت کا تصور ہوتا ہے۔ اور اللہ سے مفہوم وہ بلند و بالا صاحب اقتدار ہستی، جس کے احکام و قوانین کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح جب وہ دَعَا۔ يَدْعُوْا وغيرہ کے الفاظ مذہب پرستوں کے لئے لاتا ہے تو اس سے ان کا وہ تصور مقصود ہوتا ہے جس کی رو سے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں۔ لیکن جب یہی لفظ خدا کے سلسلہ میں استعمال کرتا ہے تو اس سے مقصود محض ”پکارنا“ نہیں ہوتا۔ خدا کی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے۔“

(کتاب التقدير 361-362)

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔۔۔ (2/186)

اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے (اے رسول! جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔)

اس ترجمہ کی رو سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مظلوم، غریب و نادار، بے بس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑگڑا، گڑگڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن انکی کوئی مصیبت رفع نہیں ہوتی۔ ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ لہذا اس امر واقع کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب (قطع نظر اس سے کہ ستم رسیدہ، مصیبت زدہ، برسر حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اطمینان نہیں ہو سکتا۔) بڑے دور رس (تخریبی) نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک مظلوم انسان، ظالم کی دست درازیوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی۔ بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو

(مذکورہ بالا جواب کی رو سے) اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے۔ اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی۔ غور کیجئے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے، ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں (کم از کم) انتقام کے جذبات تو ابھرتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دستِ ظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے۔ لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہو گئی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا۔ بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا۔ کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ یا اللعجب۔ آپ نے دیکھا کہ مستبد قوتیں، محکوموں اور زبردستوں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں۔ تاکہ وہ انہیں ذبح کریں اور یہ ان کے شکرگزار ہوں۔ (کتاب التقدير 366-365)

دعا سے ہوتا کیا ہے۔ کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے، ہمارے دل میں آرزو بیدار ہوتی ہے۔ دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے۔ جس قدر یہ آرزو شدید ہوگی، اس قدر ہمارا ارادہ مستحکم ہوگا۔ اور جس قدر ارادہ مستحکم ہوگا۔ اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے۔ جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہر طالب علم کی زبان سے ہر روز سنتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری۔

اس شعر کے مصرعہ اول میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ (یوں تو) بچوں کے لیے ہے۔ لیکن اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بڑی عمیق ہے۔ یعنی جب انسان کی دلی تمنا، حروف و الفاظ کی شکل میں زبان پر آتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ جتنی گہری تمنا، اتنی ہی مخلص دعا۔ جتنی شدید آرزو، اتنی ہی پر کیف پکار۔ نفسیات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزوں کی بیداری سے انسان کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پھر، جس قسم کی آرزو، اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی۔ اس نفسیاتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے، خارجی دنیا میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔

بنیادی ہے) کہ نبوت ایک ایسا مقام ہے جس کی کنہ و ماہیت کا سمجھنا کسی غیر نبی کے لئے ممکن نہیں۔ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ خدا اور نبی کا باہمی تعلق کس قسم کا ہوتا تھا۔ خدا نبی سے کس طرح ہم کلام ہوتا تھا۔ نبی خدا سے کس طرح باتیں کرتا تھا۔ لہذا جس حقیقت کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے اس کے متعلق بحث و گفتگو سے کیا حاصل! ویسے بھی ختم نبوت کے بعد، اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ خدا اور نبی کے اس باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ خدا اور انسانوں کا تعلق خدا کی اس وحی کی رو سے قائم ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ خدا سے کسی کے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا نہ امکان ہے نہ کوئی ذریعہ۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ درحقیقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خواہ اس کے لئے الفاظ یا اصطلاحات کچھ ہی کیوں نہ استعمال کی جائیں۔ چونکہ اب نبوت کا دعویٰ باطل ہے۔ اس لئے خدا سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ کشف، الہام وغیرہ قسم کے تصورات، سب غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیے ہوئے۔ قرآن کریم میں تو یہ الفاظ تک بھی نہیں آئے۔

حضور نبی اکرم کی جو انفرادی دعا قرآن کریم میں آئی ہے۔ وہ ہر انسان کے لئے قیامت تک حسن آرزو کا بلند ترین نمونہ ہے آپ سے کہا گیا کہ ”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ (20/114) ”کہو! اے میرے نشوونما دینے والے، مجھے علم فراوان عطا فرما۔ اے کاش حضور کے نام لیوا، اپنے سینوں کو اس ایک آرزو کا گہوارہ بنا لیتے تو آج ان کا مقام کیا ہوتا۔“ (کتاب التقدير 385-386)

یہ تھا پرویز صاحب کا تصور دعا۔ آئیے اس کا قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی دنیا میں خدا کے بطور ایک مقتدر ہستی کے وجود کی سب سے بڑی دلیل دعا ہے۔ اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دعا کا عمل سکھایا ہے اس سے یہ تصور اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ (2/186) جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول

کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے انہیں چاہئے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پر ہوں۔

پرویز صاحب کا کہنا کہ ایسا ترجمہ کرنے سے دشواری پیش آتی ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم گڑگڑا کر دعائیں مانگتے رہیں۔ اب اس چیز کی وجہ سے کیا اس آیت کا ترجمہ بدل دیا جائے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر اس کا مفہوم ہی بدلا جاسکتا ہے۔ اب پرویز صاحب نے تو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔

اس طرح کی باتیں کر کے پرویز صاحب ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ابتلا اور آزمائش بھی کوئی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب انبیاء کرام کو بھی بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ اور فرمایا **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ه (2/155)** اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ پس بشارت دے دو ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ **الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ه أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قَدْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ه (2/156-157)** وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

پھر جیسا کہ پرویز صاحب نے کہہ دیا کہ ”امر واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کی عمر مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے“ اس لیے یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم یہ نہ بھی کہیں کہ کوئی فرد کسی آزمائش سے دوچار ہے پھر بھی انفرادی طور پر تو خدا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ آئیے اس کی دلیل قرآن کریم سے دیکھتے ہیں۔

☆ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ؕ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ط كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ه (10/12)**

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں۔“

☆ هُوَ الَّذِي يُسِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَحْتَىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ؕ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ لَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ؕ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط (10/22-23)

”وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے پھر جب اللہ اس کی مصیبت کو رفع کر دیتے ہیں تو انسان فراموش کر دیتا ہے۔ یہ چیز یہی ظاہر کرتی ہے کہ مشکلات میں صرف اللہ ہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے۔

☆ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ط ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ؕ (27/62)

”کون ہے جو بے کس کی پکار کو قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے جب وہ پکارے۔ اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔“

اس کے ساتھ ہی حضرات انبیائے کرام کی انفرادی دعائیں بھی ہمارے لیے باعث نمونہ اور باعث نصیحت ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی سختی یا تنگی آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔

☆ وَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسِيئَةِ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ إِدْرِيسَ وَذَا الْكَلْبِ ط كَلَّمْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۝ إِنَّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهٗ زَوْجَةً ط إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْئِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ط وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝ (21/83-90)

”اور ایوب کی حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسمعیل اور ادريس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے (حضرت یونس) کو یاد کرو! جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تہانہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے سچھی عطا فرمایا۔ اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی

کرنے والے تھے۔“

تقریبات بالا سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ساری کائنات میں بطور مقتدر ہستی کے موجود ہے۔ اور سارا نظام کائنات بشمول انسانی دنیا اسی کی منشا کے مطابق رواں دواں ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہر انسان کی پکار کو سننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ نیکی اور بدی میں فرق اس نے بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کو رغبت دلائی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اس کے سپرد کر کے رکھو گے۔ اتنا ہی وہ تمہارے معاملات میں سہولت پہنچائے گا۔ اور یہ کہ وہ کسی بھی طرح کے قانون کا پابند نہیں ہے۔ قادر مطلق ہے اور باختیار و ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بیان کر دیئے ہیں جن سے انبیاء کرام کی تکالیف دور کر کے ان کو سکون مہیا کیا گیا۔

اس لیے ذات خداوندی کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور درست نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہر جگہ قرآنی مفہیم کے لیے لفظ ”قانون“ کا استعمال غیر قرآنی ہے۔



معاشی نظام

اب ہم دیکھتے ہیں پرویز صاحب کے معاشی نظام کو جو بقول ان کے قرآنی نظام کے عین مطابق ہے اور صدر اول میں ایسا ہی نظام متشکل تھا۔ اس کے لیے ان کی تصنیف ہے ”نظام ربوبیت“۔ جس کا بیشتر حصہ فلسفیانہ مباحث سے متعلق ہے۔ اور معاشی نظام جو انہوں نے بیان فرمایا اس کے چند نکات اس طرح ہیں۔

۱۔ انسانی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔

۲۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل پیداوار نظام مملکت کی ملکیت میں رہیں اور زمین کی انفرادی ملکیت کا تصور غلط ہے۔

۳۔ ہر فرد اپنی دی گئی استعداد کے مطابق کام کرے اور اپنی موجود ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی سب کچھ نظام مملکت کے حوالے کر دے۔ اور نظام باقی لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے۔ اس طرح معاشی مساوات قائم ہو جائے گی۔

۴۔ انفاق، صدقات، خیرات اور وراثت کے احکامات عبوری دور سے متعلق ہیں۔

یہ چند نکات ہیں اس کے بارے میں تفصیلات ہم ”نظام ربوبیت“ سے اخذ کر کے نیچے درج کرتے ہیں تاکہ معاشی نظام کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور واضح طور پر سامنے آجائے۔

”نظام مملکت کی ذمہ داری۔“

یہ ہیں رزق کے سلسلہ میں وہ پیچیدگیاں جن کا حل، انسانوں کے وضع کردہ معاشی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکا۔ اس کا حل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمہ داری نہیں۔ یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذمے، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کام کا سرانجام دینا ہے۔ جو ان کے سپرد کیا جائے۔ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔ صرف انہی افراد کی نہیں بلکہ مملکت کے

دائرے کے اندر ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** (11/6) ”زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔“

یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ”ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے“ لیکن خدا ایسا نہیں کرتا کہ ہر شخص تک رزق خود پہنچائے۔ خدا کی اطاعت کا عملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جو احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ اسی انداز سے، ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عائد ہوتی ہے۔ جو دنیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔ وہ نظام خدا کی طرف سے (On His Behalf) یہ اعلان کرتا ہے کہ **نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ** (6/152) ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار۔

اس سے واضح ہے کہ انسانوں کے سلسلہ میں وہ ذمہ داریاں جنہیں خدا نے اپنے اوپر عائد کر رکھا ہے۔ اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔ جو خدا کے نام پر قائم ہوتی ہے۔ (شاہکار رسالت - 332-333)

زمین کی انفرادی ملکیت۔ ہم کس طرح زمین کے رقبوں کو ان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے سکیڑتے اور سمیٹتے (کم کرتے) چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے (کہ ان پر ان کی ملکیت ختم ہوگی) اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو لوٹا نہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ (13/41)

سورۃ الانبیاء میں کہا کہ انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو زمین متاع حیات حاصل کرنے کے لیے ملی تھی۔ اس پر زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اس پر قبضہء مخالفانہ جما لیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ (21/44) یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے قیام کی عملاً ابتدا کر دی۔ (شاہکار رسالت 346)

زمین کی اس پوزیشن کو قرآن کریم نے، قوم شموذ کی تاریخی شہادت کی روشنی میں اس

طرح واضح کر دیا کہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ قوم شموذ کی معیشت کا مدار گلہ بانی (مویشی پالنے) پر تھا۔ ان کے گرد و نواح کھلی چراگاہیں اور پانی کے چشمے تھے لیکن قوم کے سرداروں نے ان پر اپنا ذاتی قبضہ جمارکھا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کمزوروں کے مویشی بھوکے اور پیاسے رہ جاتے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالحؑ یا مبرا انقلاب بن کر آئے۔ انہوں نے سرداران قوم کے اس غصب و نہب کے خلاف آواز بلند کی۔ ان سرداروں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ **هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ه (7/13)** یہ زمین خدا کی ہے، نہ تمہاری ہے نہ میری۔ اور یہ مویشی بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لیے ان مویشیوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے خدا کی زمین سے چریں چگیں۔ تمہیں اس کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم ارض اللہ (خدا کی زمین) پر اس طرح حد بندیاں قائم کر دو۔ کہ اس کی مخلوق اس کی زمین میں تمہاری عائد کردہ حدود سے آگے نہ جاسکے۔ (شاہکار رسالت 351) (11/64, 7/73)

جس انقلاب کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی وہ عہد فاروقیؓ میں کئی منزلیں آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جہاں اراضیات کو مملکت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ یہ سوال اس وقت زیر غور آیا جب شام اور عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ عراق میں دجلہ و فرات کی وادیاں صحیح معنوں میں زرخیز، (سونا گلنے والی) تھیں۔ اس قسم کی اس قدر وسیع اراضیات جب مفتوحہ قرار پائیں تو ان کی تقسیم کا سوال سامنے آیا۔ اس سے پیشتر مفتوحہ زمینوں کو بھی مال غنیمت قرار دیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اگر حضرت عمرؓ ان اراضیات کو بھی حسب دستور سابق سپاہیوں میں تقسیم کر دینا چاہتے تو اس کے لئے کسی غور و فکر اور بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ان کا خیال اس سے مختلف تھا۔ اس لئے انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اسے مجلس مشاورت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اس حیثیت سے بھی کہ اس میں اس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا جو عہد رسالت مآبؐ اور دور صدیقینؓ میں نافذ العمل تھا اور اس جہت سے بھی کہ معاشیات کے سلسلہ میں یہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے متعلق جو بحث ہوئی تھی۔ اسے پوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے جب

”غیر رسمی طور پر“ صحابہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اکثر صحابہؓ آپ سے متفق تھے، بعض کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ ان (مؤخر الذکر) میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ جیسے حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس مشاورت کے سامنے اپنی تقریر میں فرمایا۔

”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دوں کہ اس میں ان کا کچھ حصہ نہ رہے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے اور نسلاً بعد نسلاً اسی طبقہ میں منتقل ہوتی رہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائیگی۔ بیواؤں اور حاجت مندوں کی کفالت کہاں سے ہوگی۔ مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض لوگ پانی کے بارے میں بھی فساد کرنے لگیں گے۔“

اس کی تائید میں حضرت علیؓ نے تقریر کی جس میں فرمایا۔

”میری رائے ہے کہ کاشتکاروں اور اراضی کو جوں کا توں رہنے دیجئے۔ تاکہ یہ (ارضیات) سب لوگوں کے لیے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔ (فوجوں میں زمین تقسیم کرنے سے یہ انہی میں سمٹ کر رہ جائے گی۔)

حضرت معاذؓ نے فرمایا

اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو زرخیز زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔ اسکے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لئے حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لئے آپ کو وہ کام کرنا چاہئے جس میں آج کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہو اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی۔“

اس تجویز کی مخالفت میں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت بلالؓ نے جو تقاریر فرمائیں، ان کا ملخص یہ تھا کہ!

”جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے۔ وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس

طرح رسول اللہؐ نے خیبر تقسیم کر دیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں، ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لیے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے متعین طور پر پوچھا کہ ”کیا یہ اراضی اور ان کے غیر مسلم مالک، اللہ نے ہمیں فتح کے نتیجے میں نہیں دیے؟“ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ:-

”اے عبدالرحمن! بات وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب، میرے بعد، کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو، جتنا اب تک ہو چکا ہے۔ بلکہ (یہ بھی ممکن ہے کہ) آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بار ثابت ہوں۔ سو اگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں تو آئندہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آئے گا۔ اور آج کے بعد فتح ہونے والے علاقوں کے یتیم اور بیواؤں کی کفالت کیونکر کی جاسکے گی۔

لیکن یہ حضرات اس پر بھی حضرت عمرؓ کی تجویز سے متفق نہ ہوئے۔ لہذا طے پایا کہ اس مسئلہ پر مجلس مشاورت کی آئندہ نشست میں غور کیا جائے۔ اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کے ممتاز عمائد کو بھی دعوت شرکت دی گئی کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں، مہاجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربہ رکھتے تھے۔ اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

”میں نے آپ حضرات کو اس لئے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی سی ہے۔ اس لئے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت کی۔ مجھے نہ اس پر ملال ہے کہ اس باب میں کس نے میری مخالفت کی ہے، نہ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا

اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں۔ اسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جسے میں حق سمجھتا ہوں۔ (لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے) اور یہ کتاب جس طرح میرے پاس موجود ہے، اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔“

آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آوازیں آنے لگیں ”اے امیر المؤمنین! ہمیں تسلیم ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہی مناسب ہے۔“ حضرت عمرؓ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔

آپ نے میرے ان دوستوں کی آوازیں سنی ہوگی جو اس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں شاید ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میرے نزدیک کسی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کے جائز حق پر تصرف کر کے اس پر ظلم نہیں کیا۔ یہ حضرات خود گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیا حتیٰ کہ خمس بھی اس کے مناسب موقع پر صرف کر دیا ہے۔ اب سوال زمین کا ہے۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے۔ (اسے مملکت کی تحویل میں رہنے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے متعلق میں نے سوچا ہے کہ) اسے موجودہ کاشتکاروں کے پاس رہنے دیا جائے اور ان سے خراج وصول کر لیا جائے۔ تاکہ یہ آمدنی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جاسکے اور اس کے ذریعے فوج کے اخراجات نیز موجودہ اور بعد میں آئینوالی نسلوں کی پرورش کا سامان مہیا کیا جائے۔ آپ حضرات غور کیجئے کہ کیا یہ ممالک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے؟ آخر جزیرہ، بصرہ، کوفہ، عراق، شام، مصر وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں فوجیوں کی چھاؤنیاں نہیں بنانی پڑیں گی؟ آخر ان کا خرچ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟“

اس مقام پر دو قسم کی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے سورہ حشر کی ان آیات سے جن کا ذکر اب کیا جائے گا، اسی مجمع میں استدلال فرمایا تھا جس پر تمام حضرات متفق ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہوا تو آپ نے مزید غور و فکر کے لیے تین دن کی مہلت طلب کی اور اس دوران میں قرآن مجید پر گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ تیسرے دن

جب پھر مجلس کا انعقاد ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ پر مزید غور و فکر کیا تو اللہ الحمد کہ مجھے اس سے اپنی تجویز کے حق میں راہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آیات (10-59/7) تلاوت فرمائیں۔ اور کہا کہ دیکھئے، ان میں مال نے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں

۱۔ مہاجرین کا حق ہے۔۔ مہاجرین میں، جنگ میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں میں کوئی تخصیص وغیرہ نہیں کی گئی۔ صرف احتیاج (ضرورت مندی) کو شرط قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ انصار کا حق ہے اور ان میں بھی مندرجہ بالا تفریق نہیں کی گئی۔
ان دونوں کے بعد کہا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ (59/10)

”اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔“

روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرف سے اس قرآنی استدلال کو سن کر صحابہؓ کے چہرے خوشی سے تہمتا اٹھے اور وہ (مخالفین و موافقین سب) جوش مسرت سے بیک زبان پکارا اٹھے کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے۔ ہم سب آپ سے متفق ہیں۔
اس طرح اس مشکل ترین اور اہم ترین معاملہ کا فیصلہ نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔

(شاہکار رسالت 384-388)

”اس مسئلہ کے حل کے لئے جو کچھ قرآن کریم سے میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا۔ اور وسائل پیداوار پر (خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی) کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا۔ خواہ ملکیت افراد کی ہو اور خواہ اسٹیٹ (مملکت) کی۔۔۔ قرآنی تصور حیات کی رو سے یہ تمام کائنات ایک حکیم و خیر ہستی کی پیدا کردہ ہے۔ اور اسی کے غیر متبدل قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس کی تخلیق ایک عظیم مقصد کو لئے ہوئے ہے۔ انسانوں کی تخلیق بھی اسی خدا کے پروگرام کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ اس نے انسانی زندگی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے اپنی طرف سے راہ نمائی عطا کی ہے۔ جسے وحی

کہا جاتا ہے۔ یہ وحی ان مستقل اقدار اور غیر متبدل قوانین پر مشتمل ہے۔ جو تمام نوع انسانی کے لئے بطور ضابطہ حیات کام کرتے ہیں۔ اس ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس زندگی کی خوشگواریاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور وہ اس قابل بھی ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ جو معاشرہ اس ضابطہ حیات کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ اسے قرآنی نظام کا حامل کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور تمام افراد کی مضر صلاحیتوں کی پوری پوری نشوونما ہوتی چلی جائے۔ اسی کا نام تکمیل ذات یا استحکام خودی ہے۔ یعنی ہر فرد کی انفرادیت کا ثبات اور اس کی تکمیل۔ اس نظام میں یہ کچھ نہ میکانیکی طور پر رونما ہوتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کے جبر و تشدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ چیز اس معاشرہ کے افراد کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی، ان کے ذہن کی کاوشوں سے نشوونما پاتی اور ان کے بازوؤں کی قوت سے پروان چڑھتی ہے۔ اس لئے کہ ان افراد کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی رو سے دنیا میں کوئی عمل حتیٰ کہ کوئی خیال تک بھی بلا نتیجہ نہیں رہتا۔ انسانوں کا ہر عمل اور ارادہ وحی خداوندی (یعنی مستقل اقدار) سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ وہ فرد پوری محنت سے کام کرتا ہے۔ اور اپنے لئے صرف اتنا لیتا ہے جو اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔ باقی سب کچھ اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس سے اس کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ اور وہ ابدی مسرتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس طرح اس معاشرہ میں نہ فاضلہ دولت کسی کے پاس رہتی ہے اور نہ ہی پیداوار کے ذرائع پر ذاتی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔“ (نظام ربوبیت۔ 23-24)

”باقی رہا ذاتی ملکیت کا ”تقدس“۔ سو اس کے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ یہ تصور یورپ کے ان فلاسفروں اور معاشی رہنماؤں کا پیدا کردہ ہے جو نظام سرمایہ داری کے بنیادی ستون ہیں بودن (Bodin) ہابز (Hobbes)، لاک (Locke)، والٹیر (Voltaire)، ہیوم (Hume) سب اسی زمرہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے ذاتی ملکیت کو انسان کے فطری حقوق (Natural Rights) کی فہرست میں شامل کیا اور اس کا تحفظ حکومت کا اولین فریضہ قرار دیا۔ ان

کے برعکس قرآن کریم کو دیکھئے۔ وہ حضرات انبیاء کرام کے مسلک کو نوع انسانی کے لئے بطور دلیل راہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کسی رسول کی ذاتی ملکیت کا ذکر نہیں کیا۔ خود حضور خاتم النبیین صلعم کے متعلق یہ حقیقت سب کو تسلیم ہے کہ (روزمرہ کی اشیا مستعملہ کے سوا) نہ حضور کی کوئی ذاتی ملکیت تھی نہ فاضلہ دولت۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق (جو قرآن کریم کے مطابق ہے اور اس لئے قابل قبول) حضور نے فرمایا کہ انا لا نورث۔ ہمارا کوئی وارث نہیں۔ ما ترکنا صدقہ۔ ہم جو کچھ چھوڑ رہے ہیں وہ سب مفاد عامہ کے لئے ہے۔ (بخاری جلد نمبر 2، صفحہ 996) چنانچہ اس اصول کے مطابق باغ فدک، جو حضور کے ذاتی گزارے کے لئے تھا بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوا، بلکہ امت کی مشترکہ تحویل میں آ گیا۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت نہیں تو پھر قرآن کریم میں وراثت وغیرہ کے احکام کس لئے دیئے گئے ہیں۔ سوا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسانی معاشرہ کو اپنے متعین کردہ پروگرام کی آخری منزل تک آہستہ آہستہ بندرتن پہنچاتا ہے۔ اس لئے وہ جہاں اس پروگرام کی آخری منزل کے متعلق اصول اور احکام متعین کرتا ہے۔ عبوری دور کے لئے بھی ساتھ کے ساتھ راہنمائی دیتا چلا جاتا ہے۔ وراثت، قرضہ، لین دین، صدقہ و خیرات وغیرہ سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے گزر کر معاشرہ انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہوں گے۔ جہاں مسلمان اقلیت میں غیر مسلم (یا غیر قرآنی) نظام حکومت کے تابع زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ وہاں انکی انفرادی زندگی مسلمانوں کی سی ہوگی۔ اس لئے ان کے لئے انہی احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا ممکن ہوگا جنہیں ہم نے عبوری دور کے احکام کہہ کر پکارا ہے۔ ان کے لئے کشادگی راہ تو یہی ہوگی کہ آخر الامر، اس مملکت کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جہاں قرآنی نظام نافذ ہو، لیکن جب تک یہ ممکن نہ ہو، انہیں بہر حال انفرادی احکام پر عمل پیرا ہی رہنا ہوگا۔“ (نظام ربوبیت 26-27)

انفاق۔ اس لئے جو کچھ بھی نوع انسانی کی ربوبیت (رب العالمینی کو مشہود کرنے) کے لئے کھلا رکھا جائے گا۔ وہ خود تمہارے ہی فائدے کے لئے ہے۔ (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ 2/272) یہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا۔ اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ (يُوفَىٰ إِلَيْكُمْ وَ

أَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (2/272) اسلئے کہ اس سے تمہاری ذات میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ (تَقِيَّتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ) اس سے تمہاری نگاہوں میں فراخی اور طرف میں وسعت آجائے گی۔ اور اس طرح تمہاری ذات حدود فراموش ہوتی چلی جائے گی۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (3/92)

اور اگر تم وسعت و کشادگی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محنتوں کا عزیز ترین ما حاصل ربوبیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دو۔

اسی لئے دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ انفاق جس سے دل میں کبیدگی پیدا ہو اور طوعاً و کرہاً کیا جائے اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ (وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ 9/54) ربوبیت عامہ کے لئے انفاق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی امید (لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا 76/9) اس لئے کہ جو انفاق قانون خداوندی کی ربوبیت اعلیٰ کے لئے ہوتا ہے (إِنِّي نَفَعْتُ رَبِّيَ الْاَعْلَىٰ 92/20) اس کا صلہ انسان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتا ہے۔ (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ 92/18) اس لئے اس کے بدلہ میں دوسروں سے صلہ اور ستائش کا کیا سوال؟ اسی لئے سورہ مدثر میں ہے کہ (وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ 74/6) اس کا صلہ یہ ہے کہ اس سے خود تمہاری ذات کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ (هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ 55/60)

یہ ہے انفاق کا صحیح مفہوم۔ قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں تمام افراد معاشرہ اس قسم کے انفاق (اپنی محنتوں کے ما حاصل کو ربوبیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دینے) کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ وہ اس قسم کے مثالی معاشرہ کو (Ideal Society) جنت کہہ کر پکارتا ہے۔“ (نظام ربوبیت 99-100)

”حقیقت یہ ہے کہ خود لفظ انفاق جسے قرآن نے اس تکرار کے ساتھ اپنے ہاں استعمال کیا ہے۔ اس تصور کا صحیح مفہوم سامنے لے آتا ہے۔ نفاق ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلی ہو۔ (برخلاف سرب کے جس میں صرف اندر داخل ہونے کا راستہ ہو۔ آگے نکلنے کا راستہ نہ ہو) منافق کو اسی لئے منافق کہتے ہیں کہ وہ دین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ انفاق کے معنی ”کھلا رکھنے“ یا ”عام

کرنے کے ہیں۔ ”انفاق“ کا ترجمہ عام طور پر خرچ کرنا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس لفظ کے بنیادی معنی کی رو سے ”خرچ کرنا“، اس کے مفہوم کو صحیح طور پر ظاہر نہیں کرتا۔ ”انفاق فی سبیل اللہ“ کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے۔ ”مفاد عامہ کے لئے کھلا رکھنا۔“ (نظام ربوبیت 97)

الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (25/67)

”وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی (موقعہ پر) تنگی بھی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی روش ان دونوں حالتوں کے بین بین، اعتدال پر ہوتی ہے۔“

(نظام ربوبیت 154)

انفرادی ملکیت۔ انسان کی عقل اپنے اس مسلک کے جواز میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ مختلف انسانوں میں کمانے کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ کماتا ہے اسے اپنی کمائی پر پورا پورا حق ملکیت حاصل ہونا چاہئے۔ اس سے اس کی کمائی چھین کر دوسروں کو دے دینا ظلم اور غصب ہے۔ جو شخص دن میں بیس روپے کماتا ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ تم چار روپے رکھو اور سولہ روپے دوسروں کو دے دو، اگر جو روا استدراذ نہیں تو اور کیا ہے۔ حق و انصاف کا کون سا قانون ہے جس کی رو سے آپ اس کی محنت کا حاصل چھین سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمائی میں سے کچھ رقم خیرات کرنا چاہے تو یہ اور بات ہے۔ آپ اس کے حق ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائے گی کہ مفاد پرستی اور سرمایہ داری کے پورے نظام کی عمارت اسی ”دلیل“ پر قائم ہوتی ہے۔ قرآن نے (بنی اسرائیل کے) قارون کو نظام سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب اس پر اعتراض کیا جاتا کہ اس کے پاس اس کی اس روش کا کیا جواز ہے کہ اس نے اس قدر دولت کے خزانے بھر رکھے ہیں اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي۔ (28/78) میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے۔

اس لئے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ میری ملکیت میں دست اندازی کرے! قرآن کہتا ہے کہ یہی دلیل ہر مفاد پرست اور سرمایہ دار گروہ پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہی دلیل اس تمام فتنہ

کی جڑ ہے۔ (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 39/49) قرآن نہایت حسن و خوبی سے اس دلیل کا تجزیہ کرتا ہے اور حقائق کو سامنے لا کر اس کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ سینے اس باب میں وہ کہتا کیا ہے۔

ذرا غور کرو تم صبح سے شام تک کام کرتے ہو اور ایک مزدور بھی صبح سے شام تک کام کرتا ہے۔ تمہارا دن بھر کا کام اتنا پیدا کرتا ہے جس کی قیمت (مثلاً) دو روپے ہے۔ تم دونوں کی کمائی میں دو عنصر شامل ہیں ۱۔ محنت ۲۔ کمائی کی استعداد کا فرق۔ شق نمبر ۱ دونوں میں مشترک ہے۔ فرق شق نمبر ۲ میں ہے۔ اور اسی فرق کی بنا پر تمہاری پیداوار کی قیمت (مزدور کی پیداوار سے) اٹھارہ روپے زیادہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری استعداد کی زیادتی، تمہاری اپنی ہے۔ اس لئے اس سے پیدا شدہ کمائی بھی تمہاری اپنی ہونی چاہیے۔ اس دلیل کی بنا پر تم اس زائد کمائی کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہو۔ اس سے سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس سرمایہ سے تم بہت سی چیزیں خرید کر اپنی ملکیت میں لے آتے ہو۔ (مثلاً زمین، وسائل، آب پاشی، مکانات، صنعت وغیرہ) اس سے تمہاری آمدنی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ [پھر یہی جمع شدہ سرمایہ تمہاری اولاد کو ورثتاً مل جاتا ہے۔ انہیں نہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نہ ہی کمائے کی استعداد کی حاجت۔ وہ بغیر کام کئے اس سرمایہ پر عیش کرتے ہیں۔ لہذا اس دلیل کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ جس شخص میں کمائے کی استعداد زیادہ ہے۔ اسے اپنی زیادہ کمائی پر حق ملکیت حاصل ہے۔]

قرآن کہتا ہے کہ ذرا ان دونوں چیزوں کا تجزیہ کرو، یعنی ۱۔ تمہاری ذہنی استعداد اور ۲۔ سرمایہ کے ذریعے خرید کردہ وسائل پیداوار اور پھر دیکھو کہ ان میں تمہارا حصہ کس قدر ہے۔ ایک انسان کی ذہنی استعداد کی تخلیق و تعمیر میں حسب ذیل عناصر کارفرما ہوتے ہیں۔

- ۱۔ دماغی خلیات (Brain Cells) کی ساخت جس کا تعلق پیدائش سے ہے۔
- ۲۔ ابتدائی ماحول
- ۳۔ تعلیم و تربیت
- ۴۔ ذہنی استعداد کے استعمال کے موزوں مواقع۔

(ان سب کا تعلق اسی معاشرے سے ہے جن میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔)

آپ غور کیجئے کہ ان تمام عناصر میں سے وہ کون سا عنصر ہے جو آپ کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ یا جس میں آپ کے کسب و ہنر کا دخل ہے؟ اگر آپ کا دماغ اچھا ہے تو یہ چیز آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں۔ بلکہ وہی (یا یوں کہیے کہ پیدائشی) ہے۔ اگر آپ کی تربیت اچھے ماحول میں ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ کی ذاتی کاریگری (تو ایک طرف اختیار و ارادہ) کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اگر اتفاق سے آپ کا ماحول خراب ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اسی طرح، اگر آپ کی تعلیم کے لئے اچھی درسگاہیں موجود تھیں تو اس میں بھی آپ کی اپنی کاریگری کا کوئی دخل نہیں۔ اگر اس علاقے میں، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ کوئی اسکول ہی نہ ہوتا۔ یا اسکول میں تعلیم کا اچھا انتظام نہ ہوتا تو آپ کی تعلیم ناقص رہ جاتی۔

اب لیجئے وہ وسائل پیداوار جنہیں آپ اپنے سرمایہ سے خرید کر ان کے اجارہ دار بن جاتے ہیں۔ ان سب سے بنیادی وسیلہ ارض (زمین) ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ قرآن نے معاشی زندگی کے لئے بھی ارض کی اصطلاح استعمال کی ہے کیونکہ تمام معاشی وسائل کی ام (ماں) ارض ہی ہے۔) قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ارض کی تخلیق اور اس کے ذریعہ رزق ہونے میں تمہاری ہنر مندی کو کیا دخل ہے؟ یہی صورت پانی، حرارت، روشنی، ہوا، معدنیات وغیرہ کی ہے۔ قرآن نے اس بنیادی حقیقت کو اپنے مخصوص دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا اس کھیتی پر غور کرو جس کے حاصل کے تم واحد مالک بننا چاہتے ہو۔ (اَفَرَيْبْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ 56/63) تم اتنا ہی کرتے ہونا! کہ بل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو۔ اس کے بعد، کیا یہ قوت بھی تمہیں حاصل ہے کہ اس بیج کو زمین سے اگا کر پودا بنا دو؟ کیا یہ کچھ تم کرتے ہو یا ہمارا قانون کرتا ہے۔ جس پر تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں۔ (ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 56/64) اگر ہم اس کھیتی کو پروان نہ چڑھائیں اور اسے پکنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیں تو فصل کا گھر لے جانا تو ایک طرف، تمہاری محنت اور بیج کی قیمت بھی تم پر چٹی پڑ جائے۔ (كُوْنَسَاءٌ لِّحَعْلَنَّهُ حَطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝ اِنَّا لَمَغْرُمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ 56/65) اس سے آگے بڑھو اور اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری فصلوں اور خود تمہاری اپنی زندگی کا دار و مدار ہے۔ (اَفَرَيْبْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 56/68) کیا اس پانی کو تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہمارا قانون برساتا ہے۔ (ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ

مِنَ الْمُنْزِلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ (56/69) فرض کرو، ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ سورج کی شعاعیں عمل کشید سے صاف اور مقطر پانی اوپر لے جائیں اور سمندر کے تمام نمک (جس سے اس کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی زراعت کے کام آسکتا ہے) سمندر میں باقی رہ جائیں تو بتاؤ اس میں تم کیا کر لیتے؟ (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ (56/71) اور آگے بڑھے، اور اس آگ پر غور کیجئے جس پر کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اس میں حرارت تمہاری پیدا کردہ ہے یا ہماری؟ (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ (56/70) کیا یہ درخت تمہاری ہنر مندی سے پیدا ہوئے ہیں جن سے آگ روشن کی جاتی ہے؟ یا (أَفَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۝ (56/72) ذرا سوچو کہ اس سارے کاروبار میں تمہاری ہنر مندی اور کاریگری کا کتنا دخل ہے اور ہمارے کائناتی قانون ربوبیت کا کس قدر حصہ ہے؟

سوچو کہ

پالتا ہے بیج کوٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کون لایا کھینچ کر کچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب؟
 کس نے بھردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب
 موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟

یہ سب کچھ ہمارے قانون کا کیا ہوا ہے۔ اس میں تمہاری صرف محنت تھی۔ باقی سب کچھ ہمارا تھا۔ اب بات یوں ہوئی کہ ایک مشترکہ کاروبار تھا۔ جس میں محنت تمہاری تھی اور ہمارا سرمایہ (Capital) اس کاروبار کے منافع (پیداوار) کو اسی نسبت سے بانٹ لینا چاہیے۔ تم اپنی محنت کا معاوضہ لے لو اور ہمیں ہمارے سرمایہ کا حصہ دے دو۔ ہم نے اپنا حصہ، انسانیت کی ربوبیت عامہ کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ اس لئے اسے ان تک پہنچا دو۔ (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاقًا لِلْمُقْوِينَ ۝ (56/73) ہم نے اسے بھوکوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور اس طرح خدا کی ربوبیت عامہ (عظیم ربوبیت) کے قیام و استحکام میں سرگرم عمل رہو۔ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (56/74) اسی طرح سورہ عبس میں ہے کہ انسان ذرا اپنی خوراک پر غور کرے۔ جس پر اس کی

زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور سوچے کہ اس میں کس قدر حصہ اس کی کارگیری کا ہے اور کتنا حصہ ہمارا ہے۔ (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ 80/24) ہمارا قانون ربوبیت بارش برساتا ہے۔ پھر اسی قانون کے مطابق زمین پھٹی ہے اور اس میں سے کوئی پھوٹی ہے۔ پھر اس سے بالیں بنتی ہیں۔ اور ان میں دانے پڑتے ہیں۔ پھر اس طرح انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور اور طرح طرح کے پھلوں کے گھنے باغات اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ (31-80/25) یہ پھل اور چارہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی پرورش کے لئے (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نِعَامِيكُمْ 80/32) سورہ ق میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس طرح پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیئے۔ اور اس نظام زراعت و آب رسانی کے ذریعے طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں۔ اس نظام میں ہر شخص کے لئے جو اپنی توجہات کو اس طرف منعطف کرے گا، سامان بصیرت و تذکیر ہے (50/7-9) پھر ہم نے بادلوں سے مینہ برسایا۔ جس سے بڑے بڑے باغات اگائے اور کھیتی بھی۔ نیز کھجوروں کے تہ بہ تہ خوشے۔ یہ سب کچھ انسانوں کی پرورش کے لئے ہے۔ (رِزْقًا لِّلْعِبَادِ 50/10)

ان حقائق کو سامنے لانے کے بعد قرآن ایک سوال کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ بتاؤ کہ یہ تمام وسائل معیشت کس کے پیدا کردہ ہیں؟ (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ 67/21) اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ اس رزق کو روک لے تو تمہاری ہنرمندی کیا کرے؟ (إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ 67/21) اگر وہ (مثلاً پانی کو نیچے لے جائے اور سطح زمین سے اوپر نہ آنے دے تو تم کیا کر لو گے (67/30) وہ کہتا ہے کہ سوچو کہ یہ بات کس قدر صاف اور واضح ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ ہم نے بادلوں کو بلند کیا اور ان سے پانی برسایا۔ ہم نے اس میں سے پھل اور غذا کی دوسری چیزیں پیدا کیں (2/22) یہ سب کچھ تو ہم نے کیا لیکن تم ہو کہ بجائے اس کے کہ اس متاع (سامان معیشت) کو ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق استعمال میں لاؤ۔ اس قانون کی بجائے اپنے ہی قاعدے اور قانون بنا لیتے ہو اور رزق کی تقسیم ان کے مطابق کرنے لگ جاتے ہو؟

(فَلَا تَحْمِلُوا لِلَّهِ آثَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 2/22) اس تمام کاروبار میں تمہارا حصہ محنت کا ہے وہ تم لے لو، اور باقی حصہ ہمارے سرمائے کا ہے وہ ہمیں دے دو۔ (وَ أَتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ (6/141) سورہ حجر میں ہے کہ اس پیداوار میں صرف تمہارے لئے ہی سامان معیشت نہیں بلکہ ان کے لئے بھی ہے جن کے متعلق تم (بزعم خولیش اپنے معاشی نظام کے ماتحت) سمجھتے ہو کہ ان کا اس میں کچھ حق نہیں۔ (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۝ 15/20) ہم نے اس سامان معیشت کو تمام نوع انسانی (بلکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق) کے لئے وجہ ربوبیت بنایا ہے۔ (وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ 55/10) اور اس کے ساتھ ہی میزان خدا کا وہ ضابطہ قوانین جس کی رو سے رزق کی صحیح صحیح تقسیم ہوتی ہے اور معاشرہ کا توازن قائم رہتا ہے) بھی بھیجا ہے۔ اس لئے میزان کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور کسی کے حصے میں کمی بیشی نہ کرو۔ (وَأَقِيمُوا آلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ 55/9)

ان تمام تصریحات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی کہ وسائل پیداوار خدا کی بخشائش ہیں۔ جن کا مقصد تمام نوع انسانی کی ربوبیت ہے۔ اس لئے کسی کو حق نہیں کہ ان کی حد بندی کر کے انہیں اپنی ملکیت میں لے لے۔ (وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ 17/20) اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے بطور بخشش عطا ہوا ہے۔ اس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ اس کے گرد حصار نہیں کھینچا جاسکتا۔

زمین کی انفرادی ملکیت۔ یہ ظاہر ہے کہ ان معاشی وسائل میں جو خدا کی طرف سے بطور بخشش (تمام نوع انسانی کو مفت) عطا ہوئے ہیں زمین کی حیثیت بنیادی ہے۔ اس لئے زمین کے متعلق اور بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے عام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہئے۔ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورہ حم السجدہ میں ہے۔

قُلْ إِنَّا نَحْنُ رَبُّكُمْ لَنَكْفُرُنَّ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۝ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ 41/9

”ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس خدا کے قانون ربوبیت سے انکار کرنا چاہتے ہو۔ جس نے زمین کو دو مدارج میں پیداوار کے قابل بنایا۔ اس لئے کہ وہ تمام کائنات کا ربوبیت کرنے والا ہے۔ لیکن تم اور وہ کو بھی خدا کا ہمسر بنا دیتے ہو۔“ اس کے بعد ہے

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً

”اور اس نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ (تاکہ آبِ رسانی کا سلسلہ ٹھیک ٹھیک کام کرے) اور زمین میں فراوانی رزق کی استعداد پیدا کر دی۔ اور چار موسموں میں اس کی پیداوار کے اندازے مقرر کر دیئے۔ اسے تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہئے۔

یہ بنیادی ذریعہ پیداوار (زمین) خدا کی طرف سے بلا قیمت عطا ہے۔ تاکہ اس سے تمام نوع انسانی کی پرورش ہو سکے۔ زمین پر لکیریں کھینچ کھینچ کر اسے ذاتی ملکیت قرار دے لینا، خدا کے خلاف سرکش اور اس کے قانون ربوبیت سے بغاوت ہے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ تمام انسانوں کو یکساں طور پر ملا ہے۔ قرآن کی رو سے ان پر انفرادی ملکیت کا تصور ہی باطل ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، حرارت، زمین، سب انسانی زندگی اور اس کی پرورش کے اسباب و ذرائع ہیں جو خدا کی صفت ربوبیت کی وجہ سے مفت عطا ہوئے ہیں۔ انہیں انسانوں کی پرورش کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔“ (نظام ربوبیت 126-120)

اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”وسائل پیداوار۔ سوان کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ سب ”نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ“ ہیں۔ اس لئے ان پر کسی کے حق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم اسے ربوبیت عامہ کے لئے کھلا کیوں نہیں رکھتے۔ (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 57/10) کیونکہ ارض و سما کی ملکیت خدا ہی کی ہے تمہاری نہیں۔ (وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 57/10)“

(نظام ربوبیت 128)

اور آخر میں لکھتے ہیں۔

”لیکن اس تمام بحث کے باوجود ایک بنیادی نکتہ کو بھی سامنے رکھئے۔ مومن وہ ہے جو بطیب خاطر اسے اپنے دل کی کامل رضامندی سے، اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق پوری پوری محنت کرے اور اس کے ماہصل (اپنی کمائی) میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کے باقی نوع انسان کی نشوونما کے لئے عام کر

دے۔ حتیٰ کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس ”ایمان“ کے بعد اگر (بفرض مجال) اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جو کچھ ایک شخص کماتا ہے۔ وہ سب کا سب اس کی ذاتی ملکیت قرار پائیگا۔ تو جہاں تک ایک مومن کا تعلق ہے اس سے اصل مسئلہ پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب کچھ اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی ذاتی ملکیت کو اپنے دل کی پوری رضامندی سے نوع انسانی کی نشوونما کے لئے اپنے معاشرہ (نظام مملکت) کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسلام کا معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا، جماعت مومنین کے ضمن میں یہ سوال کچھ اہمیت نہیں رکھتا کہ ایک فرد کی محنت کا ما حاصل اسکی ذاتی ملکیت ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ ذاتی ملکیت ہو یا نہ ہو۔ انکے نزدیک وہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ جن کی ضروریات انکی محنت کے ما حاصل سے پوری نہیں ہوتیں۔ یہ اس مشکل ترین مسئلہ کا آسان ترین حل ہے۔

(نظام ربوبیت 134)

”کہیں انہیں محتاجوں اور غریبوں کو خفیہ اور علانیہ خیرات دینے کی تلقین کی جاتی ہے (2/271) اور کہیں حکم دیا جاتا ہے کہ دولت کو گردش دیتے رہو لیکن اس انداز سے کہ وہ اوپر ہی اوپر کے طبقہ میں نہ پھرتی رہے۔ (کسی لَا يَكُونُ دَوْلَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 59/7) کہیں انہیں دولت جمع کرنے کے ہلاکت انگیز عواقب سے ڈرایا جاتا ہے۔ (9/24) اور کہیں سود خواری کے نتائج سے متنبہ کیا جاتا ہے۔ (2/275) حقیقت یہ ہے کہ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو ان ہی تدریجی احکامات سے اس جماعت میں ایسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس میں ذاتی املاک اور جائیداد کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً دیکھئے

۱۔ زمین کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لئے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ (مَسْوَآتٍ لِّلسَّائِلِينَ) یعنی تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے یکساں طور پر کھلی رہے گی۔ لہذا زمین خرید خرید کر زمینداریاں اور جاگیرداریاں پیدا کرنے کا تصور ہی باقی نہیں رہتا۔

۲۔ جب زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ کرائے پر دینے کے لئے مکانات بنانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جب زمین ہی نہ ہوگی تو مکان کہاں بنایا جائے گا۔ مکان اپنی رہائش کے لئے درکار ہوگا۔ سو اس کی ذمہ داری خود معاشرہ نے لے رکھی ہے۔ نہ ہی زمین کو بنائی پر دینے کا

سوال پیدا ہوگا۔

۳۔ روپیہ جمع نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ نہ ہی اسے کسی خاص حلقے میں گردش دیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اپنی ضروریات کے لئے نہ ہی اسراف کیا جاسکتا ہے نہ تیزی۔ یعنی نہ زائد از ضرورت خرچ کیا جاسکتا ہے نہ بلا ضرورت۔

۵۔ کسی کو روپیہ قرض دے کر اس پر سود نہیں لیا جاسکتا۔

اب فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس زائد از ضرورت روپیہ ہو تو، ان احکام کی موجودگی میں وہ اس روپے کو کریگا کیا؟ یہ روپیہ تو اس کے لئے وبال جان بن جائے گا۔ کیونکہ (قرآنی احکام کی رو سے) اس روپے کے رکھنے (یا خرچ کرنے) کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روپے سے کارخانے لگائے جائیں۔ تجارت کی جائے۔ بہت اچھا! لیکن اس تجارت اور ان کارخانوں سے جو روپیہ آئے اسے کیا کیا جائے؟ بات پھر وہیں آجائے گی۔“

(نظام ربوبیت 155)

”قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کا پرورش کرنے والا ہے۔ (رب العلمین) زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ (11/6) یا یہ کہ تم لوگ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو۔ (فَحَسْبُ نَعْرُذُهُمْ وَاِيَّاكُمْ) (17/31) ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اور تمہاری اولاد کے بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان سب کے رزق کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنا چاہئے۔ لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان بھوکے مرتے ہیں۔ ایک ایک قحط میں لاکھوں جانیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے تلف ہو جاتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو محض غذا نہ ملنے (یا کم ملنے) کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسان (معاذ اللہ) اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ خدا کی ذمہ داری اچھی ہے۔ جو اس قدر مخلوق بھوکوں مر جاتی ہے۔ لیکن ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان ذمہ داریوں کو براہ راست پورا کرتا ہے۔ یہ پوری ہوتی ہیں معاشرہ کے ہاتھوں۔ اگر معاشرہ، ضابطہء خداوندی کے مطابق متشکل ہوتا ہے تو اللہ کی یہ تمام ذمہ داریاں پوری ہوتی جاتی ہیں۔ اور اس طرح انسان دیکھ

لیتا ہے کہ وہ کس طرح **وَبِ شَيْءٍ** ہر شے کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر معاشرہ غیر خداوندی خطوط پر متشکل ہو تو اس کا (6/165) نتیجہ ربوبیت عامہ نہیں ہوتا۔“

(نظام ربوبیت 159)

خارجی کائنات میں خدا کی ربوبیت خدا کے قانون کائنات کی رو سے از خود کار فرما ہوتی جاتی ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ ربوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ جو نظام (حکومت) خدا کے نام سے قائم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر پر لیتا ہے جو خدا کی طرف منسوب ہیں۔ اور اس کے بدلے میں افراد معاشرہ وہ تمام فرائض و واجبات پورے کرتے رہتے ہیں جن کا عہد انہوں نے اپنے خدا سے کر رکھا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ اس نظام کی اطاعت کے اس وقت تک مکلف ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ ان تصریحات کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ **وَمَسَامِينُ ذَاتِ بِيَدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** (11/6)، زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہیں۔ یہ ذمہ داری اس معاشرہ کے سر ہوگی جو خدا کے قانون کے مطابق متشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری پرورش کا سامان اس طرح کر دیا جائے۔ تو پھر تم رزق سمیٹ کر جمع کیوں کرو، تم اسی لئے جمع رکھنا چاہتے تھے کہ کل کو وقت پڑنے پر وہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ لیکن جب تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں معاشرہ اپنے سر لے لے تو تمہیں جمع کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ **(نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا لَحَكِيمٌ)** (17/31) ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔ تم اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں کمانے کی استطاعت نہ رہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس وقت تمہاری اور ان کی پرورش کا کیا انتظام ہوگا۔ (2/266) لیکن اس نظام ربوبیت میں اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ہر ایک کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔“

(نظام ربوبیت 159-160)

”اس کے برعکس، دوسرا معاشرہ ہے جس میں ہر فرد معاشرہ کی اپنی اور اس کی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری معاشرہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس میں کسی شخص کو اپنے مستقبل کے متعلق

کوئی عدم اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ دل کے پورے اطمینان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور چین کی نیند سوتا ہے۔ اسے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہ چوری کرنے کی حاجت، نہ فریب دینے کی ضرورت ہے نہ بددیانتی کرنے کی مجبوری۔ یہ ہے وہ معاشرہ جو اس نئی جماعت کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کو مستقبل کی فکر سستانی ہے اور نہ ہی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میری محنت کا ماحصل، اس طبقہ کی عیش پرستیوں کی نذر ہو جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں معاشرہ کا نظم و نسق ہے۔ نظام ربوبیت میں اس قسم کا کوئی طبقہ ہی نہیں ہوتا۔ اربابِ نظم و نسق بھی اسی قانون اور فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ جس پر دوسرے افراد معاشرہ کا مزین ہوتے ہیں۔ اس میں اربابِ حل و عقد کو عملاً بتانا ہوتا ہے کہ (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوْنَ ۝ 51/57) ہم افراد معاشرہ کے ذمے کچھ کام ہیں۔ اسی طرح ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہیں۔ اور جس طرح دیگر افراد معاشرہ کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہے۔ اسی طرح ہماری ضروریات کا پورا کرنا بھی معاشرے کے ذمے ہے۔ ہم میں اور دیگر افراد معاشرہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم اپنے لئے کوئی خاص معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہمارا معاوضہ بھی اسی طرح خدا کے ذمے ہے۔ جس طرح دوسرے افراد کا (فَمَا سَأَلْتَهُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۝ 10/72) ہم بھی دیگر افراد معاشرہ کے ساتھ اس نظام ربوبیت کے اجزا ہیں۔ (وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ 10/72)“ (نظام ربوبیت 161)

”تجارت میں نفع۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی سامنے آگئی کہ جب نظام ربوبیت میں تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ کے سر پر ہوگی۔ اور اس طرح نہ کسی کو روپیہ اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہوگی نہ جائیداد کی ذاتی ملکیت کی حاجت، تو اس وقت تجارت میں نفع لینے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ نفع تو ایک طرف، اس وقت تجارت کا موجودہ نظریہ ہی بدل جائے گا۔ اس وقت چیزیں تیار کرنے والے انہیں تیار کرتے جائیں گے۔ اور جنہیں ان کے استعمال کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچا دی جائیں گی۔ چیزیں بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں دونوں کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہوگی۔ ہمارا موجودہ معاشرہ اپنی پیدا کردہ مصیبتوں سے تنگ آ کر زیادہ سے زیادہ یہ سوچتا ہے کہ نقدی کے مبادلے کی بجائے، اجناس کا مبادلہ (Barter System) بہتر ہو سکتا

ہے۔ اس باب میں کہا یہ جاتا ہے کہ

”مبادلے کے عدل کے یہ معنی ہیں کہ جن چیزوں کا تبادلہ کیا جائے۔ ان کی قیمتیں برابر ہوں۔“
لیکن اس کے بعد وقت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کیسے متعین کیا جائے۔ مثلاً موچی نے جو تیار کیا۔ وہ اسے گیہوں کے عوض فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے متعین کیا جائے کہ کس قدر گیہوں کی قیمت جو تے کی قیمت کے برابر ہے؟ لیکن جس معاشرہ میں موچی اور کسان دونوں کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو، اس میں ”قیمت“ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وہاں سوال ہوگا ضرورت کا۔ اس لئے قرآنی نظام ربوبیت میں ”تجارت“ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس میں تجارت سے دراصل مراد ہوگا۔ اشیائے ضروریہ کی مناسب تقسیم کا انتظام۔ اس نظام کے کارندوں کی ضروریات زندگی معاشرہ (نظام مملکت) کی طرف سے مہیا ہوتی رہیں گی۔ اسی کو ان کا ”منافع“ کہہ لیجئے۔

اسی طرح اس نظام میں کام کرنے والوں (موجودہ اصطلاح میں محنت کشوں، مزدوروں) کی اجرتیں مقرر کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی استعداد کے مطابق وہ کام کریں گے۔ جو انہیں تفویض کیا جائے گا۔ اور معاشرہ انکی ضروریات پوری کرتا جائے گا۔ یہی ان کی محنت کا معاوضہ ہوگا۔“ (نظام ربوبیت 162-163)

”حضور کے دور میں۔ میں نے جو کچھ گذشتہ صفحات میں لکھا ہے (اور جو کچھ اس کے بعد آئے گا) اس میں آپ نے ایک چیز کو نمایاں طور پر محسوس کیا ہوگا۔ اور وہ یہ کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کی سند میں صرف قرآن کی آیات پیش کی ہیں۔ تاریخ اور روایات سے کچھ نہیں لکھا۔ (حتیٰ کہ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ نبی اکرمؐ نے جس نظام ربوبیت کو متشکل فرمایا اس کے تفصیلی خط وخال کیا تھے اور وہ کب تک علیٰ حالہ قائم رہا) اس کی یہ وجہ نہیں کہ تاریخ و روایات میں قرآنی نظام ربوبیت کی تائید میں کچھ نہیں ملتا۔ تفحص و تجسس سے ان میں، اس کی تائید میں شہادت مل سکتی ہیں۔ لیکن ان تاریخی روایات کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں جہاں کسی مسئلہ کی تائید میں کچھ ملتا ہے وہاں اس کی تردید میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔“ (نظام ربوبیت 189)

فکر پرویز اور قرآن 286 __ معاشی نظام

”ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کو یہ تسلیم ہے کہ جو کچھ ان صفحات میں لکھا گیا ہے۔ وہ قرآن کی رو سے صحیح ہے تو اس کے بعد یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ نبی اکرمؐ نے اسی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل فرمائی ہوگی۔“
(نظام ربوبیت 190)

”ہم نے دیکھا کہ قرآن کی رو سے

۱۔ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے۔ (اس کی عملی شکل کیا ہوگی۔ اس کا فیصلہ وہ نظام کرے گا۔)

۲۔ عفو، یعنی ضرورت سے زائد، فرد متعلقہ کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ اسے ربوبیت عامہ کے لئے کھلا رہنا چاہیے۔ (یہ الگ بات ہے کہ اسلامی نظام ان زوائد کو فرد کی تحویل میں رہنے دے اور صرف عند الضرورت انہیں طلب کرے یا سابقہ کے ساتھ ہی اپنی تحویل میں لیتا جائے۔)

۳۔ ”ذاتی ملکیت“ اگر ہو سکتی ہے تو روزمرہ کی عام مستعملہ اشیاء میں ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی فرد کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوگی کہ وہ ان اشیاء کو فروخت کرے۔ اس لئے ”ملکیت“ عملاً استعمال تک محدود رہ جائے گی۔ یہی اشیاء بطور ترکہ آگے منتقل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ، اس کی اولاد اس ترکہ کی بھی محتاج نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی تمام ضروریات معاشرہ خود پوری کر رہا ہوگا۔“
(نظام ربوبیت 195)

”قرآن کا انتہی۔ اس قسم کے معاشرے کی تشکیل جس میں۔

۱۔ تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کفیل خود معاشرہ ہو۔

۲۔ کسی فرد کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور اس طرح

۳۔ عقل کے تقاضوں کی تسکین کے بعد، انسان پورے جذب و انہماک سے نوع انسانی کی بہبودگی میں مصروف ہو جائے اور اس سے اس کی ذات کی تربیت و استحکام ہوتا جائے۔“

(نظام ربوبیت 223)

یہ تھا پرویز صاحب کے نزدیک قرآن کریم کا بیان کردہ معاشی نظام۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں ہی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ رزق کی ذمہ داری نظام مملکت پر۔ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ تمام ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر ہے۔ اور جو چیزیں اللہ نے قرآن میں خاص اپنے لیے وقف کی ہیں ان کو قرآنی معاشرہ پورا کرتا ہے اور ان مقامات پر اللہ یا رسول کا مطلب ”نظام مملکت“ ہے۔ اس سلسلہ میں وہ دو آیات قرآنیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں 11/6 اور 6/151۔ مگر یہ پرویز صاحب کا انداز ہے کہ وہ پوری آیت درج نہیں کرتے اور آیات کے ٹکڑوں کو بنیاد بنا کر ان پر بہت بڑے فلسفہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہم ان آیات کو پورا درج کرتے ہیں۔

☆ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ؕ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ؕ (6/151)

”آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمادیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھیراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ ہاں مگر حق کے ساتھ، اس کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

☆ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ؕ (17/31)

”اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو! ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔“

یہ تھے وہ احکام جن میں سے ایک ٹکڑا لے کر پرویز صاحب نے یہ نظریہ قائم کیا کہ رزق کی ذمہ داری نظام مملکت کے ذمہ ہے۔ حالانکہ اس ٹکڑے میں ”نَحْنُ“ کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس وقت کی بات ہے جب نبی کریمؐ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو منع کیا

جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اگر کسی ”نظام مملکت“ کی بات ہوتی تو پھر تو ہر فرد کو یقین ہوتا کہ ”نظام مملکت“ کی ذمہ داری رزق مہیا کرنا ہے تو وہ قتل ہی کیوں کرتا؟ مگر پرویز صاحب کے بقول وہ نظام تو اپنی مکمل شکل میں حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں جا کر مکمل ہوا۔

☆ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (11/6)

”زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ وہی ان کے رہنے سہنے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔“

صرف ایک ٹکڑے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ رزق کی ذمہ داری نظام مملکت کی ہے درست تصور نہیں۔ کیونکہ بعد والا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کے مستقر اور مستودع کو۔ اگر نظام مملکت تمام ذی حیات کے رزق کا ذمہ دار ہے تو کیا نظام مملکت ہر چیز کے مستقر اور مستودع کو بھی جانتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔

ذی حیات تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہے۔ ایسے مقامات جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ جیسے سمندر کی گہرائیاں، فضا کی بلندیاں، پہاڑوں کے اوپر اور ان کے اندر بسنے والی مخلوق، دور دراز گھنے جنگلات، صحرا، دشت اور انٹارکٹیکا جیسے جگہ ہونے پر اعظم اور ان سب مقامات پر بسنے والی مخلوق کا رازق تو اللہ ہی ہو سکتا ہے یہ نظام مملکت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں جاسکتا۔ کیونکہ بات صرف انسانوں کی نہیں۔ ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ“ کی ہورہی ہے۔

نیز نظام مملکت کے خدو خال، اس کی ہیئت اور بنیادی ڈھانچے کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی واضح ہدایات نہیں دیں۔ اس نے تو صرف اتنا کہا کہ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرَابِ“ اگر اتنا اہم معاملہ ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ زمین پر رزق کا ذمہ دار قرآنی معاشرہ ہی ہوگا۔ بلکہ آگے آنے والے حصہ میں یہ واضح طور پر بتایا جائے گا کہ کس طرح رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ اور کسی کو کم کسی کو زیادہ دے دیا ہے تاکہ ان کو آزمائے۔

زمین کی انفرادی ملکیت۔ اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ زمین کی انفرادی ملکیت نہیں رکھی جاسکتی۔ آئیے اس بارے میں کچھ آیات قرآنیہ دیکھتے ہیں۔

☆ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ه 2/107

”کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔“

☆ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط 2/284

”آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔“

☆ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْر ه 3/109

”اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔“

☆ وَلِلّٰهِ مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر ه 3/180

”آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔“

ان تمام آیات میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہی ان کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب مزید دیکھئے۔

☆ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اَسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاَصْبِرُوْا ۗ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ نَف لَّا يُورِثُهَا مَنۢ يَّشَآءُ مِّنۢ عِبَادِهٖ ط وَالْعٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ه 7/128

”اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ بے شک زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے۔ اور اخیر کامیابی تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔“

☆ وَاَلْقَدْ كَتَبْنَا فِى الزُّبُوْرِ مِّنۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصّٰلِحُوْنَ ه 21/105

”ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی

ہونگے۔“

لیجئے قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں ہے۔ صرف **الْأَرْضُ لِلّٰہِ** کہہ کر تو اس بات کی دلیل نہیں دی جاسکتی۔ پھر پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ زمین اور دیگر ملکیتی چیزیں مملکت کی تحویل میں دے دی جائیں۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے ہر فرد زندگی میں کبھی غریب ہوتا ہے اور کبھی امیر۔ بعض صد امیر رہتے ہیں بعض غریب۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے حالات بدلتا رہتا ہے۔ تاکہ اللہ آزمائے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔

ہاں جن لوگوں نے انگریزوں سے وفاداری کے عوض بڑی بڑی جاگیریں لی ہیں یا وہ جو لمبی مدت کے لیے بڑی جاگیریں حکومت سے لیز پر حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حکومت قانون سازی کر کے ان کے لیے زمین کی حدود متعین کر سکتی ہے۔ مگر ان کو زمین کے انفرادی ملکیت کے حق سے محروم کرنا یکسر غیر قرآنی فعل ہوگا۔

☆ **وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ لَهَا فِيهَا فَاكِهِةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ه وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ه قِيَابِي الْآءِ رَبِّمَا تُكْذِبِينَ ه** (55/10-13)

”اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے۔ اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمت کا انکار کرو گے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنی قدرت اور اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کس طرح سے ان انعامات کا انکار کر سکتے ہو۔ مگر اس میں بھی پرویز صاحب نے پہلی آیت لے کر یہ تعین کر لیا کہ زمین کی انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی۔

اب ایک اہم نکتہ آتا ہے۔ جس کے بارے میں پرویز صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ واقعات بیان کئے ہیں۔ جو عہد فاروقی کی فتوحات کے بعد بڑی تعداد میں زمینوں کا اسلامی خلافت کے زیر قبضہ آجانا ہے۔ اور ان کی تقسیم کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سارے قصے کا انجام

پرویز صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر کے کیا ہے۔ ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ 59/10“ اور اس طرح اس دلیل کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زمینیں مملکت کی تحویل میں رہیں گی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی حق محفوظ رہ سکے۔ (واضح رہے کہ جو گفتگو پرویز صاحب نے پیش کی ہے۔ خلاف معمول اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔)

اس بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ ”جس انقلاب کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی وہ عہد فاروقی میں کئی منزلیں آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جہاں اراضیات کو مملکت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔“ حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اس وقت عمر فاروقؓ نے مکہ، مدینہ، طائف، اور دیگر علاقوں کی زمینیں سرکاری تحویل میں نہیں لی تھیں۔ اور ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ زمین کی انفرادی ملکیت از روئے اسلامی معاشی نظام غلط ہے۔ اور اصل معاملہ سوادِ عراق کی زمینوں کے بارے میں تھا جس پر لوگوں نے کہا کہ یہ زمینیں بھی ان میں تقسیم کر دی جائیں۔ مگر عمر فاروقؓ تیار نہ ہوئے۔ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فوجی چھاؤنیوں کی تعمیر اور مملکت کے دیگر اخراجات کے لیے ضروری ہے کہ یہ زمینیں انفرادی ملکیت میں نہ دی جائیں۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ اقتباسات ملاحظہ کرتے ہیں

۱۔ جریر بن عبداللہ، بجیلہ کے ساتھ السراة سے آئے۔ اور درخواست کی کہ میں العراق جانے کو تیار ہوں۔ مجھے اور میری قوم کو فتوح کا چوتھائی دیا جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے یہ شرط قبول کر لی۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 365)

۲۔ حضرت عمر فاروقؓ نے جریر بن عبداللہ کو ابو عبید کے شہید ہونے کے بعد، جنہیں پہلے بھیجا تھا۔ الکووفہ بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم العراق جانا پسند کرو گے؟ اگر تمہیں شمس نکالنے کے بعد تیسرا حصہ دیا جائے۔ کہا! ہاں۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 365)

۳۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے السواد فتح کر لیا تو لوگوں نے کہا اس کو ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ کیونکہ ہم نے بزور فتح کیا ہے۔ انہوں نے تقسیم کرنے سے انکار کیا۔ اور کہا۔ پھر ان مسلمانوں کے لیے کیا رہے گا جو تمہارے بعد آئیں گے؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو تقسیم کر دوں تو پھر تم آپس میں پانی پر بھی فساد کرو گے؟

راوی نے کہا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اہل سواد کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا۔ ان کے سروں پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کیا۔ اور اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا۔
(بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 385)

۴۔ حضرت عمر فاروقؓ نے السواد کا علاقہ ان لوگوں کے لیے محفوظ رکھا جو مردوں کی صلب اور عورتوں کے رحم میں ہیں۔ اور اہل سواد کو بھی ذمی قرار دیا۔ ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کی زمینوں پر خراج ہے۔ وہ ذمی ہیں۔ ان کے لیے بند غلامی نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا۔ ولید بن عبد الملک نے اہل سواد کو، فی قرار دینا چاہا تھا۔ لیکن میں نے اس کو حضرت عمر فاروقؓ کے طرز عمل کی خبر دی۔ جو انھوں نے اس باب میں اختیار کیا تھا۔ اور اللہ نے اس کو ان کے ساتھ ایسا کرنے سے باز رکھا۔ مجھ سے حسین بن الاسود نے بیان کیا انھوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابوا سحاق نے، اور ان سے حارثہ بن مضرب نے کہ:- حضرت عمر فاروقؓ نے مسلمانوں کے درمیان السواد تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، اور حکم دیا کہ اس کی مردم شماری کی جائے۔

مردم شماری کی گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک ایک مسلمان کے حصے میں تین تین کسان پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے اصحاب رسولؐ سے مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ نے کہا نہیں آزاد چھوڑ دو کہ وہ مسلمانوں کے لیے آمدنی کا مستقل ذریعہ رہیں۔ حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیف الانصاری کو بھیجا۔ اور انہوں نے اہل العراق پراڑتالیس یا چوبیس یا بارہ (درہم) فی کس کے حساب سے خراج مقرر کر دیا۔

ہم سے ابونصر التمار نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے شریک نے بیان کیا۔ ان سے صلح نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے، ان سے ثعلبہ بن یزید نے اور ان سے حضرت علیؓ نے کہ اگر تم ایک دوسرے کا منہ پیٹنے والے (یعنی آپس میں لڑنے والے) نہ ہوتے تو میں السواد تم میں تقسیم کر دیتا۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 382-383)

اور اس طرح سواد عراق کا علاقہ مفتوحہ لوگوں کے قبضہ میں ہی رکھا گیا اور ان زمینوں کی آمدنی سے ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی عمر فاروقؓ نے کہا کہ اگر ان کو اپنے پیچھے لوگوں کے

لڑنے کا ڈرنہ ہوتا تو وہ یہ زمینیں بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ عمر فاروقؓ مختلف لوگوں کو ترغیب دیتے رہے ہیں کہ فلاں علاقے پر حملہ کریں اور زمین کا ربع یا ثلث ان کی ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس طرح مختلف علاقے لوگوں نے فتح کئے۔ اور اپنے حصے کی زمینیں وصول کیں۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے ذہن میں ہرگز یہ نہیں تھا کہ زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں ہے۔ یا یہ کہ زمینوں کو سرکاری تحویل میں لے لینا ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ کہ اس وقت پہلے سے لوگوں کے پاس جو زمینیں موجود تھیں وہ خلیفہ نے ہرگز ان سے نہیں چھینیں۔ اس بارے میں پرویز صاحب نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ آخر مکہ، مدینہ، طائف اور دیگر علاقے اسلامی خلافت کا حصہ تھے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں کے لوگ زمین کی ذاتی ملکیت کا حق رکھیں اور سو اید عراق کے لوگ اپنی زمین سرکاری تحویل میں دے دیں؟ اب آتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے کی طرف، ہم بتاتے چلیں کہ یہ ٹکڑا مال فے کی تقسیم سے متعلق آیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہ مال جو بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ عراق اور شام تو باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے جہاد کر کے ہی حاصل کئے تھے۔ اب ہم وہ ساری آیات جو مال فے سے متعلقہ ہیں یہاں درج کرتے ہیں تاکہ جو ٹکڑا پرویز صاحب نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس کا مفہوم متعین ہو سکے۔

☆ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَكَفَىٰ لَكُمْ فِي صَدَقَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَاءٌ ۝ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَكَفَىٰ لَكُمْ فِي صَدَقَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَاءٌ ۝ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَكَفَىٰ لَكُمْ فِي صَدَقَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَاءٌ ۝ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَكَفَىٰ لَكُمْ فِي صَدَقَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَاءٌ ۝

حَصَاةٌ فَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (10-6/59)

”اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے۔ جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے۔ اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال نہ رہ جائے۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے، لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (فے کا مال) ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہوں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلبگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اپنی طرف سے ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے۔ بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی سخت حاجت ہو۔ اور جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچیں وہی کامیاب ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات میں مال فے کا مصرف آیت نمبر 8 تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 9 سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے آیت نمبر 10 میں بھی ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 9 میں وَالَّذِينَ كَانُوا يُحِبُّونَ ہے اور آیت نمبر 10 میں وَالَّذِينَ كَانُوا يُحِبُّونَ ہے۔ مال فے کے حصہ داروں کے لیے (ل) کا لفظ آ رہا ہے۔ لِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْقَرُونَ ۗ
 الْمُهَاجِرِينَ۔

اور یہی انداز وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔

☆ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مِثْلُ مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّهُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّهُوسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

(4/11)

اس لیے پرویز صاحب کی یہ دلیل غلط ہے کہ صرف وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ کہہ اس بات کا تعین کر دینا کہ زمین ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتی۔ پوری آیت کو پڑھیں تو آیت کا سیاق و سباق اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔

اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ مال نے کا ایک حصہ ”وَلِذِي الْقُرْبَىٰ“ ہے۔ اب یہ کس کے قرابت دار ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ مال لوگوں کو دیا جائے گا تو پھر وہ اسے قرابت والوں کو دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی ”تاکہ دولت تم امیروں کے درمیان ہی نہ رہ جائے۔“ اور پھر اس کے ساتھ ہی کہہ دیا ”اس لیے جو رسول تم کو دے دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔“ اس کے باوجود بھی ذاتی ملکیت کی نفی کرنا غیر منطقی ہے۔

☆ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْأَحْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ (8/41)

”جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو۔ اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے۔ اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے۔ جو دن حق و باطل کی جدائی کا

تھا۔ جس دن دونو جیس بھڑگئی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

متذکرہ بالا واضح احکام کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ذاتی ملکیت کفر اور شرک ہے۔ بالکل غلط ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلم ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ اور فتح مکہ اور اس کے بعد آنے والی خلافت راشدہ کی فتوحات میں اسلامی ریاست بہت زیادہ رقبہ پر پھیل چکی تھی۔ لیکن اس تمام دور میں ان احکام کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی ذاتی ملکیت کی نفی میں کوئی حکم جاری کیا گیا۔ وگرنہ فتح مکہ کے بعد تو لازمی طور پر ایسا حکم دے دیا جاتا۔ اس کے بعد جس طرح کی بحث پرویز صاحب نے خلیفہ دوم سیدنا عمرؓ کے حوالے سے کی ہے۔ (اس بارے میں وحید الدین خاں صاحب نے ”سوشلزم اور اسلام“ میں پرویز صاحب کے موقف کو قوی دلائل سے غلط ثابت کیا ہے۔) اس تصور کے خلاف صحابہ کا رد عمل بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں پہلے ایسا کوئی تصور نہیں تھا وگرنہ وہ اسلام کے تصور ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایسی بحث نہ کرتے اور چپ چاپ ذاتی ملکیت کے حق سے دستبردار ہو جاتے۔ علاوہ ازیں وہ مسئلہ نئی فتح شدہ زمینوں (عراق و شام) کے حوالے سے تھا۔ اس سلسلہ میں ان کے پاس پہلے سے جو زمینیں موجود تھیں ان کے بارے میں قطعاً یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان کو حکومت وقت اپنی تحویل میں لے رہی ہے۔

أَرْضُ اللَّهِ۔ اب آئیے ایک اور لفظ کی طرف یعنی أَرْضُ اللَّهِ، اس لفظ کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ زمین کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ آئیے دیکھتے ہیں ”ان اصولوں میں سرفہرست یہ اصول ہے کہ ذرائع پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ زمانہ نزول قرآن میں، ذریعہ پیداوار زمین تھی۔ انڈسٹری (صنعت کاری یا نظام کارخانہ داری) ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ذریعہ پیداوار اپنی اصل کے اعتبار سے، زمین ہی ہے۔ اسی کی پیداوار ہے جسے کارخانے مختلف شکلوں میں ڈھالتے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے نہایت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ زمین خدا کی ملکیت ہے۔ اس لئے اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے، اس اصول کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جس چیز کو قرآن ”خدا کی ملکیت“ کہتا ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نوع انسان کے فائدے کے

لیے ہے۔ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کو اس نے ایک تاریخی واقعہ سے نہایت بصیرت افروز انداز سے واضح کیا ہے۔ قوم ثمود کے زمانہ میں معاش کا دار و مدار گہ بانی (مویثی پالنے) پر تھا۔ قوم کے مستبد سرداروں نے چراگا ہوں اور چشموں پر قبضہ کر کے، کمزور انسانوں کے مویثیوں کو ان سے متمتع ہونے سے محروم کر رکھا تھا۔ ان کے اس نظام کو توڑنے کے لئے آسمانی انقلاب کے داعی، خدا کے رسول حضرت صالحؑ اٹھے۔ کافی جدوجہد کے بعد، ان کے مخالفین اس پر رضامند ہو گئے کہ چراگا ہیں اور چشمے تمام مویثیوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہیں۔ لیکن حضرت صالحؑ نے کہا کہ جب تک اس معاہدہ کا عملی ثبوت سامنے نہ آجائے، یقین نہیں کیا جاسکتا کہ تم اس پر قائم رہو گے۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ یہ ایک اونٹنی ہے۔ **هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ**، اس کے متعلق یہ نہ سمجھو کہ یہ زید کی، بکر کی، امیر کی، غریب کی اونٹنی ہے۔ اس کے متعلق بس یہ سمجھو کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے۔ **فَلذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ** (11/64)، یہ خدا کی اونٹنی ہے اور یہ خدا کی زمین ہے۔ اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ خدا کی زمین میں چرے پگے۔“

(نظام ربوبیت 279-280)

اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”یعنی **الْأَرْضُ لِلَّهِ** کہنے سے مقصود، خدا کی شان ملکوتی کا اظہار نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہ سمجھنا (یعنی کسی انسان کو زمین کے رقبے کا مالک قرار دینا) کفر ہے۔ شرک ہے۔ **فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا** (2/22)، سوائے مسلمانوں! دیکھنا تم خدا کے شریک اور ہمسرنہ کھڑے کر دینا۔“ (نظام ربوبیت 280-281)

لیجئے پرویز صاحب نے تو زمین کی ذاتی ملکیت تسلیم کرنے والوں کو کافر و مشرک بھی قرار دے دیا۔ اور اوپر کا جو واقعہ (قوم ثمود) کے بارے میں بیان کیا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ پرویز صاحب کا ذاتی تصور ہے۔ نہ تو قرآن کریم نے ایسی تفصیل بیان کی ہے۔ اور نہ ہی اس کے لیے پرویز صاحب نے کوئی حوالہ (قرآن کریم اور تاریخ سے) دیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی آیات دیکھتے ہیں کہ قوم ثمود کے ساتھ اصل معاملہ کیا تھا۔

☆ **وَالِی تَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِیْحًا ۚ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَکُمْ مِنْ آلَهِ غَیْرَہ ۗ هُوَ أَنشَأَکُمْ**

مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ۚ قَالُوا
يُضِلُّكَ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَآنَا لَنَبِيُّ شَكِّ مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ
يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ نَفَّ مَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۚ وَ يَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ
فَلذُرْوَاهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۚ

(11/61-64)

”اور قوم شہود کی طرف ان کے بھائی صالحؑ کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ پس تم اس سے معافی طلب کرو۔ اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالحؑ! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے۔ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے۔ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو۔ پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے! تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم! یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح ایذا نہ پہنچاؤ۔ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑے گا۔“

یہاں تو بات ہی ساری عبادت کی ہو رہی ہے۔ اور حضرت صالحؑ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے سوا اور معبود کیوں بنا رکھا ہے۔ جبکہ قوم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں ہی کی پیروی پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد ’اونٹنی‘ صرف ایک معجزہ کے طور پر بھیجی گئی۔ اس سے قطعاً یہ پہلو نہیں نکلتا کہ زمین کی ذاتی ملکیت پر کوئی روک لگائی جا رہی ہے۔ اور صرف الْأَرْضِ لِلَّهِ، کہہ کر یہ ثابت کرنا کہ زمین کی ذاتی ملکیت سمجھنا کفر و شرک

ہے۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے **وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** (2/286) اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکال لے کہ انسان زمین تو کیا کسی بھی چیز کو ذاتی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو پھر جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کہیں سے بھی اٹھا کر استعمال کر لے۔ اس سے تو صرف فساد ہی پیدا ہوگا۔

پرویز صاحب نے قرآن کریم سے کوئی ایسا واضح حکم بطور حوالہ پیش نہیں کیا۔ جس سے یہ طے ہو جاتا کہ زمین کی ذاتی ملکیت رکھنا خلاف قرآن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں۔ **اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ**، مگر آیت کا اگلا ٹکڑا بیان نہیں کرتے **يُؤْتِيْهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ** (7/128)، اللہ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔

وصیت، انفاق، صدقات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر ذاتی ملکیت حرام ہے تو پھر زکوٰۃ، صدقات، انفاق اور وراثت کے احکام کا کیا کیا جائے۔ کیونکہ ان تمام احکامات کے مطابق جو کہ قرآن کریم کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ پرویز صاحب کے تصور ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پہلا ہی ورق کھولیں تو لکھا ہے۔ **وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ** (2/3)، اور وہ ہمارے دیئے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بے شمار جگہوں پر کہا **يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ** (2/273, 2/265, 2/261-262) اور پھر کہا **وَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ** (51/19)، اور **وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ مِّنْ لَّا یَلْسَاۤءِلِ وَالْمَحْرُوْمِ** (70/24-25)، اور جن کے مال میں حق ہے سوال کرنے والے اور محروم کا۔ ان تمام آیات پر غور کیجئے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو تو اللہ نے مالک بنایا مال کا **اَمْوَالَهُمْ** یا **اَمْوَالِهِمْ**، کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مالک ہیں اس مال کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی راہ میں یہ مال خرچ کرو۔

پرویز صاحب نے تو ایک سطر میں اس مسئلہ کا حل یہ نکالا کہ یہ احکام عبوری دور سے متعلق ہیں۔ آئیے اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر جانتے ہیں۔

”ان حالات میں آپ خود سوچ لیجئے کہ ایسے معاشرے میں صدقہ و خیرات، بیع و شری، اور وصیت و وراثت کے احکام کی ضرورت کہاں پیش آئے گی۔ یہ سب احکام عبوری دور میں ساتھ چلیں گے اور جوں جوں معاشرہ، نظام ربوبیت سے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ احکام پیچھے کو ہٹ سکتے جائیں گے۔“
(نظام ربوبیت 195-196)

اسی صفحہ کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں۔

”وراثت کے متعلق تو قرآن نے بالتصریح فرمایا ہے کہ محنت و مشقت کئے بغیر، محض باپ کے ترکہ سے دولت مند بن جانا سرمایہ پرستی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ وہ سورہ الفجر میں واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ مفاد پرستوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ **وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا** (89/19) وہ میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کی رو سے میراث کے احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں۔ جس میں ہنوز اس کا نظام ربوبیت قائم نہ ہوا ہو۔ جس چیز کو وہ مفاد پرستوں کا مسلک قرار دے کر اس بری طرح لتاڑتا ہے، اسے وہ کس طرح ربانیوں کا مسلک قرار دے سکتا ہے۔“

مزید آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”اس سے ظاہر ہے کہ یہ احکام اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک صحیح قرآنی نظام وجود میں نہیں آجاتا۔ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تو اس وقت وہی مسلک ہوگا جس کی طرف نبی اکرمؐ نے یہ کہہ کر اشارہ فرمادیا۔ (نحن معشر الانبياء لا نورث) انبیاء کا گروہ وراثت نہیں چھوڑا کرتا اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز انبیاء کے لیے جائز نہ ہوگی وہ مومنین کے لیے کس طرح جائز ہوگی۔“

اوپر کے پیرا میں پرویز صاحب نے لکھا کہ ”قرآن نے بالتصریح فرمایا ہے کہ محنت و مشقت کئے بغیر محض باپ کے ترکہ سے دولت مند بن جانا سرمایہ پرستی کی بنیاد ہے۔“ اب دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے

☆ **لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِثْلَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا** (4/7)

”ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی خواہ وہ مال

کم ہو یا زیادہ۔ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔“

☆ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ط وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ه (4/33)

”ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ میں اسکے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انھیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔“
لیجئے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے۔ اب جو آیت پرویز صاحب پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔

☆ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ وَلَا تَأْكُلُونَ الرِّثَاءَ أَكْلًا نَّهًا ۚ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ه (89/17-20)

”ہرگز نہیں۔ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اور مسکین کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو۔ اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔“

اب اس میں مال جمع کرنے اور عزیز رکھنے کی وعید سنائی گئی ہے اور یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اسے یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی خرچ کرنا چاہئے۔ جبکہ وراثت کے جو حق ہیں ان سے قطعاً منع نہیں کیا گیا۔

اب ہم وراثت کے بارے میں کچھ آیات بیان کرتے ہیں۔

☆ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الصَّلَاةَ الصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَقْنَ وَالْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ه (2/180)

”تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔“

☆ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلَا يُوْثِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلهنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلهنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئْلًا أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن
كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَن يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ (4/11-14)

”اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس (میت) کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت (کی تکمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو۔ یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑیں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے۔ اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی باپ بیٹا نہ

ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولؐ کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جننوں میں لے جائے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔“

☆ **يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ط إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَكَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ط وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلِلْحَيِّينِ ط فَمَا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ط يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (4/176)**

”آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلامہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوٹے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے۔ اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوٹے ہوئے کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے، اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔“

☆ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَنْتِنَ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْفِيكُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ۝ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَىٰ فَيُقْسِمَنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ**

مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْتَا زَلْمًا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (107-106/5)

”اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو اشخاص کا وحی (گواہ) ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے۔ اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے۔ اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات ہو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہونگے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے۔ اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہونگے۔“

یہ تھے وہ تمام احکام وراثت کے بارے میں جن کے متعلق پرویز صاحب نے بیک قلم جنبش کہہ دیا کہ یہ عبوری دور سے متعلق تھے۔ اب کچھ آیتیں مزید انفاق کے بارے میں دیکھتے ہیں۔

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (2/254)

”اے ایمان والو! جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ سفارش۔ اور کافر ہی ظالم ہیں۔“

☆ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَفَاصَّدَقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (63/10-11)

”اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم

میں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جائے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔“

یہ دونوں آیتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انفاق کے لیے کوئی عبوری دور نہیں ہے۔ بلکہ ایک آیت میں فرمایا کہ ”خرج کرو اپنی موت سے پہلے پہلے“ اور ایک آیت میں فرمایا ”خرج کرو ایسا نہ ہو کہ آخرت کا دن آجائے۔“ یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ احکام اپنی جگہ پر محکم اور ہمہ گیر ہیں۔ نہ کہ کسی خاص وقت کے لیے۔ اس لیے پرویز صاحب کی یہ توجیہ قطعاً غیر قرآنی ہے۔ اور پرویز صاحب نے قرآن کریم سے کوئی ایسی دلیل نہیں دی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ احکام عبوری دور کے متعلق ہیں۔

معاوضہ محنت کا۔ اب ہم مزید کچھ آیات کے ٹکڑوں کا ذکر کریں گے۔ جو سیاق و سباق کے لحاظ سے اپنا مفہوم رکھتی ہیں۔ لیکن پرویز صاحب نے ان ٹکڑوں کی بنیاد پر ایسا نظریہ یا سلوگن پیش کیا ہے جو سیاق و سباق کے مطابق اس کے اصل مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس میں ایک ہے ”معاوضہ محنت کا“۔ آئیے پہلے پرویز صاحب کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔

”جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے روشنی، حرارت، ہوا، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے۔ پہلی سب چیزیں اپنی استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں۔ لیکن خوراک کو زمین سے نکالنا پڑتا ہے۔ جس میں محنت صرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دل نشین انداز میں واضح کر دیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف محنت کے معاوضہ کے حقدار ہو۔ باقی ”خدا کا حصہ“ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمیندار سے بٹائی پر زمین لے کر اس میں کاشت کرتے ہو تو اس میں سے ایک حصہ خود لے لیتے ہو اور دوسرا حصہ زمیندار کو دے دیتے ہو (جسے تم زمین کا مالک سمجھتے ہو)۔ اسی قاعدے کے مطابق، زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو، اور حق مالکانہ خدا کو دے دو۔ سورۃ الواقعہ کی آیات نمبر 63 تا 74 میں اس حقیقت کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سنئے فرمایا!

(اس مقصد کے لیے تم ذرا اس نظام پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشوونما ہوتی ہے اور سوچو کہ کیا سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق۔ مثلاً) تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر، اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اب بتاؤ کہ اس بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی رو سے ایسا ہوتا ہے۔

اس کے بعد کہا!

پھر کھیتی کے اگنے کے بعد، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آجائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے۔ اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے۔ ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بے کار میں گئے۔

اس کے بعد ہے

پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟

(یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں۔ جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آسکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے) ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی (بارش) ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس بیج سے غور کر کے، صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے اور نشوونما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے؟

اسی کے آگے ہے

اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے، اس سے اتنے کام لیتے ہو؟ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا۔ رگ خس میں شعلے کو نہا کر دینا۔ تمہاری کاریگری ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟

ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد کہا

(رزق پیدا کرنے کی اس تمام مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کار فرمائی ہے۔ پھر

اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر؟ تم کسی نیچ سے بھی غور کرو، بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہذا اس کے ما حاصل (سامان زیت) میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہو سکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں بن سکتے۔ یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے ہیں۔ یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، نہ خریدے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے۔

یعنی اس کاروبار میں، محنت تمہاری ہے اور ذرائع پیداوار ہمارے۔ لہذا، تم اس میں سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لو اور ”ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔“ سوال پیدا ہوا کہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچائیں؟ جواب دیا کہ **مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ** یہ ان تک پہنچا دو جو اپنے لئے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ ان تک پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ ہم تک پہنچ گیا۔“ (نظام ربوبیت 289-290)

یہ تھا **مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ** کا تصور پرویز صاحب کے نزدیک۔ سب سے پہلے ہم سورہ واقعہ کی ان آیات کو دیکھتے ہیں تاکہ ان الفاظ کا معنی متعین ہو جائے۔

☆ **أَفْرَأَ يُتَمُّ مَا تُحْرُثُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۚ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ۚ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ أَفْرَأَ يُتَمُّ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۚ أَفْرَأَ يُتَمُّ النَّارُ الَّتِي تُورُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۚ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا ۚ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ۚ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (56/63-74)**

”کیا تم دیکھتے ہو جو کچھ تم بوتے ہو۔ اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا۔ بلکہ ہم بالکل ہی بدنصیب رہ گئے۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔ اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا کر ہر کر دیں۔ پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے۔ کیا تم دیکھتے ہو جو آگ تم ساگاتے ہو۔ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا

ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے نصیحت کا باعث بنایا ہے۔ اور بھوکوں (مسافروں) کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔“

یہاں بات واضح ہے کہ کسی کاروبار کے اصول طے نہیں ہو رہے بلکہ اس آگ کی بات کی جا رہی ہے جسے اللہ نے نصیحت اور بھوکوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ان آیات میں بھتی کے بارے میں فرمایا۔ **لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا**۔ اور پانی کے بارے میں فرمایا **لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا**۔ اور اسی طرح آگ یا آگ کے درخت کے بارے میں فرمایا **نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ** اس میں **جَعَلْنَاهَا** ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ٹکڑا آگ کی بات کر رہا ہے۔ اور دنیائے انسانیت میں ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان آیات میں یہ قطعی ذکر نہیں کہ تم ”مخمت کا معاوضہ اپنے پاس رکھ لو اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔“ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تاکہ انسان اس کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہے۔ باقی رہی ان نعمتوں کے استعمال کی بات۔ تو یہ انسان ہی کے لیے ہے۔ اسی حقیقت کو مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔

☆ **فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا فَاذْبُقْنَا فِيهَا حَبَابًا وَعَيْنًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلَابًا وَفَاكِهَةً وَأَبَاهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمًا لَكُمْ** (80/24-32)

”انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے۔ کہ ہم نے بارش برسائی۔ پھر زمین کو شق کیا۔ (یعنی پھاڑا) پھر اس میں سے اناج اگائے۔ اور انگور اور ترکاری۔ اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ (بھی اگایا) تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔“

پرویز صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں

”قرآن کی رو سے ربا کے معنی ہوئے، اصل زر سے کچھ زیادہ لینا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زیادتی کا تعلق صرف قرض کے معاملات سے ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ یہ ایک جامع اصول ہے اور قرآنی نظام معیشت کی پوری عمارت اسی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اصل سوال

یہ ہے کہ کیا معاوضہ، محنت (Labour) کا ہے یا سرمایہ (Capital) کا بھی۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ
 لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (53/39) انسان صرف اپنی محنت کے معاوضہ کا حقدار ہے۔ سرمایہ
 کوئی ایسی چیز نہیں جس کا معاوضہ طلب کیا جائے۔ لہذا، لین دین کے جس معاملہ میں محنت کے
 بغیر محض سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے۔ خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ ربا ہے۔ جو قرآن کریم
 کی رو سے حرام ہے اور ”خدا اور رسول“ کی طرف سے اعلان جنگ کا مستوجب۔“
 (ربوبیت 411-410)

یہاں بھی پرویز صاحب نے ایک آیت کو بنیاد بنایا ہے، ہم اس سے پہلے کچھ آیات پیش
 کرتے ہیں تاکہ مذکورہ آیت 53/39 کا مفہوم واضح ہو جائے۔
 ☆ اَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۙ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۙ اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ۙ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ ۙ وَاَنْ سَعِيَةً سَوْفَ يُرَىٰ ۙ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
 اَلَا وَفَىٰ ۙ (53/36-41)

”کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص
 کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس
 نے کی اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے
 گا۔“

آیات اپنے مفہوم میں واضح ہیں یہ تو انسان کے اس دنیا کے اعمال کی بات ہو رہی ہے
 جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان اعمال کا بدلہ عنقریب دیا جائے گا۔ یہاں تو ایسی کوئی بات
 نہیں کہ معاوضہ صرف محنت کا ہے۔

قُلِ الْعَفْوَ، یہ ایک اور ٹکڑا ہے قرآنی آیت کا۔ جس سے پرویز صاحب نے کہا کہ فاضلہ دولت
 کسی کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں۔
 ”یہ سب کچھ واضح کر دینے کے بعد قرآن کریم نے وہ فیصلہ سنا دیا جس سے یہ مسئلہ
 ہمیشہ کے لئے اور قطعی طور پر طے ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ...، اے

رسول! یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ انہیں حتمی طور پر بتا دیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے اور دوسروں کا کس قدر۔ کہا گیا **قُلِ الْعَفْوَ** (2/219)، ان سے کہہ دو کہ اس میں تمہارا حق صرف اتنا ہے جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں۔ باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آجائے کہ دوسرے کی ضرورت تمہاری ضرورت سے زیادہ شدید ہے تو تم اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دو۔

اس (قل العفو کے) فیصلہ نے اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے طے کر کے رکھ دیا۔ اس سے کسی کے پاس فاضلہ دولت (Surplus Money) نہ رہی۔ اور جب کسی کے پاس فاضلہ دولت نہ رہی تو معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام خرابیوں اور تباہیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ قرض خواہ اور مقروض۔ مالک مکان اور کرایہ دار۔ زمیندار اور کاشتکار۔ کارخانہ دار اور مزدور، غریب اور امیر کا تفاوت ختم ہو گیا۔ (نظام ربوبیت 293-294)

آیت کا کل لڑا یہ ہے **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ** اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ ان سے کہہ دیجئے جتنا ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا بات کرنے کا انداز مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ”اے رسول! یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ انہیں حتمی طور پر بتا دیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے۔“ دیکھئے بات کچھ کی کچھ ہو گئی۔ حق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ خود سوال کر رہے ہیں اور ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ تاکہ وہ خود فیصلہ کریں اور ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور پھر باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پھر یہاں ایسا کوئی حکم نہیں کہ لوگ زائد از ضرورت مال کو مملکت کے حوالے کر دیں۔ بلکہ دیگر مقامات پر انفاق کے مصارف بیان کر دیئے۔ اب ہر فرد اپنے تقویٰ کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے بعد انفاق کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں ان میں ترغیب کا پہلو ہے۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر سخت رویہ نہیں اپنایا۔ جبکہ زکوٰۃ کے معاملہ میں تادیبی کارروائی کا حکم موجود ہے۔ اس لیے ترغیب اور قانون کا فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

اب اگلی بات پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاشی ناہمواری نہیں ہونی چاہئے۔ اور

معاشی مساوات ہونی چاہئے۔ امیر اور غریب کا تفاوت ختم ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا Phenomenon انسانی کنٹرول سے بالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ آپ اس کو زبردستی تو برابر نہیں کر سکتے وہ تو کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم۔ تاکہ آزمائے کہ لوگ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ آیات پیش کرتے ہیں جو ہمارے موقف کو مزید واضح کر دیں گی۔

☆ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (2/212)

”کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے۔ وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔“

☆ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكَمُ خَلْفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ذٰلِكُمْ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (6/165)

”اور وہ ذات جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔“

☆ اَللّٰهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝ (13/26)

”اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔“

☆ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعٰيْشَ وَاَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝ (15/20)

”اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں۔ اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔“

☆ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَلُونَ ۝ (16/71)

”اللہ تعالیٰ نے ہی تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے۔ پس جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں۔“

☆ إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ (17/30)

”یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔“

☆ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۗ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ (20/124)

”اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔“

☆ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ (20/131)

”اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دینا دے رکھی ہیں تاکہ انھیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔“

☆ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۗ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ نَوَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۗ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئِلُ اللَّهُ بِسُطِّ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ ۗ لَوْ لَا أَنْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيَكَآئِلُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ (28/79-82)

”پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، تو دنیا کی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ انھیں سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انھیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں۔ آخر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی خواہش کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔“

☆ قُلْ إِنْ رِئِي يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ط وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ (34/39)

”کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔“

☆ وَ لَوْ يَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ (42/27)

”اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے۔ اور خوب دیکھنے والا ہے۔“

☆ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝ (43/32)

”کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی ان

میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ اور جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔“

☆ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۝ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (65/2-3)

”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے۔ جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔“

☆ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۝ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۝ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ (65/7)

”کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسبِ حیثیت خرچ کرے۔ کسی شخص کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی دے گا۔“

درج بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور معاشی مساوات اس کا مطمح نظر یا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ تو لوگوں کی آزمائش کے لیے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے رہا ہے۔ اور اپنی جائز حاجات میں اسی سے ہی رزق مانگنا چاہیے۔ اور کوئی بھی ایسا نظام جو فطرت کے اصولوں کے خلاف ہو پنپ ہی نہیں سکتا۔

پرویز صاحب بہت سے دیگر مفکرین کی طرح سوشلزم سے متاثر تھے اسی لیے انہوں نے اس کے اصولوں کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ لیکن ان کا یہ انداز انتہائی غلط تھا۔ کہ وہ قرآنی آیات کے ٹکڑے سیاق و سباق سے ہٹا کر بطور دلائل پیش کرتے تھے۔



صلوٰۃ (نماز)

الصلوٰۃ دین اسلام کی ایک اصطلاح ہے جس میں ایک مسلمان خاص قسم کی حرکات سے عبادت کرتا ہے۔ جسے ہم نماز بھی کہتے ہیں۔ مگر پرویز صاحب نے اس اصطلاح کو اس کے مروج مفہوم سے ہٹا کر عقلی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اور اس انداز سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ موجودہ نماز سے عملی طور پر انکار کیا ہے۔ جس کا اظہار آج ہم پرویز صاحب کے متبعین کی اکثریت میں دیکھتے ہیں۔

چونکہ پرویز صاحب دین میں صرف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو عقل کے پیمانے پر پورا اترے۔ اور ہر وہ بات جو عقل پر پورا نہیں اترتی تو اس کا مفہوم اس انداز سے بیان کیا جائے کہ وہ عقلی پیمانے پر پورا اتر جائے۔ اس کے لیے انہوں نے زبان کی اصل (سیاق و سباق) کو چھوڑ کر لغت اور دوسرے ذرائع کا سہارا لیا۔

نماز کا موضوع اتنا احساس ہے کہ پرویز صاحب نے کھلے لفظوں میں اس کا انکار نہیں کیا بلکہ دہے لفظوں میں اس کے خلاف ہی بات کی ہے۔ اور اپنے لٹریچر اور تقاریر میں اس انداز سے دلائل دیئے کہ ان کے متبعین نے نماز کو دیگر مذہبی مناسک عملی طور پر چھوڑ دیئے۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے لوگوں کو نماز سے روکنا شروع کر دیا۔

پھر ایک موقع ایسا آیا کہ پرویز صاحب کو اس بارے میں وضاحتیں دینا پڑیں کہ ”میں موجودہ نماز کا انکار نہیں کرتا۔“ یا یہ کہ ”موجودہ نماز میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔“ یا یہ کہ ”میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔“ اور یہ کہ ”صلوٰۃ کا لفظ نماز کے اجتماعات کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔“

یہ پرویز صاحب کی فکر کا ایک بہت بڑا تضاد تھا حالانکہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنے لٹریچر اور تقاریر کے ذریعے کر دیا تھا۔ متبعین پرویز کی اکثریت نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اس طرح عملی طور پر پرویز صاحب نے ”نماز“ کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ جب یہ کہا کہ ”موجودہ نماز برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی۔“ اور ”اس نماز کا کوئی محسوس نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔“

اور یہ کہ ”یہ ایسی پڑھی ہے جس پر کوئی ٹرین نہیں چلتی۔“ اور ”قرآن کریم کی رو سے اقامت صلوٰۃ اور ایٹائے زکوٰۃ کا وہ مفہوم نہیں جو آجکل لیا جاتا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو صرف اپنی آزاد مملکت میں ادا کئے جاسکتے ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ

(حوالہ جات کے لیے آنے والے اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔)

نماز کا تعلق دین کی ان اساسات سے ہے جن کو ہم مذہبی مناسک یا شعائر کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے مناسک خالص رضائے الہی کے لیے سرانجام دیئے جاتے ہیں۔ جن کا نتیجہ ظاہری طور پر فطری قوانین کی طرح نہیں نکلتا۔ اور پرویز صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد اسی چیز پر رکھی ہے کہ $2+2=4$ اس کے لیے وہ اکثر مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ سیر کرتا ہے تو چند دن بعد اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک عمل کیا اور اس کا نتیجہ نکل آیا۔ حالانکہ مذہبی شعائر کے انجام دینے میں اس طرح کا عمل اور رد عمل ناممکن ہے۔ اسی لیے پرویز صاحب نے ہر اس مذہبی شعار کا انکار کیا اور اس کا مفہوم اس انداز سے بیان کیا کہ وہ عقل کی توجیہ پر پورا اترے۔ اس طریق استدلال سے آہستہ آہستہ متبعین پرویز نے وہ تمام مذہبی شعائر چھوڑ دیئے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور حالانکہ جو قرآن کے واضح احکام تھے جن کا مذہبی شعائر سے بھی تعلق نہ تھا ان کو بھی چھوڑ دیا اور اس کی توجیہ یہ دی کہ چونکہ یہ سٹم غیر قرآنی ہے اس لیے ان احکام کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم پرویز صاحب کا صلوٰۃ (نماز) کے بارے میں نقطہ نظر تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں گے۔

”وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔“ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”وہ نماز قائم کرتے ہیں۔“ ”نماز پڑھتے ہیں۔“ کا تو مطلب سمجھ میں آسکتا ہے لیکن ”نماز قائم کرتے ہیں۔“ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ یقیناً کا مادہ (ق۔ و۔ م) ہے۔ قائم، قیاماً کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملہ کا اعتدال اور توازن پر ہونا، محکم اور استوار ہونا۔ ثابت اور دائم رہنا۔ قائم کے معنی ہیں اسے درست اور سیدھا کیا۔ اس کا توازن قائم رکھا۔ ان معانی کو سورۃ فاتحہ میں **الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کے سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا اقامت صلوٰۃ کے معنی ہونگے الصلوٰۃ کو محکم اور استوار کرنا۔ متمکن کرنا۔ (Establish) کرنا۔ مار ماڈیوک پکتھال نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن

مجید میں یقینوں کے یہی معنی لکھے ہیں (اگرچہ اس کے ساتھ الصلوٰۃ کا ترجمہ روش عامہ کے تتبع میں (Worship) ہی کیا ہے۔) اس سے واضح ہے کہ ”الصلوٰۃ“ کوئی ایسی چیز ہے جس کا متمکن کرنا اور مستحکم کیا جانا مطلوب و مقصود ہے۔ نماز کے متعلق آگے چل کر گفتگو کی جائے گی۔ یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ دین کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کو علیٰ حالہ رکھا جائے۔ ان کا ترجمہ نہ کیا جائے۔ ان کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی جگہ کسی دوسری زبان کے الفاظ رکھ دینے سے نہ صرف یہ کہ ان کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ مفہوم مسخ ہو جاتا ہے۔ الصلوٰۃ کو الصلوٰۃ ہی کہنا چاہیے اور اس کا مفہوم عربی لغت اور قرآن کریم سے متعین کرنا چاہئے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کی اصطلاحات دین کے بنیادی ارکان (عمائد اور ستون) کی حیثیت سے بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ان کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔

لغت اور قرآن کریم کی رو سے مفہوم متعین کرنے کے سلسلہ میں اس اہم نقطہ کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ لغت سے وہ بنیادی تصور (Concept) سامنے آجاتا ہے جو اس لفظ کے مادہ میں مضمحل ہوتا ہے اور جس کے لئے اسے عرب استعمال کرتے تھے۔ (اسے محاورہ عرب کہا جاتا ہے) لیکن جب ان الفاظ میں سے کسی لفظ پر (أل) داخل کر کے، اسے معرفہ بنا لیا جائے تو وہ قرآنی اصطلاح ہو جاتا ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم قرآن کریم سے متعین کیا جائے گا۔ اس کا ذریعہ ”تصریف آیات“ ہے۔ یعنی قرآن کریم جس جس مقام پر اس اصطلاح کو لایا ہے وہاں سے یہ اخذ کرنا کہ اس کا اس باب میں مقصد و مطلب کیا ہے۔ محاورہ عرب اور تصریف آیات سے (نور و تدبر کے بعد) قرآن مجید کے مفردات و اصطلاحات کا مفہوم واضح طور پر سامنے آجاتا ہے۔ مثلاً لفظ صلوٰۃ کے بنیادی معانی محاورہ عرب کی رو سے متعین کئے جائیں گے۔ اور جب الصلوٰۃ کہا جائے گا تو یہ قرآنی اصطلاح ہوگی۔ اس پر دیگر قرآنی اصطلاحات کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔ (قرآن فہمی کے سلسلہ میں ہم نے بہر حال یہی طریق اختیار کیا ہے۔)

صلوٰۃ کے لغوی معنی۔ صلوٰۃ کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے۔ ویسے اس کا مادہ (ص۔ل۔ی) بھی ہو سکتا ہے۔ (لیکن یہ فی بحث ہے جسے میں نے ”لغات القرآن“ میں بیان کیا ہے۔ اس کے

اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔) بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ چونکہ عرب، نظری اور تجریدی حقائق کا مفہوم محسوسات کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے اس لئے ان کے ہاں گھڑ دوڑ میں جو گھوڑا دوسرے نمبر پر اس طرح مسلسل دوڑتا جائے کہ اس کی کنوتیاں پہلے نمبر والے گھوڑے کی سرین سے مل رہی ہوں تو وہ آگے جانے والے گھوڑے کو ”سابق“ کہتے تھے اور اس دوسرے نمبر والے گھوڑے کو الْمُصَلِّي۔ اسی بنا پر امام راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ لَمْ نَلِكْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (74/43) ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لغت کی اہم کتاب تاج العروس میں ہے کہ اس مادہ کے معنوں میں لزوم (وابستگی) یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنے اور چپے رہنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس جہت سے قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صلوة کے معنی ہونگے نظام خداوندی سے وابستگی۔ حدود اللہ کے اندر رہنا۔ کتاب اللہ سے چپے رہنا۔ اس بنا پر، صلوة کے معنی خدا کی طرف سے متعین کردہ فرائض منصبی کے بھی آتے ہیں۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ”الصلوة“ سے مفہوم صرف نماز نہیں۔ اس میں پورے کے پورے قوانین و احکام خداوندی اور اس کے عائد کردہ فرائض منصبی آجاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مومنین کی دعا ہوتی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (1/5) اور سورۃ ہود میں ہے اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (11/56) میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ نظر بظاہر یوں دکھائی دے گا گویا خدا صراط مستقیم پر آگے آگے جا رہا ہے اور مومنین اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ (صلوة میں یہی مفہوم مضمرا ہے) لیکن اس طرح کا تشبیہی مفہوم خدا کے تنزیہی تصور کے خلاف ہے اس لیے اس کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نظام کائنات، جو قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اپنے ارتقائی منازل طے کر رہا ہے۔ یہ مفہوم سورۃ ”النور“ کی اس آیت سے نکھر کر سامنے آجاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صٰفٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ (24/41) ”کیا تو نے اس حقیقت

پر غور نہیں کیا کہ ارض و سموت کی ہر شے اور فضائے ساوی میں پرفشاں پرندے خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی تسبیح اور صلوة کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کے علم میں ہے۔‘ لفظ تسبیح کی تشریح تو آگے چل کر اپنے مقام پر آئے گی یہاں مجملًا اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اس کے معنی ہوتے ہی مقصد پیش نظر کے حصول کے لئے بھرپور کوشش کرنا اور اس کے لئے اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر دینا۔ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی تسبیح اور صلوة کو جانتی ہے۔ بات واضح ہے کہ کائنات کی ہر شے یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے فرائض منصبی کیا ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے جس کے لئے انہیں مصروف جدوجہد رہنا ہے۔ یہاں سے صلوة کا بنیادی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

دوسرے مقام پر قرآن کریم نے خود انسانوں کے متعلق وضاحت کر دی ہے کہ الصلوة کا مفہوم کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا۔ اس کے قیام سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کے ضائع کر دینے سے کیا تباہی آتی ہے۔ سورۃ مریم میں پہلے مختلف انبیائے کرام کا تذکرہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ (19/59) ان کے بعد، ان کی امتوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے الصلوة کو ضائع کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا جس سے الصلوة کا ضیاع ہو گیا۔ کہا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ (19/59) وہ اپنے پست جذبات کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اقامت صلوة اور اتباع جذبات دو متضاد چیزیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے انسانی جذبات کی تسکین بری چیز نہیں بشرطیکہ ان کا اتباع حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے۔ یہ تباہیاں اس وقت لاتے ہیں جب یہ سرکش اور بیباک ہو جائیں۔ لہذا الصلوة کے معنی ہوئے انسانی خواہشات و جذبات کی، قوانین خداوندی کے مطابق تسکین و برومندی، ان سے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے کام لینا۔ انہیں قوانین الہیہ کے پیچھے پیچھے چلانا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد اجتماعی نظام کے تابع ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ نظام جس میں مختلف افراد اپنے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خدا کے متعین کردہ نصب العین کی طرف بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے

اقامت صلوٰۃ کو ایک اجتماعی فریضہ قرار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ الصلوٰۃ کا قیام اسی صورت میں ممکن ہے جب جماعت مومنین کو تمکن فی الارض حاصل ہو۔ ان کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ چنانچہ سورۃ الحج میں ہے۔ **الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَامْرُؤًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** (22/41) یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تمکن فی الارض حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی (24/55) تو یہ اقامت صلوٰۃ اور اتانے زکوٰۃ کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ معروف احکام نافذ کریں گے اور منکر سے روکیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے اور مروجہ (اڑھائی فیصد) زکوٰۃ دینے کے لئے اپنی حکومت کی ضرورت لاحق نہیں ہو سکتی۔ مروجہ طریق پر یہ فرائض ہر حکومت میں ادا کئے جاسکتے ہیں۔ ہمیں انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں بھی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حق حاصل تھا۔ اور آج ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے اقامت صلوٰۃ اور اتانے زکوٰۃ کا وہ مفہوم نہیں جو آج کل لیا جاتا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو صرف اپنی آزاد مملکت میں ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (زکوٰۃ کے متعلق گفتگو اپنے مقام پر آئے گی یہاں ہم صرف صلوٰۃ تک محدود رہنا چاہتے ہیں۔)

اسلامی مملکت کے متعلق سورۃ الشوریٰ میں ہے۔ **كَه وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَامْرُؤُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ** (42/38) مومنین وہ ہیں جو خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی اقامت صلوٰۃ کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہوتا ہے اسے نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لئے کھلا رکھتے ہیں۔ (یہی اتانے زکوٰۃ کا مفہوم ہے) یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ الصلوٰۃ وہ نظام مملکت ہے جس میں تمام امور جماعت مومنین کے باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور جس کا بنیادی فریضہ نوع انسانی کی ربوبیت ہے۔ چونکہ اسلامی نظام کتاب اللہ کے قوانین و اقدار کے عملی نفاذ کے لئے قائم ہوتا ہے اس لئے دوسری جگہ کہا گیا ہے۔ **وَالَّذِينَ يُمَسِّحُونَ بِالْكَتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ** (7/170)۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور اس طرح اقامت صلوٰۃ کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

الصلوة کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، اسے قرآن کریم نے حضرت شعیبؑ کے تذکارِ جلیلہ کے ضمن میں واضح کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کے سامنے دعوتِ خداوندی کو پیش کیا تو حسب معمول انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ شدید کٹکٹاش کے بعد قوم نے حضرت شعیبؑ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں صلوة کی آزادی چاہتا ہوں (کہ اس میں آپ لوگ مخل نہ ہوں) اس مذہب پرست قوم نے اپنے خیال کے مطابق سمجھا کہ یہ اپنے طریق پر خدا کی پرستش کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ یہ جس طرح جی چاہے پوجا پاٹ کر لیا کریں۔ چنانچہ وہ اس پر رضامند ہو گئے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ صلوة سے حضرت شعیبؑ کا مطلب وہ نہیں تھا جسے وہ سمجھے بیٹھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیبؑ سے کہا کہ **أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِئِ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ** (11/87) اے شعیبؑ! یہ تمہاری صلوة کس قسم کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوة کی تو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔

آپ اس آیتِ جلیلہ کے آخری حصہ پر غور کیجئے، جس سے واضح ہے کہ صلوة صرف نماز کا نام نہیں۔ اس کا دائرہ معاشیات تک کو بھی محیط ہوتا ہے۔

ہم نے سورۃ حج کی آیت (22/41) میں دیکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب جماعتِ مؤمنین کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو وہ اقامتِ صلوة، ایتائے زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سرانجام دیں گے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (29/45) یہ حقیقت ہے کہ الصلوٰۃ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء کی تفصیلی بحث تو آگے چل کر سامنے آئے گی۔ یہاں ہم اپنے آپ کو منکر تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے، نہی عن المنکر، مملکت کا فریضہ بتایا گیا اور یہاں یہ کہا گیا کہ یہ کام الصلوٰۃ کرے گی۔ یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ الصلوٰۃ اس نظام ہی کا نام ہے جس کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جہاں تک ہماری نمازوں کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ ان سے فحشاء اور منکرات نہیں رکتے۔ بے نمازوں کو تو

چھوڑیئے، کتنے نمازی ہیں جو بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا منکرات، نظام صلوٰۃ (اسلامی نظام مملکت) ہی سے رک سکتے ہیں۔ نماز۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ قرآن کریم کی رو سے اقامت صلوٰۃ کا مفہوم وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں تمام افراد معاشرہ، قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جائیں۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ (صلوٰۃ) اس شکل کے لئے بھی آیا ہے جسے نماز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ نماز قدیم فارسی (پہلوی) زبان کا لفظ ہے۔ ایران کے مجوس (جنہیں ہمارے ہاں پارسی کہا جاتا ہے) اپنے طریق پرستش کو نماز کہا کرتے تھے۔ انہی کے ہاں سے یہ لفظ ہمارے ہاں (ہندوپاک میں) آیا اور ایسا عام ہوا کہ اب صلوٰۃ کی جگہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ بایں ہمہ، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، الصلوٰۃ کا لفظ ان اجتماعات کے لئے بھی آیا ہے جنہیں اب نماز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔

خیالات اور جسمانی حرکات کا تعلق۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی جذبہ ابھرتا ہے تو اس کا اظہار زبان کے ذریعے بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دیگر اعضائے بدن سے خود بخود ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ جو اس جذبہ یا خیال کا مظہر بن جاتی ہیں۔ (مثلاً) جب آپ کے دل میں جذبات مسرت موجزن ہوتے ہیں تو اس کی لہریں مسکراہٹ کی شکل میں آپ کے چہرے پر پھیل جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ خود بخود ماتھے کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ کا سر جھک جاتا ہے، اور خود سپردگی کے عالم میں یہ جھکاؤ انتہائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جسے سر بسجود ہونا کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خیالات اور اعضاء کی اس یکبارگی ہم آہنگی کو متوازیت یا (Parallelism) کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اعضاء کی ان حرکات کا تقاضا ایسا غیر شعوری اور بلا ساختہ ہوتا ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی مقرر پر پابندی لگا دیں کہ وہ تقریر تو جیسی چاہے کرے لیکن دوران تقریر وہ ساکن کھڑا رہے۔ اس سے نہ کسی قسم کی حرکت ظہور میں آئے نہ چہرے پر خاص علامات کی

نمود ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اول تو وہ تقریر ہی نہیں کر سکے گا اور اگر بندھے رندھے الفاظ بولے گا بھی تو اسکی تقریر بالکل غیر موثر اور بے نتیجہ رہ جائے گی۔ اعضائے جسمانی کی ان محسوس اور مرئی حرکات کو (Formalism) شعائر و مناسک۔ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے اس داخلی تقاضہ کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ اس کے ظہور و نمود کی اجازت دی ہے۔ صلوٰۃ (نماز) میں قیام و رکوع و سجدہ، اور مناسک حج میں طواف وغیرہ انسان کے اسی تقاضہ کی تسکین کی شکلیں ہیں۔

اگر ان مرئی شکلوں کو ترک کر دیا جائے تو باقی یا تو فلسفیانہ تخیلات رہ جاتے ہیں۔ یا خانقاہیت کی کیفیات جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ

ذوق ایں بادہ نہ دانی بخداتا نچشی

یہ فلسفہ کے تصورات ہوں یا تصوف کی کیفیات، بہر حال انفرادی ہوتی ہیں۔ اجتماعیت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام تو ایک اجتماعی نظام کا نام ہے۔ لہذا اس میں یہ محسوسات بھی باقی رہتی ہیں اور ان میں یکسانیت اور ہم آہنگی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی ہم آہنگی امت میں وحدت عمل کا مظہر ہوتی ہے۔

دوسری طرف، جب ان محسوسات سے غرض و غایت مفقود ہو جائے اور ظواہر کی ادائیگی کو مقصود بالذات سمجھ لیا جائے تو اسے پرستش کہا جاتا ہے۔ جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ملتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی چونکہ اسلام ”مذہب“ بن کر رہ گیا ہے۔ اس لئے اس میں بھی الصلوٰۃ کو نماز کے محسوس ارکان تک محدود سمجھ لیا گیا اور عبادت کا مفہوم پرستش قرار دیا گیا ہے۔ اور انہی ظواہر کو اسلام کی غایت سمجھ لیا گیا ہے۔

اس تمہیدی وضاحت کے بعد آئیے قرآن کریم کی روشنی میں صلوٰۃ کے اجتماعات کی طرف۔ اسلامی نظام کے متعلق سورۃ الشوریٰ میں ہے وَالَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمَرُهمْ بِشُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ہ (42/38) یہ وہ لوگ ہیں جو احکام خداوندی کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اقامت صلوٰۃ کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ فریضہء انفاق کی ادائیگی کے

لئے کس قسم کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ صدر اول کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب مملکت کے کسی اہم معاملہ کے لئے مشاورت کی ضرورت لاحق ہوتی تو حکومت کی طرف سے ان الفاظ میں منادی کرائی جاتی کہ **الصَّلَاةُ الْجَامِعَةُ** اس پر لوگ اس اجتماع میں شرکت کے لئے جمع ہو جاتے تھے۔

چونکہ مشاورت کی غایت، قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا اس لئے اس کی ابتدا نماز کی شکل میں ہوتی۔ (جس طرح اب ہمارے ہاں رسمی طور پر جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے) اس سے ظاہر ہے کہ اجتماعات وقت مقررہ پر ہوتے تھے اسی لئے کہا گیا ہے کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا** (4/103)۔ یاد رکھو! صلوٰۃ مؤمنین کے لئے ایک موقت فریضہ ہے یعنی ایسا فریضہ جس کی وقت معین پر ادائیگی کی جائے گی۔ بالفاظ دیگر جو وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا ہو اس وقت اس اجتماع میں شرکت لازمی ہوگی۔

اگر ان اوقات کو خود خدا نے مقرر کر دیا ہے تو ان میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ البتہ ہنگامی ضرورت کے وقت (مقررہ اجتماعات کے علاوہ) ہنگامی اجتماع منعقد کئے جاسکیں گے۔ اگر ان کے اوقات خدا نے مقرر نہیں کئے۔ تو انہیں باہمی مشاورت سے مقرر کر لیا جائے گا۔ ان میں (باہمی مشاورت سے) رد و بدل ممکن ہوگا۔ (کیا ان اجتماعات کے لئے اوقات کا تعین خدا نے کر دیا ہوا ہے؟ اس کی بحث ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی)۔

ان اجتماعات کے لئے یہی بلاوا ہے جسے قرآن نے ندائے صلوٰۃ سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً سورۃ جمعہ میں ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ** (62/9) اے افراد جماعت مؤمنین! جب تمہیں یوم الجمعۃ کو صلوٰۃ کے لئے آواز دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر مقام اجتماع کی طرف لپک کر آجایا کرو کیونکہ وہاں ”اللہ کی باتیں“ ہوں گی (ان آیات کا پورا مفہوم اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا)۔ دوسری جگہ ہے **وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا حُزُومًا وَلَعِبًا** (5/58) مخالفین کی حالت یہ ہے کہ جب تم صلوٰۃ جیسے اجتماع کے لئے منادی کرتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صلوٰۃ کے بعد مسجد میں جملہ معاملات طے پاتے تھے۔ مثلاً سورۃ مائدہ میں ہے کہ جب وصیت کے معاملہ میں کوئی تنازعہ فیہ امر فیصلہ طلب ہو تو صلوٰۃ کے بعد متعلقہ پارٹیوں کو وہاں روک لیا کرو تا کہ اس معاملہ کا قانون کے

مطابق فیصلہ کر دیا جائے (5/106) ان اجتماعات میں شرکت کے لئے صفائی کا ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر غسل، وضو، اور تیمم وغیرہ کے احکامات دیئے ہیں۔ (4/43, 5/6) یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ان اجتماعات میں پورے ہوش و حواس کے عالم میں شریک ہو کر دیکھو کہ وہاں بڑے اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ جب تم اتنا بھی نہ سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو ان اجتماعات میں شرکت فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا موجب ہوگی (4/43)۔

جس شکل میں، ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کی جملہ جزئیات اور تفصیل کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا۔ ان میں سے صرف چند ایک کا اجمالی طور پر ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ بالفاظ دیگر، ان جزئیات کا تعین قرآن کریم میں نہیں کیا گیا۔

صلوٰۃ کے اوقات۔ (1) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوٰكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ط
اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ه (17/78) اس آیت کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ صلوٰۃ قائم کرو ”دلوک شمس“ سے لے کر ”غسق لیل“ تک اور قرآن الفجر۔ یاد رکھو قرآن الفجر بڑا مشہود ہوتا ہے۔ اس میں ”دلوک شمس“ اور ”غسق لیل“ کے الفاظ غور طلب ہیں۔ دلک کا لفظ بڑا وسیع المعنی ہے۔ اس کے بنیادی معنی حرکت کرنے کے ہیں۔ جب آفتاب بلندی کی طرف حرکت کرے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے اور جب وہ رو بہ انحطاط ہو کر غروب ہو جائے تو اس کے لئے بھی۔ اور غسق لیل، ابتدائے شب کی تاریکی کو کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب بلکہ غروب کے کچھ عرصہ بعد (غسق) تک کا سارا وقت اس میں آجاتا ہے۔ کتب تفسیر میں، اس آیت کی تشریح میں اس قدر طول طویل لیکن باہدگر متضاد باتیں کہی گئی ہیں کہ انہیں اختصاراً پیش کرنے کی بھی یہاں گنجائش نہیں۔ ہم نے آیت پیش کر دی ہے اور ان الفاظ کے لغوی معانی بھی۔ آیت سے کم از کم اتنا تو واضح ہے کہ اس میں اوقات کا تعین نہیں کیا گیا۔ حالانکہ (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب اسے کسی بات کو متعین طور پر پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنایات سے کام نہیں لیتا اسے واضح، غیر مبہم، متعین (Specific) انداز سے بیان کرتا ہے لیکن اس آیت میں وہ متعین انداز اختیار نہیں کیا گیا۔

(2) سورہ ہود میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ (11/114) اس کے عام معانی یہ ہیں کہ تم صلوٰۃ قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے پہلے حصے میں۔ اسی طرح سورہ طہ میں ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ (20/130) اس میں صلوٰۃ کا لفظ تو نہیں آیا سبِّح کا لفظ آیا ہے۔ لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی صلوٰۃ ہی مقصود ہے۔ اس میں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، دن کے دونوں اطراف اور رات کی گھڑیوں کا ذکر ہے۔ بات یہاں بھی متعین طور پر نہیں کہی گئی۔

یہ اور اس قسم کی چند ایک اور آیات سے عام طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کے مروجہ پانچ اوقات خود قرآن نے متعین کئے ہیں، لیکن عام دعویٰ یہی ہے کہ یہ اوقات رسول اللہ نے مقرر فرمائے تھے۔

(3) سورۃ النور میں مجلسی آداب کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھروں میں کام کرنے والے بچے، بے محابا گھر میں گھوم پھر سکتے ہیں، بجز ان تین اوقات کے یعنی مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ط لَنْتُ عَوْرَتِ لَكُمْ (24/58) صلوٰۃ الفجر سے پہلے اور صلوٰۃ العشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت، کیونکہ ان اوقات میں تم بے تکلف کپڑے وغیرہ اتار کر بیٹھے یا لیٹے ہوتے ہو۔ اس آیت میں فجر اور عشاء کی نمازوں کا ذکر بالتصريح آیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں دو نمازیں اسی طرح متعارف تھیں۔ اگرچہ قرآن کریم میں حکم کے طور پر ان کا بھی ذکر نہیں آیا۔

(4) سورۃ بقرہ میں، پہلے طلاق وغیرہ کے مسائل کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہے حَفِظُوا عَلَي الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطَى وَ قَوْمًا لِلّٰهِ فِتْيَانًا ۝ (2/238) تم اپنی صلوٰۃ (بصیغہ جمع) کی حفاظت کرو اور ”صلوٰۃ الوسطی“ کی۔ اس میں ”صلوٰۃ الوسطی“ کے معنی درمیانی نماز کئے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ وہ ایک طرف فجر اور ظہر اور دوسری طرف مغرب اور عشاء کے درمیان آتی ہے۔ (میرے نزدیک اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اسے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔)

رکعات۔ جہاں تک رکعات کا تعلق ہے انہیں بھی قرآن کریم نے متعین طور پر بیان نہیں کیا۔ سورۃ النساء میں اتنا بتایا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں، جب تمہیں دشمن کی طرف سے خطرہ لاحق ہو تو نماز کو اس طرح ادا کر لینا چاہئے کہ مجاہدین کا ایک گروہ امام (یعنی رسول اللہ) کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار سنبھالے رکھے۔ جب یہ سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک صلوٰۃ ادا نہیں کی۔ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ بھی اسی طرح اپنے ہتھیار سنبھالے رکھیں۔ (4/101-102) سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے **فَاِنْ حِفْتُمْ فَرِحَالًا اَوْ رُكْبًا نَا فَاِذَا اٰمِنْتُمْ فَاذْكُرُو اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ه** (2/239) یعنی جب تم حالت خوف میں ہو تو پھر پاپیادہ یا گھوڑوں کی پشت پر بیٹھے ذکر کر لیا کرو۔ اور جب تم حالت امن میں ہو تو پھر جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اس طرح کرو۔

رکعتوں کے متعلق قرآن کریم کی انہی آیات میں اشارات ملتے ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیونکہ ان کے متعلق مختلف فرقوں میں اختلاف ہے۔ یعنی ہر نماز میں اتنی رکعتیں فرض، اتنی سنت، اتنی نفل وغیرہ میں ان اختلافات کو بھی بڑا دخل حاصل ہے [میں ان آیات کی تشریح (اپنی بصیرت کے مطابق) متعلقہ مقامات پر کروں گا]

اِذْ كَارِ صَلٰوٰةٍ۔ جہاں تک نماز میں کچھ بڑھنے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے اس کی بھی صراحت نہیں کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت (17/110) میں کہا گیا ہے کہ **وَلَا تَجْهَرُ بِصَلٰتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَاَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا** تم اپنی صلوٰۃ میں نہ تو بلند آواز اختیار کرو اور نہ بالکل خاموشی۔ بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرو۔ بعض لوگ یہاں صلوٰۃ سے مراد نماز لیتے ہیں اور بعض دعا۔ (کیونکہ صلوٰۃ کے معنی دعا بھی ہیں۔)

سورۃ التوبہ میں منافقین کے متعلق حضورؐ سے کہا گیا ہے کہ **وَلَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّا تَاْبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهٖ** (9/84) تم ان میں سے کسی کی میت پر بھی دعا نہ کرو اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ اس آیت سے نماز جنازہ مراد لی جاتی ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِہٖ نَافِلَةً لَّکَ** (17/79) اے رسول! تم رات میں بھی کچھ وقت کے لئے جاگا کرو لیکن یہ حکم صرف تمہارے لئے ہے۔ اس سے تہجد کی نماز

مراد لی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رسول کے لئے مخصوص تھی، اور وہ بھی فریضہ کے طور پر نہیں بلکہ نفل کے طور پر۔

میری بصیرت کے مطابق، قرآن کریم میں نماز کی تفصیل کے متعلق یہی کچھ آیا ہے۔ میں نے تعین جزئیات کے جس اصول کا پہلے ذکر کیا ہے اس کی رو سے میرے لئے اس باب میں مزید کاوش کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صلوٰۃ کا اصولی حکم وحی کی رو سے حضور کو دیا گیا تو آپ نے قرآنی اصول کے مطابق باہمی مشاورت سے اس کے لئے مکمل پروگرام متعین فرمایا ہوگا۔ قرآن کریم کے یہ ارشادات اسی پروگرام کے تضمینات نظر آتے ہیں۔ جس حکم کی جزئیات قرآن کریم خود متعین کرتا ہے اس میں اس کا انداز کیا ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے سورۃ بقرہ کی آیات (283-282/2) ہیں (اور آیت نمبر 282 تو غالباً قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے) اس میں کہا گیا ہے کہ جب تم باہمی قرض کا معاملہ کرو تو اس کے لئے کیا طریق اختیار کرو۔ آپ دیکھئے قرآن کریم نے اس پروگرام کو کس وضاحت اور تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب لین دین کے معاملات کی جزئیات میں اس کا یہ انداز ہے تو صلوٰۃ جیسے بنیادی فریضہ کے سلسلہ میں جزئیات کے تعین کے لئے اس نے ایسا ہی انداز کیوں نہ اختیار کیا؟ تعجب ہے کہ اس نے وضو کے متعلق تو ایسا تفصیلی حکم دیا کہ منہ دھوؤ۔ کہنیوں تک ہاتھ دھوؤ۔ سر کا مسح کرو، پاؤں ٹخنوں تک دھوؤ۔ جنبی حالت میں یوں کرو۔ مسافر اور مریض ہونے کی صورت میں ایسا کرو۔ پانی نہ ملے تو کیا کرو۔ (5/6) تمہید صلوٰۃ کے متعلق تو اس قدر تفصیلی احکام آئے لیکن خود صلوٰۃ کے سلسلہ میں اس طرح متعین طور پر کوئی حکم نہیں دیا۔ اس سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔۔۔ ان جزئیات کو (دانستہ) غیر متعین رکھنا چاہتے تھے۔

موجودہ نماز تفرقہ کا مظہر ہے۔ متقدمین میں سے جن فرقوں نے نماز کی جزئیات کا تعین کیا، انہوں نے ان کی بنیاد احادیث یا فقہ پر رکھی۔ لیکن ان جزئیات میں جس قدر اختلاف ہے وہ مختلف فرقوں کی نماز سے ظاہر ہے۔ اس مقام پر ایک اور حقیقت بھی قابل غور ہے۔ قرآن کریم نے الصلوٰۃ کو امت میں وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ اس نے سورۃ روم میں کہا کہ

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ لَا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۗ كُلُّ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ (30/31-32) تم صلوٰۃ قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا۔ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر فرقہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل پر ہیں۔ گویا قرآن کریم نے صلوٰۃ کو امت میں۔۔۔۔ وحدت پیدا کرنے اور وحدت برقرار رکھنے کا ذریعہ بتایا تھا لیکن وائے بد نصیبی کہ اب وہی صلوٰۃ (نماز کی شکل میں) امت کے تفرقہ کا مظہر قرار پا گئی ہے۔ کسی جلسہ میں دس ہزار مسلمان بیٹھے ہوں۔ ان میں فرقہ بندی کی کوئی محسوس علامت سامنے نہیں آئے گی۔ سب ایک امت کے افراد دکھائی دیں گے لیکن اس دوران میں اگر نماز کی اذان سنائی دے تو ان میں سے ایک ٹولی ایک مسجد کا رخ کرے گی۔ دوسری ٹولی دوسری مسجد کا۔ اور اس طرح ان کے گروہ مندانہ اختلافات ابھر کر سامنے آجائیں گے اور ان اختلافات کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک فرقہ سے متعلق مسلمان کو دوسرے فرقہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر وہ بھولے بھٹکے دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے گا تو وہاںی مچ جائے گی کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔

لیکن چونکہ یہ فرقے اس امر کے مدعی ہیں کہ نمازوں کی یہ باہدگر مختلف جزئیات احادیث یا فقہ کی رو سے متعین ہوئی ہیں۔ اس لئے اس اختلاف کی زد قرآن کریم پر نہیں پڑتی، لیکن ہمارے دور میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے جس نے براہ راست قرآن کریم کو اس طرح اپنا ہدف بنایا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ، کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے (معاذ اللہ) باطل ہو کر رہ گیا ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (4/82)** کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں کئی اختلافی باتیں پاتے۔ بالفاظ دیگر، قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے کے دعویٰ کے ثبوت میں ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔

فرقہ اہل قرآن۔ اس فرقہ، جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جو (برعکس نہند نام زنگی کافور، اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر پکارتا ہے) دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکام کی جملہ تفصیلات و جزئیات خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے

نماز کی جزئیات کو لیا ہے۔ میں کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑے بغیر صرف اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ان کی اس سعی نامشکور کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس فرقہ کے بانی تھے (مولانا) عبداللہ چکڑالوی (مرحوم)۔ اور ان کے متبعین کا ایک گروہ لاہور میں مقیم ہے۔ ان دونوں نے نماز کی جزئیات (اپنے دعویٰ کے مطابق) قرآن کریم سے متعین کی ہیں۔ اور ان کی دریافت کردہ جزئیات کی کیفیت یہ ہے:-

| <u>لاہوری فرقہ</u> | <u>مولانا چکڑالوی</u> |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ۱۔ تین وقت کی نماز | ۱۔ پانچ وقت کی نماز |
| ۲۔ نماز کی صرف دو رکعتیں | ۲۔ نماز میں دو، تین۔ چار رکعتیں |
| ۳۔ ہر رکعت میں صرف ایک سجدہ | ۳۔ ہر رکعت میں دو سجدے |

جہاں تک اذکار صلوة کا تعلق ہے وہ بھی بالکل نرالے ہیں۔ اگرچہ وہ مشتمل ہیں قرآنی آیات ہی پر۔

اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جس قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نماز کی جزئیات تک میں اس قدر اختلاف ہے تو اسے منزل من اللہ کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ تو سوچئے کہ اس کا کیا جواب دیا جاسکتا ہے؟ اور اگر یہ دونوں گروہ (مقتدای اور مقتدی) آپس میں جھگڑنے لگ جائیں اور ایک دوسرے پر الزام دھریں کہ اس نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا تو اس سے ایک اور اعتراض وارد ہوگا جو پہلے اعتراض سے زیادہ نہیں تو کم سنگین بھی نہیں ہوگا، معترض کہے گا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کتاب مبین (روشن کتاب) ہے اور اپنی ہر بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ لیکن عملاً اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے حکم میں تعداد تک کو بھی غیر مبہم انداز سے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جس انداز سے تعداد بتاتا ہے اس سے ایک شخص پانچ وقت سمجھتا ہے تو دوسرا تین وقت، کوئی دو۔ تین۔ چار رکعتیں سمجھتا ہے، کوئی صرف دو رکعت۔ کوئی دو سجدے سمجھتا ہے کوئی ایک۔ بسید حقائق (Abstract Realities) کے متعلق تو انسانوں کا فکری اختلاف قابل فہم ہوتا ہے کیونکہ انہیں تشبیہی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس کتاب کے متعین احکام و قوانین کے متعلق یہ انداز ہو، اسے خدا کی کتاب سمجھنا تو درکنار (معاذ اللہ) انسانی تصانیف میں بھی قابل

قدر مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم پر کتنی بڑی زد پڑتی ہے۔ انتہائی صدمہ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کا نام لے کر قرآن کے ساتھ کس قدر دشمنی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے خصوصیت سے ان کے نظریہ اور مسلک کی تردید کرنی پڑی۔ لیکن یہ سب کچھ کہہ سن چکنے کے بعد عملی زندگی کی طرف آئیے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقے کی نماز کی جزئیات میں اختلاف ہے اور یہی اختلاف ان کی فرقہ بندی کا آئینہ دار ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم نے وحدت امت کو دین کی اساس قرار دیا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اختلافات مٹ سکتے ہیں؟ اور کیا اس امت میں پھر سے وحدت پیدا ہو سکتی ہے؟

پس چہ باید کرد۔ ان اختلافات کی سند یا تائید میں ہر فرقہ اپنے اپنے ہاں کی روایات یا فقہی فیصلے پیش کرتا ہے۔ یہ روایات یا فقہی اجتہادات اس اختلاف کی سند تو قرار پاسکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اس نظام کا موجود نہ رہنا ہے۔ جس سے دین کا قیام اور امت کی وحدت وابستہ تھی۔ جب ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے تو پھر ان کے رفع ہونے کی بھی اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہو سکتی کہ اس نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس مقام پر اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ محض خواہوں کی دنیا میں بسنا ہے۔ وہ نظام دوبارہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا کہنا، یا تو خود فریبی ہے اور یا فریب دہی۔ خود فریبی ہو یا فریب دہی۔ قرآن کریم نے بہر حال اس کے متعلق پہلے ہی وارننگ دیدی تھی کہ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نظام رسول اللہ کی زندگی تک قائم رہ سکتا ہے اس کے بعد نہیں تو اس کا مطلب دین سے ارتداد ہوگا۔ اس نظام کا دوبارہ قائم کیا جانا ممکن بھی ہے اور آسان بھی۔ جو مملکت ایمان کی بنیادوں پر، یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے جملہ امور (جن میں مذہبی اور غیر مذہبی کی کوئی تمیز و تفریق نہ ہوگی) قرآن مجید کے مطابق سرانجام پائیں گے اور اس کے بعد وہ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دے، تو وہ مملکت علیٰ منہاج رسالت کہلائے گی۔ اس کے لئے شرط اولین یہ ہے کہ جن ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو وہ خود اقتدار خداوندی کے پابند ہوں۔ اس مملکت کا فریضہ یہ ہوگا کہ جو کچھ اس وقت اسلام کے نام سے مروج ہے، وہ اسے قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھے۔ جو اس پر پورا اترے اسے اختیار کر لے۔ جو اس کے خلاف جائے اسے مسترد

کردے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی راہنمائی ایسی واضح ہے کہ اس قسم کی پرکھ ناممکن تو ایک طرف، چنداں مشکل بھی نہیں۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ارباب مذہب کے پاس اس وقت بھی قرآن موجود ہے تو اس کے باوجود ان میں وحدت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان امور کی پرکھ کے لئے قرآن کریم کو کسوٹی نہیں بنایا جاتا۔ بہت کچھ خارج از قرآن ہے جسے سند اور معیار تسلیم کیا جاتا ہے اور یہی ان اختلافات کی وجہ ہے۔ جب قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تو اسے معیار قرار دینے سے اختلافات کس طرح باقی رہ سکتے ہیں۔

جہاں تک قرآنی اصول و احکام کی جزئیات کا تعلق ہے، وہ نظام، ان کی بھی جانچ پڑتال کرے گا۔ جو جزئیات ہمارے زمانے کے تقاضوں کو پورا کریں گی انہیں علیٰ حالہ رہنے دے گا، جن میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، انہیں تبدیل کر دیگا۔ اور عند الضرورت ان میں نئی جزئیات کا اضافہ بھی کرتا جائے گا۔ اس طرح ثبات و تغیر کے امتزاج کا قرآنی پروگرام پھر سے بروئے کار آجائے گا۔

جب تک یہ نظام قائم نہیں ہو جاتا، میرا مسلک ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس جس انداز سے ان پر کار بند ہیں وہ ان پر اسی انداز سے کار بند رہیں۔ لیکن ان میں ایسی شدت نہ برتی جائے کہ وہ باہمی نفرت اور عداوت کا موجب بن جائیں۔ نیز کسی فرد یا فرقہ کو اس کا حق نہیں ہونا چاہئے کہ وہ مروجہ ارکان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کرے یا کوئی نیا طریقہ وضع کرے۔ اس سے امت میں مزید تفرقہ اور انتشار پیدا ہوگا۔ ان جزئیات میں حک و اضافہ یا تغیر و تبدل کا حق صرف اسلامی نظام کو حاصل ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ امت سے آکر کہے کہ خدا نے مجھ سے یوں کہا ہے اس لئے تم اب ایسا ہی کرو۔ ایسے شخص کا یہ دعویٰ ہی باطل ہے کہ ”خدا نے اس سے یوں کہا ہے۔“ خدا نے انسانوں سے جو کچھ کہنا تھا اسے اس نے آخری بار قرآن کریم میں کہہ دیا اور بس۔“

(مطالب الفرقان، جلد اول، صفحہ 122-137، 101-98)

”ہمارے مذہبی اجتماعات۔ سلیم! تم سمجھتے ہو کہ ایسے انقلاب درآغوش افراد کی یہ جماعت دنیا میں کیا کچھ نہ کر سکتی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ اس ”ہجوم مومنین“ کی نماز پر پھر نگاہ

ڈالو۔ ساری نماز پر نہیں۔ نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر۔ ذرا سوچو کہ پچاس ساٹھ ہزار انسانوں کا گروہ، اللہ کے سامنے، رو بہ قبلہ، مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اقرار کر رہا ہو کہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اے اللہ! ہم صرف تیری مخلوق کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے سوا ہر قسم کی غلامی کا طوق ہم پر حرام ہے۔ لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہو اور دماغ سینکڑوں خداؤں کا بتلہ بن رہا ہو۔ تو اس دعویٰ کو تم خدا فریبی اور خود فریبی نہ کہو گے تو اور کیا سمجھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے آپ سے غداری اور خدا سے دھوکہ کیا ہے تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کے ”حاملان دین متین“ لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اس لیے کہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اگر ہاتھ فلاں مقام پر باندھ لئے جائیں۔ پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا جائے۔ انگلیوں کا رخ فلاں سمت کو ہو۔ سجدے میں فلاں فلاں حصے پہلے زمین بوس ہوں۔ الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں، تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور جب پوچھو کہ اس بات کی کیا سند ہے کہ اس سے نماز واقعی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس کے لیے صلوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو جواب مل جاتا ہے کہ اس کا علم تو قیامت ہی کو ہو سکے گا۔ کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ نتیجہ یہاں برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی۔ اللہ تو ایمان و عمل کی جزاء استخلاف فی الارض اور وراثت زمین فرماتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت کی زمین ہے۔ لیکن سلیم! ان باتوں کو تم کسی سے نہ پوچھو۔ قرآن تمہارے سامنے ہے۔ انسانیت کے معراج کبریٰ کے دور ہمایوں کی تاریخ اس کے اندر ہے۔“

(سلیم کے نام خطوط، جلد اول صفحہ 10)

آگے روزوں کے متعلق لکھتے ہیں۔

”اے ایمان والو! جب تم کسی جماعت کے مقابلہ میں جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ اور قانون خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آپس میں مت جھگڑو۔ ورنہ تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو استقامت کا ثبوت دیں۔ (8/45-46)

سلیم! سنتے ہو کہ یہ ہدایات کیا ہیں؟ یہ زندگی کا پیغام ہیں۔ یہ اسلام کی روح ہیں۔ یہ

ایک عبد مومن کے اظہار عبودیت کا حقیقی مفہوم ہیں۔ یہ صرف بدر کے موقع کے وقتی احکام نہیں۔ بلکہ جب تک حق و باطل میں آویزش کا امکان ہے۔ جب تک خیر و شر کا مقابلہ ہے۔ جب تک شرار بولہبی، چراغ مصطفویٰ سے ستیزہ کار ہے۔ اس وقت تک کے لئے تمام مسلمانان عالم کے واسطے ایک دستور اساسی ہیں۔ ایک لائحہ عمل ہیں۔ یہی ہدایات ہیں۔ جن کے لئے رمضان کے روزے اور ان روزوں کا جمعۃ الوداع ہے۔

سلیم! اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح نتائج پیدا کرنے والے روزے اور نمازیں ان تین سو مسلمانوں کی تھیں یا اس ساٹھ ستر ہزار کے رسمی اجتماع کی جس میں مقصد اور روح کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سو بھائی نادان کیوں بنتے ہو؟ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سحری اور افطاری کے گولے قلحہ کی دیواریں نہیں ڈھا سکتے۔ ہر چند ان کا دھماکہ اور دھواں اصلی گولوں کا سا ہو۔“

(سلیم کے نام خطوط، جلد اول، صفحہ 12-13)

”سلیم! اب تمہاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے ان اجتماعات میں آج وہ روح اور مقصد نہیں رہا تو پھر ان کے باقی رکھنے سے فائدہ کیا؟ تمہارے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ اچھا ہوا تم نے اسے ابھی پوچھ لیا۔ عزیزم! سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں (اپنی روح اور مقصد کو کھودینے کے بعد) ہمارے قومی شعائر سی بن چکی ہیں۔ اگر قومی شعائر نقصان رساں نہ ہوں (اور نہ ہی وہ قرآن کریم کی تعلیم سے نکلرائیں) تو ان کا باقی رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل باقی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کبھی ہماری قسمت نے پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس بیدار ہوا جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان ہی بے جان پیکروں میں پھر سے روح آجائے گی۔ اور یہ مناسک و شعائر جس نظام کی یادگار ہیں اسکے از سر نو قیام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں جمعۃ الوداع کے خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ اگرچہ خطیب کا ایک لفظ بھی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور اگر پہنچتا بھی تو تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہ تھا کہ وہ عربی زبان میں تھا اور تم عربی جانتے نہ تھے۔ اور اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی اس میں تمہیں کوئی بات مسائل حاضرہ کے متعلق نہ مل سکتی، کہ ان کے نزدیک خطبہ ایک حکم شرعی ہے جس کی ادائیگی سے محض ”ثواب“ ہوتا ہے۔ مفہوم اور معانی سے اس

کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ (سلیم کے نام خطوط، جلد اول، صفحہ 15-16)

تمسک بالکتاب یعنی قانون خداوندی کا عملاً اتباع ناممکن ہے۔ جب تک دین کا نظام عملاً جاری و ساری نہ ہو۔ اور چونکہ اقامت صلوٰۃ بھی اسی نظام سے وابستہ ہے۔ اس لئے اقامت صلوٰۃ بغیر تمسک فی الارض (یعنی کسی خطہ زمین میں قرآنی حکومت قائم کئے بغیر) ناممکن ہے۔ سورہ حج میں دیکھو، کس قدر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو جو قرآنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تمسک فی الارض عطا کریں گے تو وہ الصلوٰۃ قائم کریں گے اور الزکوٰۃ کا انتظام کریں گے (22/41) استخلاف فی الارض اور تمسک دین کو "اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ" سے مشروط ٹھہرایا گیا ہے۔ (24/55-56)

ذرا آگے چل کر اسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔

غور کرو سلیم! اگر قیام صلوٰۃ سے مقصود محض ہماری رسمی نمازیں ہوں تو ان کے لئے تمسک فی الارض، یعنی ملک میں قرآنی حکومت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نمازیں تو ہم انگریزوں کی غلامی میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہندوستان کے مسلمان اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچو کہ قرآن نے اقامت صلوٰۃ کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا ہے۔ ہماری ان نمازوں سے ہمیں کب استخلاف ملا؟ سورہ بقرہ میں دیکھو۔ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کا لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (2/271) ان لوگوں پر جو نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ کو قائم کریں گے "کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔" ذرا غور کرو کہ کیا ہماری نمازیں اور اڑھائی فی صد والی زکوٰۃ یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہے۔ کہ ہمیں کسی قسم کا خوف و حزن نہ ہو۔ صلوٰۃ کے متعلق سورہ عنکبوت میں بین الفاظ میں ہے کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (29/45) یقیناً صلوٰۃ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ سلیم! اس حتم اور یقین کو سامنے رکھو جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہماری موجودہ نمازیں یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہیں۔۔۔۔۔

یہاں پہنچ کر سلیم! تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نماز کے نام سے جو کچھ آج مسجدوں میں کیا جاتا ہے کیا اس کی بھی کچھ اصلیت ہے؟ اس کا جواب "ہاں" میں بھی ہے اور

لیکن یہ اجتماعات اسی صورت میں صحیح نتائج مرتب کرتے ہیں۔ جب وہ دین کے نظام کا جزو بن جائیں۔ (سلیم کے نام خطوط، جلد اول، صفحہ 155-152)

صلوٰۃ کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے۔ جس کے بنیادی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ چنانچہ صَلَّى الْفَرَسُ تَصْلِيَةً اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا، پہلے نمبر کے گھوڑے کے عین پیچھے مسلسل دوڑ رہا ہو۔ پہلے نمبر والے گھوڑے کو سَابِقُ کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے چلنے والے گھوڑے کو الْمُصَلِّيُّ۔ اس سے صَلَّى کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا۔ چنانچہ حضرت علیؑ کی روایت میں ہے۔ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَ تَلَّكَ عُمَرُ (بحوالہ تاج العروس) ”رسول اللہ پہلے تشریف لے گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو بکرؓ اور پرتیسرے نمبر پر حضرت عمرؓ۔“

امام راغب نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (74/43) ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان تصریحات سے صلوٰۃ کا بنیادی اور جامع مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کا پورا پورا اتباع۔ خدا کی راہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ اتباع زندگی کے کسی ایک گوشے تک محدود نہیں۔ بلکہ انسان کی پوری کی پوری زندگی اس کے اندر آجائے گی۔ اس لئے اس کے معنی ہونگے زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کا اتباع۔ ان فرائض منصبی کی تکمیل جو انسان پر ان قوانین کی رو سے عائد ہوتے ہیں۔ وہ نظام جس کے اندر رہتے ہوئے انسان ان فرائض کی تکمیل کر سکتا ہے۔ دین کہلاتا ہے۔ لہذا صلوٰۃ کا نظام، دین کا پورا نظام ہوگا۔ صلوٰۃ کے اجتماعات (جنہیں نماز کہا جاتا ہے) اسی نظام کا ایک حصہ ہیں۔ یہ درحقیقت عملی مظاہرہ ہے اس ایمان کا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی قوانین خداوندی کے تابع بسر کرنی ہے۔ اور ان کے سوا کسی قانون اور فیصلے کے سامنے نہیں جھکنے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلوٰۃ کا تصور صرف اجتماعات نماز تک محدود نہیں بلکہ انسان کی ساری زندگی کو محیط ہے۔ یعنی جب ہم نماز ادا کر لیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ ہم فریضہ صلوٰۃ سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہئے کہ ہم نے فریضہ صلوٰۃ کے ایک حصہ کو ادا کیا ہے۔ اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہم اپنی پوری زندگی نظام خداوندی کے تابع

بسر کریں اور اسی طرح بسر کرتے جائیں تا آنکہ ہماری دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے فَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہ (2/132) یہ بات کہ صلیٰ کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں۔ قرآن کریم
 نے خود واضح کر دیئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ القیمۃ میں ہے۔ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ وَ لَكِنْ كَذَبَ
 وَ تَوَلَّىٰ (75/31-32) یہاں دیکھو صَدَقَ کے مقابلے میں كَذَبَ آیا ہے۔ (صَدَقَ کے معنی ہیں
 تصدیق کرنا۔ سچ کر دکھانا۔ اور كَذَبَ کے معنی ہیں تکذیب کرنا۔ جھٹلانا) اور صَلَّىٰ کے مقابلے
 میں تَوَلَّىٰ آیا ہے۔ تَوَلَّىٰ کے معنی ہیں گریز کی راہیں نکالنا۔ پھر جانا۔ لوٹ جانا۔ اس سے ظاہر ہے
 کہ صلیٰ اس روش کی ضد ہے۔ جس میں انسان سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے اس سے پھر جاتا
 ہے۔ یا گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ یہاں واضح ہے کہ صلیٰ کے معنی (خود قرآن کی رو سے بھی)
 کسی کے پیچھے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرے مقام پر خود صلوٰۃ کا لفظ بھی انہی معنوں میں آیا
 ہے۔ سورۃ نور میں کائنات کی مختلف اشیاء کے اجمالی اور پرندوں کے خصوصی ذکر کے بعد کہا ہے۔
 كَلَّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ (24/41) ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلوٰۃ اور تسبیح کو جانتا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں صلوٰۃ کے معنی وہ نماز نہیں جو مساجد میں ادا کی جاتی ہے بلکہ اس کے معنی وہ
 فرائض منصبی جو ان اشیاء کائنات کے ذمے لگائے گئے ہیں۔ یعنی اس قانون کا اتباع جس کے
 مطابق چلنے کے لئے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ (تسبیح کے معنی ہیں فرائض کی تکمیل میں پوری پوری
 جدوجہد کرنا)۔ یہ وجہ ہے کہ میں اقامت صلوٰۃ کا ترجمہ نظام صلوٰۃ کا قیام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
 جو ہر جگہ ”اقیمو الصلوٰۃ“ کا حکم دیا ہے تو اس سے مراد نظام صلوٰۃ قائم کرنا ہے۔ نظام خداوندی کا
 قیام۔ نماز کے اجتماعات اس نظام کے اندر آجاتے ہیں۔ لیکن صلوٰۃ کا فریضہ ان اجتماعات تک
 محدود نہیں۔ ان سے باہر بھی ہے۔ بالفاظ دیگر خدا کی عبادت مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں۔
 زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ انسان جب اجتماع صلوٰۃ میں شریک ہوتا ہے تو اس وقت بھی
 اقامت صلوٰۃ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے فارغ ہو کر جب زندگی کے دوسرے معاملات میں
 قانون خداوندی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی اقامت صلوٰۃ ہی کرتا ہے۔ یہ چیز کہ صلوٰۃ کا
 دائرہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ خود قرآن سے واضح ہے۔ سورۃ ہود
 میں ہے کہ حضرت شعیبؑ کی قوم نے آپ سے کہا کہ يَشْعِبُ أَصْلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا

يَعْبُدُ آبَاءَنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ط (11/87) اے شعیب! کیا تیری صلوة تمہیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی حکومت (عبودیت) ہمارے آباء اختیار کرتے چلے آئے ہیں۔ یا ہم اپنے مال و دولت کو اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مال و دولت کا قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا بھی صلوة کے اندر داخل ہے۔ امید ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صلوة سے مطلب نماز کے اجتماعات نہیں (لفظ نماز عربی زبان کا نہیں قدیم فارسی زبان کا ہے۔) میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اجتماعات بھی فریضہ صلوة کے اندر داخل ہیں۔ لیکن یہ فریضہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ جو انسان نماز کے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتا۔ وہ بھی تارک صلوة ہے اور جو کسی معاملہ میں قانون خداوندی کی اطاعت نہیں کرتا وہ بھی تارک صلوة ہے۔ میں اس نقطہ پر زور اس لیے دیتا چلا آتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اقامت صلوة کے فریضہ سے کلیتہً فارغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اقامت صلوة کے صرف ایک گوشے سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ فریضہ مکمل طور پر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اپنی ساری زندگی خدا کے قانون کے تابع بسر کریں گے۔ فقط نماز پڑھ لینا اور باقی زندگی خدا کے احکام کے خلاف گزارنا ہمیں مصلیٰ نہیں بنا سکتا۔ مصلیٰ وہی ہے جو ساری زندگی خدا کے قانون کے پیچھے چلے۔

(سلیم کے نام خطوط، جلد اول، صفحہ 154-161)

یہ تھا پرویز صاحب کا موقف صلوة (نماز) کے متعلق، ہم سب سے پہلے ان چند موضوعات پر بات کریں گے جن کا تعلق بالواسطہ مذہبی مناسک سے ہے۔ صلوة عبادت کا نقطہ معراج ہے۔ عبادت کے لیے اردو میں پرستش اور پوجا پاٹ کے الفاظ ہیں جو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک معنی دے رہے ہیں۔ مگر پرویز صاحب نے ان الفاظ (پرستش - پوجا) کو منفی پیرائے میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ پرستش اور پوجا تو بتوں کی جاتی ہے جبکہ خدا کی عبادت کچھ علیحدہ چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں اور اس کے بعد صلوة (نماز) پر تفصیلاً بات کریں گے۔

عبادت

سب سے پہلے عبادت کے بارے میں پرویز صاحب کا لفظ نظر دیکھتے ہیں۔
 ”اس کا مادہ (ع۔ب۔د) ہے جس سے لفظ ”عبد“ آتا ہے اور جیسا کہ معلوم ہے عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلامی اور محکومی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ ”اشعراء“ میں ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے تو اس نے ان سے کہا کہ ”موسیٰ! ہم نے تم پر اس قدر احسانات کئے اور تم ہمیں ان احسانات کا بدلہ یوں دے رہے ہو۔“ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے احسانات یہی ہیں نا کہ اَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (26/22) تم نے میری قوم کو اپنی غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ (یہاں ”عَبَّدْتُ“ کے معنی واضح ہیں) دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا اَنْتُمْ مِنْ لَيْسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَہ (23/47) کیا ہم ان کی بات مان لیں، جو ہمارے ہی جیسے دو آدمی ہیں اور ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ”عبدیت“ کے معنی خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔

(مطالب الفرقان، جلد اول، صفحہ 35)

مزید لکھتے ہیں۔

”لہذا قرآن کریم میں

- ۱۔ جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہونگے تو انہیں خداوندی کی برضا و رغبت اطاعت۔
 - ۲۔ جہاں طاعت اور شیطان کی عبادت کا ذکر ہوگا اس سے مفہوم یا تو انسان کے خود اپنے جذبات کی اطاعت ہوگی یا دوسرے انسانوں کے احکام کی اطاعت۔
 - ۳۔ جہاں بتوں یا دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ذکر ہوگا وہاں ان کی توہم پرستانہ پرستش مفہوم ہوگا۔“ (لغات القرآن 1125-1126)
- ”چونکہ جذبات اطاعت و فرمان پذیری کے اظہار کے لئے کوئی محسوس انداز اختیار کرنا

، (مثلاً جھکنا) انسان کے لاشعور میں چلا آ رہا ہے اس لئے قرآن کریم نے بھی اظہار جذبات کے اس محسوس انداز کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن اس نے اسے بھی ایک اجتماعی حیثیت دے دی ہے۔ یعنی خدا کے سامنے جھکنا (رکوع و سجود) اس حقیقت کا محسوس مظاہرہ ہے کہ ہم تو انین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم ان کی اطاعت اور فرماں پذیری کو قبول کرتے ہیں۔“

(لغات القرآن 1125-1126)

”اجتماعات صلوة میں اٹھنا اور جھکنا انہی جذبات اطاعت و فرماں پذیری کا محسوس مظہر ہے۔ لیکن خدا کی عبادت اسی حد تک محدود نہیں۔ اس کی عبادت سے مقصود یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر سانس میں تو انین خداوندی کی اطاعت کرے۔“ (لغات القرآن 1125-1126)

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ مناسک صرف محسوس مظاہر ہیں اور اصل مقصد کچھ اور ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کی کوئی سند میسر نہیں ہے۔ قرآن کریم تو دو طرح کی بات بیان نہیں کرتا۔ وہ جو حکم دیتا ہے اس سے مقصود اور غایت وہی ہوتا ہے۔ جس ہدّ و مد سے قرآن کریم نے یہ احکامات دیئے ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ صرف محسوس مظاہر ہیں قطعاً غلط ہے۔ بلکہ تو انین خداوندی پر عمل کے لیے تو کسی محسوس عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھئے تعزیرات میں یا عائلی قوانین میں یا اخلاقی نصائح میں۔ قانون پر تو ”عمل“ ہی اس کی عملی شکل ہے۔ اس لیے ان دو باتوں (قوانین پر عمل اور محسوس مظاہر یا حرکات و سکنات) کو خلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔

اب آتے ہیں ”عبادت“ کے معنوں کی طرف ”عبد“ کی معنی کے لحاظ سے پرویز صاحب نے جو تخصیص کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ ایک ہے۔ بتوں کے لیے استعمال ہو تو اور معنی اور اللہ کے لیے استعمال ہو تو دوسرا معنی۔ حالانکہ یہ تو زبان کا عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنے معنی کے لیے سیاق و سباق کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہی اس کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عباد اور عبادت کے ایسے معانی موجود ہیں جن سے ایک خاص نہج کی حرکات و سکنات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور وہاں ان کا کوئی اور معنی نہیں کیا جاسکتا۔ ذیل میں ہم ان آیات قرآنی پر غور کرتے ہیں۔

☆ اِذْ قَالَ لَآئِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ هٗ قَالُوْا وَ جَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا

”جب (حضرت ابراہیمؑ) نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم لگے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا۔“

اس آیت میں لفظ عَاكِفُوْنَ استعمال ہوا ہے جس کے معنی تعظیماً کسی شے کی طرف بڑھنے اور اس سے مستقل طور پر وابستہ ہونے کے ہیں۔ اور یہی لفظ مؤمنین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (2/187) اور جب تم مساجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔
 ☆ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ (21/66-67)

” (حضرت ابراہیمؑ) نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں اور نہ کوئی نقصان (تکلیف)۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔“

☆ وَأْتُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عِكْفِينَ ۚ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۚ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۚ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ (26/69-75)

”ان کو ابراہیمؑ کی داستان سناؤ۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں۔ یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے پایا۔ اس نے کہا کیا تم نے اس پر کبھی غور کیا جس کی تم پرستش کرتے ہو۔“

☆ قَرَأَ إِلَىٰ آلِهِم مَّقَالَآ تَأْكُلُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۚ (37/91-92)
 ”وہ جاگھسا ان کے بتوں میں اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو۔“

☆ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۚ (37/95)

”اس نے کہا کہ تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ جو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو۔“

☆ اِذْ قَالَ لِاٰيِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ۗ (19/42)

”جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ تو نے ایک ایسی چیز کی پرستش کیوں اختیار کر رکھی ہے جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی تیرے کسی کام آسکتی ہے۔“

☆ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنِبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۗ (14/35)

”اور جب ابراہیم نے کہا اے رب! اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔“

☆ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۗ (5/76)

”کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اور اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔“

☆ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ ۗ اَنْتُمْ لَهَا وَاِرْدُوْنَ ۗ (21/98)

”تم، اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔“

☆ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظٰهِيْرًا ۗ (25/55)

”اور وہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر دیتے ہیں۔“

☆ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۗ (41/37)

”شمس و قمر کو سجدہ نہ کرو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔“

☆ وَاِبْرٰهِيْمُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِيْهِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِنْفَاكًا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۗ (29/16-17)

”اور جب ابراہیمؑ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تم تو اللہ کے سوا جن بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ بناتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں پس تم رزق تلاش کرو اللہ کے ہاں اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔“

ان آیات قرآنیہ سے درج ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں۔

- 1- لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کی تعظیم میں بیٹھے رہتے تھے۔
- 2- یہ بت ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہوتے تھے۔
- 3- بتوں کو جب پکارا جاتا تو وہ سنتے نہیں تھے۔ اور نہ ہی دیکھتے تھے اور نہ ہی بولتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے۔

4- یہ بت لوگوں کو کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اور نہ ہی کسی کے کام آتے تھے۔

5- لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے تھے۔

6- ان کو حکم دیا گیا کہ بتوں کی پرستش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں۔

ان آیات میں ”مِنْ دُونِ اللّٰهِ“ کا جملہ ”عبادت“ کے معنی کو واضح کر دیتا ہے۔ یعنی کام ایک ہی ہے ”عبادت“۔ اور حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی مفعول کو بدلا جا رہا ہے کہ ”عبادت“ بتوں کی نہ کرو، اللہ کی کرو۔ تو اس میں کسی بھی طرح معنی کا فرق نہیں ڈالا جاسکتا کہ یہ لفظ بتوں کے لیے استعمال ہو تو ”پرستش“ بن جائے اور اللہ کے لیے استعمال ہو تو ”اطاعت و محلومی“ بن جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ ”فلاں ڈاکٹر سے علاج نہ کراؤ بلکہ اس ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔“ تو کام تو ایک ہی ہے۔ اس سے لفظ علاج کی ہیئت یا معانی پر تو اثر نہیں پڑسکتا۔ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ ان مقامات پر ”عبد“ اور عبادت کے معانی غلامی، محلومی اور قوانین کی اطاعت نہیں کہنے جاسکتے۔ کیونکہ بتوں کی صرف پرستش ہی ممکن ہے اور غلامی، محلومی اور اطاعت کے لیے کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو دیکھنے، سننے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور یہی الفاظ اللہ نے

اپنے لیے استعمال کیے کہ تم بتوں کی پرستش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرو۔
اب ہم ایک ایسی سورۃ دیکھتے ہیں جس میں ”عبادت“ کا لفظ مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابل لاکر
مفہوم کو اور واضح کیا گیا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبُدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ (6-109/1)

”کہہ دو! اے کافرو، نہیں میں پرستش کرتا جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ اور نہیں تم پرستش کرتے
جس کی میں پرستش کرتا ہوں۔ اور نہیں میں نے پرستش کی جن کی تم نے پرستش کی۔ اور نہیں تم
پرستش کرنے والے جن کی میں پرستش کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا
دین۔“

پرویز صاحب اس سورۃ کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں۔

(اے رسول! تم نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی وقت صرف کر دیا۔
تم نے ہر ممکن کوشش کر دیکھی کہ یہ تباہی سے بچ جائیں۔ لیکن اب کوئی امید باقی نہیں کہ یہ اس طرح
صحیح راستہ اختیار کر لیں گے۔ یہ ابھی تک اپنے دل میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یا تو تم ہارتھک کرا اپنی
دعوت کو ختم کر دو گے یا ان سے مفاہمت کر لو گے۔ اس لئے یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا،
اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے دو ٹوک بات کر لی جائے۔) تو ان لوگوں سے جو تمہاری دعوت کی
اس طرح مخالفت کر رہے ہیں، بر ملا کہہ دے کہ:

تمہاری اور میری منزل بھی الگ الگ ہے اور راستے بھی جدا جدا۔ مقصود بھی الگ ہے
اور اسے حاصل کرنے کے ذرائع بھی الگ۔ تمہارے معبود الگ ہیں، میرا معبود الگ۔ تم
”عبادت“ سے کچھ اور مفہوم لیتے ہو، میں کچھ اور۔ تمہارے معبود، تمہارے ذہن کے تراشیدہ
ہیں۔ میرا معبود خالق کائنات ہے۔ تم اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، میں اپنے معبود کے
احکام و قوانین کی اطاعت کو اس کی عبادت سمجھتا ہوں۔ لہذا، ہم دونوں ایک نقطہ پر جمع ہو ہی نہیں
سکتے۔ اس میں مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ بھی مت خیال کرو کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف کوئی ہنگامی اور وقتی اختلاف ہے۔ کچھ

عرصہ کے بعد یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ قطعاً نہیں۔ یہ اختلاف بنیادی اور اصولی ہے۔ یہ نہ اس وقت مٹ سکتا ہے نہ اس کے بعد کبھی مٹے گا۔ تمہارے معبود الگ رہیں گے۔ میرا معبود الگ۔ تمہاری عبادت، ان معبودوں کی پرستش ہوگی، میری عبادت خدا کے قوانین کی اطاعت اور محکومیت۔۔۔ لہذا، یہ اختلاف امنٹ ہے۔

اس لئے تمہارا پروگرام الگ ہے، میرا پروگرام الگ۔ تم اپنے پروگرام پر عمل پیرا ہو، مجھے اپنے پروگرام پر چلنے دو۔ نتائج خود بخود بتادیں گے کہ آخر الامر کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے۔ (مفہوم القرآن۔ جلد سوم)

خط کشیدہ سطور میں پرویز صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے عرب ”عبادت“ کا مفہوم غلط لیتے تھے۔ جبکہ ان آیات میں ”عبادت“ کے مفہوم کے سلسلہ میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ فعل ایک ہی ہے ”عبادت“۔ صرف مفعول کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے۔ یعنی بتوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔

اس سورہ میں کافروں کو مخاطب کر کے عبادت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد بتوں کی پرستش ہے، کیونکہ عرب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور عربوں کے اوپر کوئی حاکم بھی نہیں تھا جس کی وہ محکومی کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں پرویز صاحب رقمطراز ہیں۔

”خاص خانہ کعبہ میں عدنانی قبیلہ کا سب سے بڑا بت، ہبل نصب تھا۔ طائف میں لات کا ہیکل تھا۔ دوسری طرف مکہ سے تھوڑی دور عزیٰ دیوی کا معبد تھا۔ یہ تو بڑے بڑے بت تھے۔ چھوٹے چھوٹے بت ہر قبیلہ کے الگ الگ موجود تھے۔ صباہیت کے اثر سے قبیلہ قیس ستارہ شعری کا پرستار تھا۔ قبیلہ کنانہ چاند کی پرستش کرتا تھا۔ اسد کا قبیلہ عطار کو پوجتا تھا۔ ان کے علاوہ ارواح خبیثہ بھوت، پریت پر بھی ان کا اعتقاد تھا جنہیں خدا کا مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔ جنوں اور فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی۔“ (معراج انسانیت صفحہ 30)

اور محکومیت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں

”خطہء حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی اس میں ہوں ملک گیری پیدا ہوئی تھی۔ اس سرزمین کو

یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اس پر جب سے زندگی کی نمود ہوئی کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔
 (غیر تو ایک طرف خود اپنے ہاں بھی کوئی خاص منظم حکومت نہیں ہوئی)۔۔۔۔۔
 لیکن اس سلسلہ میں لکھتا ہے۔

”عربوں کی آبادی یونان اور روم کی نفیس لیکن مصنوعی جمہوریتوں سے بالکل مختلف چیز تھی۔ اس آزادی میں ہر فرد اپنی قوم کے ملکی و سیاسی حقوق میں برابر کا حصہ دار تھا۔ ان کے ہاں قوم اس لیے آزاد تھی کہ فرزند ان قوم کسی آقا کے سامنے ذلت آمیز اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سینے، حوصلے، استقامت اور متانت کے جوہروں سے لبریز تھے۔ Decline & Fall vol.vi, (P-267 بحوالہ معراج انسانیت صفحہ 42-41)۔“

اس سے ظاہر ہے کہ عربوں میں محکومی کا تصور نہ تھا۔ بلکہ عبادت سے مراد خاص طریقہ کار کی پرستش ہی تھی۔

قیام

صلوٰۃ کا ایک جزو ”قیام“ ہے۔ جس کے معنی ہیں کھڑا ہونا۔ اس لفظ کے مادہ میں دیگر معانی بھی موجود ہیں۔ لیکن ہم اس لفظ کے سیاق و سباق کی مناسبت سے صرف ان مقامات کا جائزہ لیں گے جہاں یہ خالصتاً ”عبادت“ کے لیے کھڑے ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ خصوصاً یہ لفظ نماز کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اَقِمْو الصَّلٰوۃ یعنی نماز کھڑی کرو۔ یا نماز قائم کرو یا نماز پڑھو۔ بات ایک ہی ہے کسی بھی فرد کے ذہن میں کوئی دوسرا تصور نہیں آتا۔ پرویز صاحب نے اس کا مطلب (Establish) کرنا کئے ہیں۔ آئیے ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں۔

”يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوۃ“ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”وہ نماز قائم کرتے ہیں۔“ ”نماز پڑھتے ہیں۔“ کا تو مطلب سمجھ میں آسکتا ہے لیکن ”نماز قائم کرتے ہیں۔“ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ مادہ (ق۔ و۔ م) ہے۔ قَامَ، قِيَامًا کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملہ کا اعتدال اور توازن پر ہونا، محکم اور استوار ہونا۔ ثابت اور دائم رہنا۔ اَقَامَ کے معنی ہیں اسے درست اور سیدھا کیا۔ اس کا توازن قائم رکھا۔ ان معانی کو سورۃ فاتحہ میں الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

کے سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا اقامتِ صلوٰۃ کے معنی ہو گئے الصلوٰۃ کو محکم اور استوار کرنا۔ متمکن کرنا۔ (Establish) کرنا۔ مارا ڈیوک پکتھال نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن مجید میں یقیمون کے یہی معنی لکھے ہیں۔ [اگرچہ اس کے ساتھ الصلوٰۃ کا ترجمہ روش عامہ کے تتبع میں (Worship) ہی کیا ہے۔] اس سے واضح ہے کہ ’الصَّلَوٰة‘ کوئی ایسی چیز ہے جس کا متمکن اور مستحکم کیا جانا مطلوب و مقصود ہے۔“ (مطالب الفرقان۔ جلد اول صفحہ 97)

اس مفہوم کو بنیاد بنا کر قرآن کریم میں جہاں بھی صلوٰۃ کے ساتھ قیام کا ذکر آیا۔ پرویز صاحب نے اس کا مطلب ”نظامِ صلوٰۃ کا قیام“ کر دیا اور ”عبادت کے لیے کھڑے ہونے“ کا معنی بالکل ہی غائب کر دیا۔ زیر نظر آیات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں قیام کا لفظ عبادت کے لیے کھڑے ہونے میں بھی استعمال ہوا ہے۔

☆ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝ (2/238)
 ”نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔“

☆ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ (3/39)
 ”پس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ (حضرت زکریا) حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“

☆ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (3/191)
 ”جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان وزمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

☆ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۝ (4/103)
 ”پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔“

☆ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۝ (10/12)

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے۔ لیٹے بھی، بیٹھے بھی اور کھڑے بھی۔

☆ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ (52/48)**

”اور اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کر، پس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور تسبیح کرا اپنے رب کی حمد کی، جب تو کھڑا ہو۔“

☆ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (22/26)**

”اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ مقرر کر دی۔ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا۔“

☆ **وَالَّذِينَ يَبْتِئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ (25/64)**

”اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔“

☆ **قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (73/2)**

”رات کو قیام کر، مگر تھوڑا۔“

☆ **وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَّاه ۝ (72/19)**

”اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔“

ان آیات سے واضح ہے کہ یہاں کسی نظام کی بات نہیں ہو رہی جس کا قائم کرنا مقصود ہے بلکہ یہاں قیام سے مراد صرف خدائے بزرگ و برتر کے حضور کھڑا ہونے کے ہیں۔ اور جس کا مقصد عبادت یا پرستش ہی ہے۔

رکوع

اس کے بارے میں پرویز صاحب لکھتے ہیں۔

”رُكْعَ کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل جھکنا یا گر جانا۔ خواہ اس میں گھٹنے زمین پر لگیں یا نہ لگیں۔ البتہ سر ضرور جھک جائے۔ راغب نے کہا ہے کہ رُكُوع کے معنی جھکنے کے ہیں۔ یہ لفظ کبھی بالخصوص جسمانی شکل میں جھکنے کے لئے اور کبھی محض عاجزی اور انکساری کے لیے بولا جاتا

ہے۔ خواہ عبادتاً ہو یا بغیر عبادت کے۔ یعنی کسی کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے۔“
 ”رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ“ درحقیقت تو انین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے یعنی کامل اطاعت۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں سے کہا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ (2/43) یعنی جو جماعت مؤمنین، تو انین خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ تم بھی ان میں شامل ہو کر اسی طرح ان تو انین کی اطاعت کرو۔“ (لغات القرآن صفحہ 778)

تو انین خداوندی کے سامنے جھکنا تو ایک مبہم سی بات ہے۔ قانون پر تو صرف عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں لغت میں بھی رکوع کا معنی جھکنا ہی ہے۔ لیکن ”تو انین“ کا لفظ پرویز صاحب کا اپنی طرف سے اضافہ ہے وگرنہ لغت اور زبان میں اس قسم کا قرینہ نہیں ملتا کہ تو انین کے سامنے جھکا جائے۔ اب ہم چند قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ جن سے ”رکوع“ کا مفہوم مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔

☆ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ (2/43)

”اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“

☆ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ۖ وَعِٰهْدَنَا إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (2/125)

”اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنایا۔ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم اور اسمعیل سے کہ تم میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔“

☆ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ (3/43)

”اے مریم! تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔“

☆ النَّاسِ يُؤَنِّفُونَ الْغَابِثُونَ الْفَضِيقُونَ الْفَائِضُونَ الرُّكُوعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط وَيَبْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (9/112)

”وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے

والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور حمد و اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔“

☆ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ** (22/26)

”اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا۔“

☆ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (22/77)

”اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرتے رہو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔“

☆ **وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ** (38/24)

”اور داؤد کو گمان ہوا کہ ہم نے انہیں آزما یا ہے۔ پھر اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے گر پڑے۔“

☆ **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** (48/29)

”محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ آپس میں رحمدل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ کا فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں۔“

☆ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ** (77/48)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے۔“

درج بالا آیات سے واضح ہے کہ رکوع کی اپنی الگ حیثیت ہے جس کا مطلب صرف اور صرف عبادتاً جھکتا ہے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ نہ کہ ”قانون کی اطاعت۔“

سجدہ

پوری اسلامی دنیا میں اور تاریخ میں بھی ان اصطلاحات کے مطالب و معانی پر کبھی کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی۔ جس طرح کے نکات پرویز صاحب نے اٹھائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موضوع ”سجدہ“ بھی ہے۔ معاشرے میں کسی فرد کے سامنے ان اصطلاحات کا ذکر کیجئے تو ہر ایک ذہن اسی مفہوم کی طرف جائے گا جو معاشرے میں رائج ہے۔ اب پرویز صاحب نے اس سے کیا مفہوم لیا ہے۔ پہلے اسے دیکھتے ہیں۔

”السجود کے معنی ہیں سر کو جھکا دینا، ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی، پست ہونا اور جھک جانا لکھے ہیں۔ نَحَلَةٌ سَاجِدَةٌ جھکا ہوا کھجور کا درخت، بالخصوص وہ جو پھلوں کے بوجھ سے جھک جائے۔ سَجَدَ الْبَعِيرُ اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا تاکہ سوار اس پر بیٹھ جائے۔ لہذا اسماءہ کے معنی طبعی طور پر (Physically) انسان کے سر (یا کسی اور چیز) کے جھک جانے کے ہیں۔“

”قرآن کریم بھی چونکہ ایک خاص زبان (عربی) میں بات کرتا ہے۔ اس لئے اس کے ہاں بھی اظہار مطالب کا یہی انداز ہے۔ اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ، اطاعت اور فرماں پذیری کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ه (16/49) اور جو جاندار کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہیں اور ملائکہ، سب خدا کے سامنے سر بسجود ہیں اور وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے۔“

”اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس مادہ (س۔ج۔د) کی مختلف شکلیں آئیں وہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے کہ یہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجازی (فرماں پذیری کے) معنوں میں۔“ (لغات القرآن صفحہ 845-844)

”یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے (Form) سے اس قدر بلند ہو جانے کے باوجود، بعض مقامات میں اسے باقی بھی رکھا ہے۔ صلوٰۃ (نماز) میں قیام و رکوع و سجود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کا مظہر ہیں۔ مثلاً (سورۃ نساء میں جہاں جنگ کی حالت میں صلوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے وہاں کہا ہے) کہ ایک گروہ رسول اللہ کی اقتدا میں کھڑا ہو جائے۔ فَاِذَا سَجَدُوْا (4/102) پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”سجدہ“

سے مراد نماز کا وہ سجدہ ہے جس میں انسان سچ سچ اپنا سر خدا کے سامنے جھکاتا ہے، اور یہ شکل زمانہ نزول قرآن میں نبی اکرمؐ اور جماعت مومنین میں رائج تھی۔“

”لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کا اسی طرح خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے جذبہ اور ارادہ کا محسوس مظاہرہ ہوگا کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی وہ خدا کی کامل اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ اگر اس کا محسوس سجدہ اس کے پر خلوص جذبہ کا بے ساختہ مظہر نہیں اور محض (Form) ہی (Form) ہے، تو اس سجدے کے کوئی معنی نہیں۔“

(لغات القرآن 846-847)

”سورة الفتح میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ کے متعلق ہے تَرَاهُمْ رُكْعًا مُسَجَّدًا (48/29) تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ یہاں رکوع اور سجود کے حقیقی معنی لئے جائیں تو مطلب اجتماع صلوة کے رکوع و سجود ہونگے۔ اور اگر مجازی معنی لئے جائیں تو، ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے اور اطاعت شعاری میں سر تسلیم خم کئے ہونگے۔“

(لغات القرآن 850)

درج بالا تصریحات سے واضح ہے کہ پرویز صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ سجدہ کا معنی خدا کے سامنے جھک کر پیشانی رکھ دینا ہے۔ مگر جس طرح کی انہوں نے تمہید باندھی ہے اس سے انہوں نے عملی طور پر اس مفہوم سے انکار کیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے لغات القرآن 844-851 جلد دوم) اور جہاں اپنا بس نہیں چلتا وہاں آجاتا ہے ”مجازی معنی“۔ اس کے بارے میں ہم ”مجازی مفہوم“ کے عنوان کے تحت بات کر چکے ہیں۔

آخری پیرا میں جس انداز سے انہوں نے کہا کہ ”یہاں رکوع اور سجود کے حقیقی معنی لئے جائیں تو مطلب اجتماع صلوة کے رکوع و سجود ہونگے۔ اور اگر مجازی معنی لئے جائیں تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے اور اطاعت شعاری میں سر تسلیم خم کئے ہونگے۔“

حالانکہ پرویز صاحب قرآن کریم کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے کہ یہاں اس کا مطلب یا تو حقیقی ہے یا مجازی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ اس کا حقیقی مطلب لے لیں اور کچھ اس کو مجازی معنوں میں لے لیں۔ آخر مجازی معنی کے لیے کچھ تو

اصول وضوابط مقرر ہونے چاہئیں۔ پھر آپ ”لغات القرآن“ لکھ رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا حوالہ نہیں دیا کہ کسی ”امام“ یا ”مفسر“ یا ”ماہر لسانیات“ نے اس کے مجازی معنی لئے ہیں۔ آئیے اب قرآنی آیات دیکھتے ہیں سجدہ کے بارے میں۔

☆ **وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُحَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ط وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ (2/58)**

”اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حِطَّةً کہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔“

☆ **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَآتَيْنَاهُم مِّنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (2/125)**

”اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنا دیا۔ اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو۔“

☆ **يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ (3/43)**

”اے مریم! تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔“

☆ **كَيْسُوا سَوَاءً ط مِّنْ أَهْلِ الْكَنْبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْحَتُونَ ۝ (3/113)**

”یہ سارے کے سارے یکساں نہیں۔ بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے۔ جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔“

☆ **وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ط إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۝ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ ۝ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ**

وَأَسْلِحَتْهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
 وَاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا
 أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
 فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَمًا ۚ وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ
 كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا ه (4/101-103)

”اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جب تم ان میں ہو تو ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکروں کے لیے ذلت کی مارتیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔“

☆ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ه (7/206)
 ”بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔“

☆ التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخِفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ه (9/112)
 ”وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے

اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔“
 ☆ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
 سَاجِدِينَ ۝ (12/4)

”جب یوسفؑ نے کہا اپنے باپ سے! اے ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا
 کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“

☆ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَعَلْنَا رَبِّيَ حَقًّا ۖ (12/100)

”اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اسی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا
 کہ ابا جی! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔“

☆ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ مِّمْبَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۚ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ
 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۚ إِلَّا
 إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۚ قَالَ لِمَ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ
 حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ (15/28-33)

”اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیری کی ہوئی کھٹکھاتی ہوئی
 مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو
 تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔
 مگر ابلیس، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ
 نے) فرمایا تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس
 انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیری اور کھٹکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ۝ (22/77)

”اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو۔ تاکہ تم فلاح
 پا جاؤ۔“

☆ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّهُوا ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَجْرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ۝ (16/48-49)

”کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان وزمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔“

☆ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ ۖ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ۚ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ (25/60)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو حکم دے دے اور ان کا تو بدکنا ہی بڑھتا ہے۔“

☆ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ (25/64)

”اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔“

☆ وَجَدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ (27/24-25)

”میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے۔ وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔“

☆ آمَنُ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (39/9)

”بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ بتلاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟“

نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔“

☆ وَمِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ط لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا
لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ (41/37)

”اور دن اور رات اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ
کرو اور سجدہ اس اللہ کو کرو جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔“

☆ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ (76/26)

”اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کرو۔“

☆ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا نَّسِيْمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ صَلَوَاتُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ ۝ (48/29)

”محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں تو
انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا
نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی
صفت انجیل میں ہے۔“

☆ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝ (53/62)

”پس اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔“

☆ كَلَّا ط لَا تُطِئُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (96/19)

”خبردار! ہرگز اس کا کہنا نہ ماننا اور سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں لگے رہنا۔“

☆ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ (7/120)

”اور جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔“

☆ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُم بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ۝ (13/15)

”اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے

بھی صبح اور شام۔“

☆ قُلْ امِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ
لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ (17/107)

”کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔“

☆ اَوَلَيْكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ مِنْ ذُرِّيَةِ اٰدَمَ ۙ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ نُّؤْمِنُ
ذُرِّيَةَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِٓلَ نُوْمِنُ ۗ هٰدِيْنَآ وَاجْتَبَيْنَا ۗ اِذَا تَتْلٰى عَلَيْهِمُ الْاٰتِ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّبٰكِيًا ۝ (19/58)

”یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں۔ اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا اور اولاد ابراہیمؑ و یعقوبؑ سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔“

☆ قَالَتِي السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُؤْمِنِي ۝ (20/70)

”اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارونؑ اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے۔“

درج بالا آیات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سجدہ کا لفظ صرف اور صرف انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن معنوں میں معاشرے میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی یا مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ پرویز صاحب کا کہنا کہ ”اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ اطاعت اور فرماں پذیری کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (16/49)۔“ تو اس سے بھی مراد وہی سجدہ ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے نہ کہ اس سے کوئی ”اطاعت“ یا ”فرماں پذیری“ کا مطلب نکلتا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت سے پہلے والی آیت کو بھی ساتھ ملا لیں یعنی (16/48) تو مطلب مزید واضح ہو جاتا ہے۔ ”کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس

کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان وزمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔“

”اطاعت اور فرماں پذیری“ کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کریم میں جہاں بھی سجدہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس کا مفہوم یہی کر دیا۔ اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو وہاں مجازی معنی کا استعمال کر دیا۔ حالانکہ ”اطاعت اور فرماں پذیری“ کے لیے ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مگر پرویز صاحب نے ”رکوع۔ سجدہ۔ عبادت۔ ذکر۔ تقویٰ۔ تسبیح۔“ و دیگر اصطلاحات کے لیے ”قوانین کی اطاعت“ کا مفہوم ہی کیا ہے۔ مگر قرآن کریم میں یہ تمام اصطلاحات اپنی الگ شناخت اور حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ایک کی جگہ پر دوسری استعمال نہیں ہو سکتی۔ یعنی پیشانی پر نشان تو سجدے سے ہی پڑ سکتا ہے نہ تو رکوع سے نہ تسبیح و ذکر سے۔ وگرنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ یہاں کہہ دیتے کہ، ”اطاعت کے اثر سے ان کی پیشانی پر نشان ہے۔“

مگر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو الگ الگ بیان کیا ہے۔

الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (9/112) اور طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ (2/125)۔

اس کے علاوہ سجدہ کا یہی لفظ شمس و قمر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ”وَجَدْتَهُمَا وَ قَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (27/24) میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔“ اب یہ چیز بہت واضح ہے کہ سورج اور چاند کے قوانین کی اطاعت تو نہیں کی جاسکتی۔ یا ان کے قوانین کے آگے تو سر تسلیم خم نہیں کیا جاسکتا۔ سورج کو تو سجدہ پیشانی زمین پر رکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور مِنْ دُونِ اللَّهِ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ سورج چاند ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات، لفظ سجدہ کی ہیئت، مفہوم اور معانی ایک جیسے ہی رہیں گے۔ اسی چیز کو ایک اور جگہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ (41/37) سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو۔

اس کے علاوہ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ ”قوانین کی اطاعت“ کو وقت کی حدود

میں قید نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”کسی خاص وقت تو انین کے آگے جھک جاؤ یا سر تسلیم خم کر دو۔“ مگر سجدہ کے لیے قرآن کریم نے ایسے احکامات دیئے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ (76/26)، اور رات کو اس کے سامنے سجدے کرو۔ اَمَّنْ هُوَ قَانَتْ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا (39/9) بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو۔“

اس کے بعد قرآن کریم نے بڑی اہم حقیقت بیان کی جب کہا سِيَمَاءُ هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُودِ (48/29) ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ ایسا نشان تو صرف نماز کے سجدے سے ہی پڑسکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کے قانون کی اطاعت یا کسی بھی قسم کی عبادت سے ایسا نشان نہیں پڑسکتا۔

تصریحات بالا سے ہم نے دیکھا کہ ”سجدہ“ کا مفہوم وہی ہے جو اس وقت معاشرے میں رائج ہے۔ یعنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی اور مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔ نہ تو قرآن کریم کا سیاق و سباق اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ لغت اور گرامر کے قواعد و ضوابط۔

ذکر

ذکر عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز اذکار ہی کا مجموعہ ہے اور قرآن کریم نے مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن اس اصطلاح کے بارے میں پرویز صاحب کیا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں

”سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (2/152) اسکے یہ معنی ہیں کہ تم میرے تو انین کو اپنے سامنے رکھو تو میں تمہارے حقوق کی حفاظت کروں گا اور تمہیں عظمت و سطوت عطا کروں گا۔ تم ان تو انین کا اتباع کرو تو ان کے خوشگوار نتائج یقیناً تمہارے سامنے آجائیں گے۔ (یہاں، علاوہ دیگر امور کے یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ ابتدا (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ جس قسم کا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اسی قسم کا رد عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اذْكُرْ اللّٰهَ کے معنی تو انین خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تسبیح کے

دانوں پر اللہ اللہ گنتے رہنا)۔ اور اس اتباع کا لازمی نتیجہ شرف و عظمت اور غیر خدائی قوتوں پر غلبہ و تسلط ہے۔ جیسا کہ سابقہ حوالوں میں بتایا جا چکا ہے۔ صاحب ضرب کلیسی کا فرعون کے مقابلہ کے لیے جانا، ذکر اور تسبیح ہے۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ذکر ہے۔ اشیائے کائنات پر غور و فکر کرنا ذکر ہے۔ اقوام سابقہ کی تاریخ سے عبرت و موعظت حاصل کرنا ذکر ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک ایک قدم پر قانون خداوندی کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا ذکر ہے۔ ان قوانین کا عام چرچا کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی کو آجکل کی اصطلاح میں نشر و اشاعت کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ ”ذکر اللہ“ ہے جس سے دلوں کو سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔“

(لغات القرآن 699-700)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ذکر کو کس طرح استعمال کیا ہے۔

☆ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ يَتَّبِعُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ط فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰلِّیْنَ ۝ (2/198)

”تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔“

☆ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا ط (2/200)

”پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

☆ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّامٍ مَّعْدُوْدَةٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اَنْتَفَى ط وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنْكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ (2/203)

”اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں، دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔“

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (62/9-10)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف
جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب نماز
ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تا کہ تم فلاح پا
جاؤ۔“

☆ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْحَمْدِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُوِّ وَالْأَصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (7/205)

”اور اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی
نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام کو اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔“

☆ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (20/14)

”بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ تو میری ہی عبادت کر اور
میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔“

☆ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْلِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ (22/40)

”اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، اور گرجے اور
مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتیں جہاں اللہ کا نام بہ کثرت لیا
جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں
والا، بڑے غلبے والا ہے۔“

☆ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا ۝ (73/8)

”اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور تمام طرف سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔“

☆ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ (76/25)

”اور اپنے رب کے نام کا ذکر صبح اور شام کو۔“

ان آیات سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔

۱۔ مسجد الحرام کے نزدیک ذکر۔

۲۔ آباؤ اجداد کی طرح کا ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

۳۔ گنتی کے دنوں میں ذکر۔

۴۔ جمعہ کی نماز کے لیے ذکر۔

۵۔ دل میں ذکر عاجزی اور خوف سے۔

۶۔ درمیان کی آواز سے ذکر۔

۷۔ صبح اور شام کو ذکر۔

۸۔ ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔

۹۔ مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر۔

جو معانی ذکر کے پرویز صاحب نے بیان کئے ہیں وہ ان آیات پر توفیق نہیں بیٹھے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ قانون کو زمان و مکان کی حدود میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ مسجد میں قانون کی اطاعت کرو۔ یا کسی خاص وقت میں یا دل میں اور بین بین آواز سے۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ ذکر کا معنی وہی ہے جس طرح کا ذکر امت مسلمہ اور پہلے کی امتیں کرتی آرہی ہیں۔ اللہ کے قانون کی پابندی سمجھ میں آنے والی بات ہے مگر یہاں بات ہو رہی ہے **وَادْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ**۔ اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے تسبیح پر ہوتا ہے۔ یا لوگ انگلیوں پر کرتے ہیں یا ویسے ہی زبان سے کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کی یاد ہوتا ہے تبتل الیہ تبتیلاً، سب سے کٹ کر یعنی یکسوئی سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ یاد رکھا جائے۔ بکرۃ و اصیلاً، صبح و شام سے مراد محض صبح و شام نہیں بلکہ جس طرح ہم بولتے ہیں کہ میں رات دن آپ کو یاد کرتا ہوں۔ مراد ہر وقت ہوتی ہے۔ اس قسم کی آیات میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر وقت ہر کام میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اور ظاہر ہے جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو خود بخود انسان برائی سے بچے گا۔ اور بھلائی کے کام کرے گا۔ پرویز صاحب نے چونکہ عقلی طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز

جو خلاف از عقل ہے وہ نہیں مانی جاسکتی۔ یہ آیات اپنے مقام پر اٹل ہیں ان کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرنا۔ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ نے اگر کسی نظریے کا ابطال کرنا ہے تو گرامر، لغت، سیاق و سباق کے دلائل کے بغیر ناممکن ہے۔

تسبیح

تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ عبادت کے اندر بھی تسبیح کی جاتی ہے اور عبادت کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے بھی تسبیح کی جاتی ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرویز صاحب نے اس کا کیا مفہوم لیا ہے۔

”لسان العرب میں ہے کہ تَسْبِيحٌ کے معنی تنزیہ کے ہیں۔ نیز یہ لفظ ”سبحان اللہ“ کہنے، یا صلوة اور ذکر اللہ، حمد و مجد و ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں شدت کا پہلو غالب ہوتا ہے اس لیے تنزیہ کے معنی ہونگے، خدا کو بڑی شدت اور قوت کے ساتھ تمام نقائص سے دور سمجھنا۔

اس مادہ میں تیزی، مضبوطی، شدت کا پہلو ہوتا ہے اسی لیے لِسَاءٌ مُسَبِّحٌ کے معنی ہیں بہت مضبوط اور سخت بنا ہوا کبیل۔ اس اعتبار سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کے معنی ہونگے صفات خداوندی کو نہایت تیزی، شدت اور مضبوطی کے ساتھ اپنانا اور عام کرنا۔ مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

سورہ طُفَّتْ میں حضرت یونس کے متعلق ہے کہ انہیں بڑی مچھلی نے لقمہ بنایا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ (37/143) اگر یہ لفظ (مسیحین) سَبِّحٌ سے ہوتا تو اس کے معنی تیراک ہوتے۔ لیکن سَبِّحٌ کے اعتبار سے اس کے معنی ہونگے پوری قوت اور شدت سے جدوجہد کرنے والا۔ اس میں مچھلی کے منہ سے نکلنے کے لیے پوری جدوجہد کرنے کے بعد ساحل تک پہنچ جانے میں تیرنے کا مفہوم خود بخود آجاتا ہے۔ ان مقامات سے بھی تسبیح کے معنی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ شدت، مضبوطی، تیزی کے ساتھ خدا کے پروگرام کی تکمیل میں مصروف جدوجہد رہنا۔

(لغات القرآن صفحہ 836)

حالانکہ یہ بات ناممکن العمل ہے کہ مچھلی کے منہ سے نکل کر اور پھر تیر کر دریا یا سمندر کے کنارے پہنچ جانا۔ جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ **فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ**۔ مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا تھا یعنی نکل لیا تھا اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے اس تسبیح کا بھی ذکر کر دیا جو یونس نے پڑھی تھی۔ **وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ؕ صَلِّ إِلَيَّ يَا كَرِيمُ ۝ (21/87)** مچھلی والے (حضرت یونسؑ) کو یاد کرو! جب وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے پکارا اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔

اب ہم قرآن کی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ جن سے تسبیح کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔
☆ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمًا ۖ وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ (3/41)

”انہوں نے کہا (حضرت زکریاؑ) اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر، مگر صرف اشارے سے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کر۔“

☆ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ حِيۡفَتِهٖ ؕ (13/13)
 ”اور گرج اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔“

☆ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ (15/98)
 ”پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہ۔“

☆ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيۡهِنَّ ۗ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيۡحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا غَفُوْرًا ۝ (17/44)

”ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔“
☆ فَاصْبِرْ عَلٰٓى مَا يَقُوْلُوْنَ ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوۡعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوۡبِهَا ۗ وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ ۗ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝ (20/130)

”پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقتوں میں اور دن کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کر تاکہ تو راضی ہو جائے۔“

☆ فَهَمَّهَا سَلِيمَنَ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ
وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ (21/79)

”ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے اور پرندے بھی جو تسبیح کرتے تھے۔ اور ایسا ہم ہی کرنے والے تھے۔“

☆ فِى يَوْمٍ اِذِىنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهٗ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْاَصَالِ ۝ (24/36)

”ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے۔ وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔“

☆ فَسَبِّحْنَ اللّٰهَ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ (30/17)

”پس اللہ کی تسبیح پڑھو جب تم شام کرو، اور جب صبح کرو۔“

☆ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا ۙ وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ (32/15)

”ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔“

☆ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً ۙ وَّاَصِيْلًا ۝ (33/42)

”اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔“

☆ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ ۙ وَالْاَشْرَاقِ ۝ (38/18)

”ہم نے پہاڑوں کو اس کے (حضرت داؤد کے) تابع کر رکھا تھا اس کے ساتھ صبح اور شام کو تسبیح کریں۔“

☆ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَارِ ۝ (40/55)

”پس (اے نبیؐ) تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہے۔ اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہ۔
اور صبح اور شام کو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح بیان کر۔“

☆ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ (52/48)
”صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی بیان کر۔“

☆ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (56/74)
”پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔“

☆ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ (76/26)
”اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔“

ان آیات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

۱۔ مخصوص اوقات کی تسبیح

۲۔ حمد کی تسبیح

۳۔ اللہ کے نام کی تسبیح

۴۔ پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح

۵۔ ہر شے کی تسبیح مگر انسان کی سمجھ سے بالا

۶۔ سجدے میں گر کر تسبیح

یہ تمام نکات تسبیح کے بارے میں پرویز صاحب کے مفہوم کی نفی کرتے ہیں۔ جدوجہد تو
ایک مسلسل عمل ہے اسے اوقات میں قید نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رات کو جدوجہد
کرو یا دوپہر کو کرو۔ پھر اللہ کے نام اور حمد کی تسبیح تو ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے اس وقت ہمارے
معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ساتھ
ہی کہا کہ ایمان والے تو سجدے میں گر کر تسبیح کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کونسی آیت واضح

ہوگی؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے مگر تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہاں اگر یہ مطلب لیا جائے کہ ہر چیز فطری قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے تو ان قوانین کا تو انسان نے علم حاصل کر لیا۔ اب انسان تو یہ بتا سکتا ہے کہ اگلی صدی میں سورج گرہن اور چاند گرہن کس وقت لگے گا۔ اس لیے ان اشیاء کا فطری قوانین کے تحت سرگرم عمل ہونا تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ اس کے بارے تو یہی اللہ نے فرمایا کہ ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔

اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا طریقہ خود ہی سکھایا ہے۔ آئیے اس بارے قرآن کریم سے چند آیات دیکھتے ہیں۔

☆ **أَوْ يَكُونُ لَكَ يَبِيتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ ط وَ لَٰكِنُّنُومٌ مِّنْ لِّرُقَيْكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ط قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۝ (17/93)**

”یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے۔ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ (اے نبی) جو اب دیجئے! میرا پروردگار پاک ہے۔ میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنا یا گیا ہوں۔“

☆ **قُلْ امِنُؤَاۤىٕهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوۡا ط اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتٰوَالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوۡنَ لِاَلْدُقَانَ سٰجِدًا ۝ وَيَقُوۡلُوۡنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كٰنَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوۡلًا ۝ (17/107-108)**

”کہہ دیجئے! تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ۔ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔“

☆ **لَتَسْتَوِيَٰ عَلٰى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوۡا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوۡلُوۡا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيۡنَ ۝ (43/13)**

”تا کہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو کر پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا۔ باوجودیکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔“

☆ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَهُ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ ۝ (68/28-29)

”ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم تسبیح (اللہ کی پاکیزگی) کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے۔ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔“
سبحان اللہ! یہاں بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ سوال بھی ساتھ ہی اور جواب بھی ساتھ ہی۔ نہ کسی قسم کی جدوجہد ہے اور نہ ہی تو انہیں کے مطابق مصروف کار رہنا ہے بلکہ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا۔ بس اللہ کی پاکیزگی اور حمد بیان کرنا ہی تسبیح ہے۔

صلوٰۃ

ان تمام موضوعات میں ایک بات واضح ہے کہ یہ تمام ارکان عبادت کی ایک ہی شکل میں مربوط طریقے سے سرانجام دیئے جاسکتے ہیں اور وہ ہے صلوٰۃ یا نماز۔ اس کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر ہم ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات پر غور کریں گے۔ جن سے صلوٰۃ (نماز) کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا۔

☆ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ (2/43)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔“

پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ ”نماز پڑھنا“ تو سمجھ میں آسکتا ہے لیکن ”نماز قائم کرنا“ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ وہ ”اقیموا“ کا مطلب Establish کرنا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ قَامَ قِيَامًا کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ اگر ترجمہ ”نماز کھڑی کرنا“ ہو تو پھر شایان کا اعتراض ختم ہو جائے۔ جبکہ ”نماز پڑھنا“، ”نماز قائم کرنا“ اور ”نماز کھڑی کرنا“ کوئی سا بھی جملہ ہو۔ قرآنی تراجم ہوں یا معمول کی بول چال۔ کسی بھی فرد کا تصور اس جملے سے مسجد میں نماز کے موجود اجتماع کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اور یہ معاملہ وجہ نزاع بھی نہیں ہے۔ کم از کم کسی ایک فرقے نے دوسرے پر اعتراض نہیں کیا کہ تم نے ”نماز قائم کرنا“ کیوں کہا اور ”نماز پڑھو“ کیوں نہیں کہا۔ اصل مفہوم تو سب کے ذہن میں یہی ہے جو ہم ”نماز پڑھنا“ سے سمجھتے ہیں۔

☆ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصَلًى ط (2/125)

”اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنا دیا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔“

﴿یعنی جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک ہر عمرہ اور حج کرنے والا اس مقام پر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ حکم نہ تو کسی حکومتی نظام کے قائم کرنے سے متعلق ہے اور نہ تو انین کی اطاعت کے بارے میں۔ کیونکہ ان دونوں کے لیے تو مقام ابراہیم کو ”مصلیٰ“ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ ”بیت اللہ امت مسلمہ کا ایک محسوس مرکز ہے۔ جس میں تمام امت کے معاملات کے فیصلے ہونگے۔ جبکہ مقام حیرت ہے کہ حضور نے سیاسی نظام کا مرکز مدینہ منورہ کو بنایا اور خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس کو تبدیل نہ کیا۔“

☆ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطَى ؕ وَتَوَمُّوا لِلّٰهِ فَتَبَيَّنَ ؕ هَ فَاِنْ حِفْتُمْ فَرِحَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۖ فَاِذَا اَمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ه (2/238-239)

”نمازوں کی حفاظت کرو۔ بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی۔ پس جب امن کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“

﴿پہلے صلوٰۃ کے بارے میں ایک عمومی حکم ہے اور اس کے بعد کہا کہ خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت۔ اگر کسی ”نظام صلوٰۃ“ یا ”قوانین کے پیچھے چلے“ کا ذکر ہوتا تو پھر یہ تقسیم تو غیر ضروری تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ باادب کھڑے رہو۔ اس کے بعد حالت خوف اور حالت امن کی صلوٰۃ، اور خوف کی حالت میں سوار یا پیدل ہی نماز ادا کر لینے کا حکم؟ وہ کونسا ”نظام صلوٰۃ“ ہے یا ”قوانین کی اطاعت“ ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں۔ بلکہ یہ سب خصوصیات تو اسی نماز کی ہیں جسے مسلمان پانچ وقت میں ادا کرتے ہیں۔“

☆ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فِي (3/39)

”پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“

﴿اس آیت سے تو ”صلوٰۃ“ کے ساتھ یُقِیْمُوْنَ کا استعمال واضح طور پر بتا رہا ہے کہ نماز میں کھڑا ہونے کو ہی اصطلاحاً نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اگر مقصد نظام کی اطاعت ہوتا تو یہاں یُصَلِّیْ کے ساتھ ’قائم‘ کا لفظ نہیں آنا چاہئے تھا۔ یہاں سے بھی واضح ہے کہ حضرت زکریا کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ رہے تھے۔

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (4/43)

”اے ایمان والو! تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک کہ تم سمجھنے نہ لگو جو تم کہتے ہو۔ اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔“

﴿اس آیت کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایسی صلوٰۃ بلا مقصد ہے۔ دیکھئے پرویز صاحب کے الفاظ۔

”اس آیت میں حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ سے حکم کی علت سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی صلوٰۃ اسی صورت میں صلوٰۃ ہے جب صلوٰۃ ادا کرنے والا یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص پر نشہ یا نیند کے غلبہ کی وجہ سے یہ حالت طاری ہو جائے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کا علم نہ رکھے۔ یا جہالت کی بنا پر ایسا ہو۔ تو حکم دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نقطہ کے متعلق تفصیل سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جن الفاظ کا آپ مطلب نہیں سمجھتے ان کے دہرانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔“

(قرآنی فیصلے جلد اول صفحہ 46)

اس حالت میں صرف نشہ کی حالت کا ذکر ہے۔ جو کہ ایک الگ کیفیت ہے۔ ہوش کی

حالت میں عربی متن اور اس کے فہم کی بات نہیں کی جا رہی۔ کیونکہ قرآن کریم عربوں پر ان کی زبان میں ہی نازل ہوا۔ اور ان کو اس کا سمجھ میں نہ آنا خارج از امکان ہے۔ باقی رہی عجمی لوگوں کی بات تو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اب ”اللہ اکبر“ کہا ہے۔ اب ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہا ہے۔ اور تمام لوگ اس کے مطابق نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک صلوٰۃ کے مندرجات میں عربی متن کا تعلق ہے۔ تو اس کو بھی بفضل اللہ کافی تعداد جانتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ تو اس کا انفرادی عمل ہے۔ اور تھوڑی سی کوشش سے اس کی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ مگر آیت کے اس ٹکڑے کو بنیاد بنا کر صلوٰۃ کو بلا مقصد قرار دینا درست نہیں۔

پھر آیت کے باقی مندرجات میں ایک ہنگامی مسئلے کی بابت حکم دیا جا رہا ہے۔ جس میں پانی کی عدم دستیابی کا ذکر ہے۔ اور اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ جو کہ مروجہ نماز کے بارے میں ہی ہے۔ نہ کہ کسی ”نظام صلوٰۃ“ یا مشورے کی بابت ”اجتماع صلوٰۃ“ کے لیے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں نہ وضو کی کوئی ضرورت ہے اور نہ تیمم کی۔

☆ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيُخَلُّوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَخَرُوا فَلْيُكُونُوا مِنْ وِرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيُخَلُّوا حُدُورَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُلُّوا حُدُورَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (4/101-103)

”اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرو۔ پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت

جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو۔ یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مارتیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔“

﴿ان آیات میں نماز کا مفہوم بہت واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنگامی حالت میں عبادت کے ایک اہم رکن نماز کی کیا صورت ہوگی۔ ان آیات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

۱۔ نماز کا مختصر ہونا

۲۔ اسلحہ اٹھا کر نماز کی ادائیگی

۳۔ پہلے ایک گروہ کا نماز پڑھنا اور پھر دوسرے کا

۴۔ حالت امن میں مروجہ طریقہ کار کے مطابق نماز کی ادائیگی

۵۔ نماز کے لیے مقررہ اوقات

یہ تمام خصوصیات اسی نماز کی ہیں جو امت مسلمہ تو اتر کے ساتھ ادا کرتی چلی آرہی ہے اور جو اس وقت معاشرے میں رائج ہے۔ ’صلوٰۃ‘ یا ’سجدے‘ کا لغت سے ماورا کوئی بھی مفہوم مذکورہ بالا خصوصیات پر پورا نہیں اترتا۔ پرویز صاحب نے بھی اس مقام پر آ کر یہ کہا کہ اس مراد وہی نماز تھی جو حضورؐ کے دور میں رائج تھی۔ مگر متبعین پرویز نے یہاں آ کر پرویز صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ ’’دوران جنگ مشورہ‘‘ کا حکم ہے۔ جبکہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں ساری فوج سے کبھی مشورہ نہیں کیا جاتا۔

☆ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ ؕ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا مُكْسٰلِيْنَ ۙ
يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (4/142)

”بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ بھی انکو دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔“

﴿یہ منافقین کی کیفیت ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان کے دل اس کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح صرف دکھاوے کے لیے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں الفاظ ”قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا مُسَالًی“ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صرف اسی نماز کی بات کی جا رہی ہے جو اس وقت مروج ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ”صلوٰۃ“ کے ساتھ ”یقیموا“ کا لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ مقصد نماز کی حالت میں کھڑا ہونا ہے۔ نہ کہ کسی چیز کا قائم یا Establish کرنا۔

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ (5/6)

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو۔ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو۔ یا تم عورتوں سے ملے ہو۔ اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔“

﴿اس آیت میں نماز سے پہلے اپنے آپ کو مطہر کرنے کا ذکر ہے۔ اور ایمر جنسی کی صورت میں، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔ اور ایمر جنسی کی جو صورتیں اوپر آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ مروجہ نماز پر ہی صادق آتی ہیں۔

☆ قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ط إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ه (11/87)

”انہوں نے کہا اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔“

﴿ اس ایک آیت کی بنیاد پر پرویز صاحب نے صلوٰۃ کا تعلق معاشیات سے اس طرح جوڑا ہے کہ دونوں کو ایک ہی چیز ظاہر کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں قرآن کریم میں صلوٰۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وہاں ان دونوں کو بھی ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ”نظام صلوٰۃ“ جس کا دائرہ معاشیات سمیت تمام امور کو محیط ہو۔

مذکورہ آیت کا ایک ٹکڑا ’ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ‘ کا ترجمہ پرویز صاحب یہ کرتے ہیں کہ ”اور یہ کہ ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔“ (مطالب الفرقان۔ جلد اول صفحہ 101)

حالانکہ یہاں مال خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس ٹکڑے کا ”صلوٰۃ“ والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اس آیت سے پہلے کی چند آیات پیش کرتے ہیں

وَالِى مَدِيْنَ اَحَاهُمْ شَعِيْبًا ط قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ه وَيَقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَا ءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ه بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ه وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ه قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ط إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ه (11/84-87)

”اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں

آسودہ حال دیکھ رہا ہوں۔ اور مجھے تم پر گھبر لانے والے دن کے عذاب کا خوب بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ اور زمین میں فساد اور خرابی نہ پھیلاؤ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم ایماندار ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلوٰۃ (نماز) تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔“

”أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ“ اس پہلی بات کا جواب ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس لیے اسمیں مال کے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلوٰۃ کا جواب تو اس نوم نے یہ دیا ”أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا“۔

اس لیے پرویز صاحب کا یہ طرز استدلال بالکل غلط ہے صلوٰۃ اور معاشیات دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ صرف ایک ٹکڑے کو غلط منہوم پہنا کر دونوں چیزوں کو ایک ہی نہیں کہا جاسکتا۔

☆ وَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ه (11/114)

”دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کرو۔ اور رات کی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

﴿﴾ ہم جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مروجہ نماز کے علاوہ صلوٰۃ کے کسی بھی اور مفہوم کو اوقات کی حدود میں قید نہیں کیا جاسکتا۔ چاہے وہ مفہوم ”مشورہ“ ہو یا ”صلوٰۃ کا اجتماع“ یا ”نظام صلوٰۃ“، کیونکہ ان تمام چیزوں پر اوقات کی پابندی اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر نہیں لگائی جاسکتی۔ اس کے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ نماز کا عمل نیکی کا ہے جو برائی کو ختم کرتا ہے۔ اس کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہ ہر فرد اپنی اپنی توفیق کے مطابق نیکی کو حاصل کرے۔ جبکہ مروجہ نماز کے عمل سے ہٹ کر ایسا کرنا ناممکن ہے۔

☆ اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ط إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ه (17/78)

”اور نماز قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔“

﴿اس آیت کریمہ میں صلوٰۃ کے پانچ اوقات کا ذکر ہے۔ جس میں **دُلُوْكَ الشَّمْسِ** (ظہر، عصر اور مغرب) کو ظاہر کرتا ہے اور غسق الیل (عشاء) اور فجر کے لیے **فَجْرٍ**۔ لفظ **دُلُوْكَ** کے بارے میں پرویز صاحب لکھتے ہیں۔

”ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا دوسری چیز سے ہٹ جانا (زوال) بتائے ہیں۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ **دُلُوْكَ** میں کسی چیز کا نرمی اور آسانی سے ہٹ جانا پایا جاتا ہے۔ ملنے، رگڑنے کے لیے بھی یہ لفظ اسی جہت سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہاتھ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ آلسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے ہیں۔ اس لیے زوال بھی دلوک ہے۔ اور غروب بھی دلوک ہے۔ جب آفتاب نصف النہار میں زوال کر جاتا (ڈھل جاتا) ہے تو اسے **دَالِیْکَۃٌ** کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ غروب ہو جائے تب بھی اسے **دَالِیْکَۃٌ** کہتے ہیں۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں اسے زوال ہوتا ہے۔ لیکن نوادر الاعراب میں ہے کہ اس کے معنی آفتاب کے بلند اور اونچا ہونے کے آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ دال (د) جہاں بھی لام (ل) کے ساتھ آئے گا تو وہ حرکت کرنے، آنے جانے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ زوال پذیر ہونے پر دلالت کرے گا۔“

”ان تمام معانی سے واضح ہے کہ اصل معنی اس مادہ کے حرکت کرنے ہی کے ہیں۔ لہذا جب آفتاب طلوع صبح سے دوپہر تک بلند ہوتا جاتا ہے تو اسے بھی **دُلُوْكَ** کہیں گے۔ (جیسا کہ نوادر الاعراب کے حوالہ سے اوپر لکھا گیا ہے) اور جب وہ نصف النہار تک پہنچ کر نیچے کی طرف حرکت کرے گا (یعنی ڈھلنا شروع ہوگا) تو اسے بھی **دُلُوْكَ** کہیں گے۔“

”قرآن کریم میں ہے **اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْیْلِ وَقُرْاٰنِ الْفَجْرِ** (17/78) اس کا عام ترجمہ یہ ہوگا ”صلوٰۃ قائم کرو دلوک شمس سے غسق لیل تک۔ اور فجر کا قرآن۔“ یہاں اگر **دُلُوْكَ** کے معنی عام حرکت کے لئے جائیں تو اس میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا سارا وقت آجاتا ہے۔ اور قرآن الفجر طلوع آفتاب سے پہلے، اور غسق

لیل غروب آفتاب کے بعد۔ یعنی اس طرح اس آیت میں سونے کا وقت نکال کر باقی دن رات کا سارا وقت آجاتا ہے۔ مفہوم ظاہر ہے کہ صلوٰۃ کے لیے یہ سارا وقت تمہارے لیے کھلا رکھا ہے۔“

”سورۃ نور میں صَلَوَةُ الْفَجْرِ اور صَلَوَةُ الْعِشَاءِ (24/58) کا خصوصیت سے نام لیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن کریم (رسول اللہ) کے زمانہ میں ان دونوں اوقات میں اجتماعات صلوٰۃ ہوتے تھے۔ یہ قُرْآنُ الْفَجْرِ اور غَسَقُ الْيَلِّ کے اوقات تھے۔ باقی وقت ذُلُوكِ الشَّمْسِ سے غَسَقُ الْيَلِّ تک کا ہے۔ اسے صبح سے شام کہہ لیجئے یا سورج ڈھلنے سے شام تک کا وقت۔ ذُلُوكِ کے عام مفہوم کے اعتبار سے پہلے معانی (صبح سے شام تک کا وقت) لغوی اعتبار سے زیادہ موزوں ہونگے۔“

ان تصریحات کے بعد پرویز صاحب صلوٰۃ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

”صلوٰۃ سے متعلق عنوان (ص۔ ل۔ و) میں آپ دیکھیں گے کہ صلوٰۃ سے مراد صرف وقتی اجتماعات نماز ہی نہیں۔ اس سے مراد قرآنی نظام یا قرآن کریم کے مطابق متعین کردہ فرائض زندگی بھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر اس آیت (17/78) میں بھی اقامت صلوٰۃ کے معنی فرائض زندگی کی سرانجام دہی یا قرآنی نظام کے قیام کے لئے جائیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ آغاز کار سے پہلے (ہر روز صبح دم) یہ دیکھو کہ زیر نظر پروگرام کے لئے قرآن کریم کی طرف سے کیا راہنمائی ملتی ہے۔ (یہ قُرْآنُ الْفَجْرِ ہوگا) اور پھر صبح سے شام تک اس پروگرام کی تکمیل میں مصروف کار رہو۔ یہ اقامت صلوٰۃ دلوک شمس سے غسق لیل تک ہوگا۔“

یہ پرویز صاحب کا طریق کار ہے کہ الفاظ کی لغوی تشریحات تو آئمہ لغت کی بیان کرتے ہیں اور مفہوم ان کا اپنا ہوتا ہے۔ صلوٰۃ کے متعلق درج کردہ دیگر آیات کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا پرویز صاحب کا یہ مفہوم اس سے ملتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ دلوک الشمس سے مراد سورج کی مخصوص حرکات ہیں۔ لیکن انہوں نے کمال ہنرمندی سے اسے ”صبح سے شام تک“ کے معانی پہنادیئے۔

☆ قُلْ اِذْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ؕ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ؕ (17/110)

فکر پرویز اور قرآن ___ 380 ___ صلوٰۃ (نماز)

”کہہ دیجئے! کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل پوشیدہ۔ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر۔“

﴿اب کونسے فرائض زندگی ہیں جن میں آواز کی میانہ روی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف عبادت کا خاص طریقہ ”نماز“ ہی ہے جس پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔“

☆ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ أَنَايِءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (20/130)

”پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے دنوں حصوں میں بھی تسبیح کر۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔“

﴿اسی آیت میں واضح طور پر پانچ اوقات کا ذکر کر دیا گیا ہے اور صلوٰۃ کے لیے بھی تسبیح کا لفظ لگایا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ”نماز“ کے علاوہ کسی بھی اور مفہوم کو وقت کی حدود میں قید نہیں کیا جاسکتا۔

☆ الَّذِينَ إِذْ مَسَّكُمُ الضُّرُّ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ (22/41)

”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔“

﴿اس آیت کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب نے ایک نظر یہ یہ بنایا کہ صلوٰۃ کا قیام صرف اپنی آزاد مملکت میں ہی ممکن ہے اور اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں تمکن فی الارض حاصل ہوگا، ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو یہ اقامت صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ معروف احکام نافذ کریں گے اور منکر سے روکیں گے“

ضروری ہے کہ اس آیت سے پہلے والی آیت بھی سامنے آجائے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأَمُورِ (22/39-41)

”جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انھیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں بلاوجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کریگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔“

یہاں سے واضح ہے کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے کہ اگر ان کو زمین میں جما دیا جائے تو احکام خداوندی پر عمل کریں گے۔ یہاں کسی قسم کی حکومت حاصل کرنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ جبکہ حکومت کے لئے ”استخلاف“ کا لفظ قرآن کریم نے (24/55) میں استعمال کیا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ جبکہ (24/55) میں ہی ”وَلِيْمَمَكِّنَنَّ“ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ کسی چیز کو محکم کرنا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں دو آیات جن سے واضح ہوگا کہ صلوٰۃ کا قیام بغیر حکومت کے بھی چلتا رہا ہے

وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثٌ مُوسَىٰ ۗ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَنهَا نُودِيَ بِمُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۗ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا

إِلَّا أَنَا فَاغْبُذْنِي ۖ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (20/9-14)

”تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگار تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ تو اپنی جوتیاں اتار دے کیوں کہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو جی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔

فَمَا أَمِنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (10/83-87)

”پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور واقعی فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا۔ اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے نہ کہ اس کے لیے کسی آزاد مملکت کی ضرورت ہونا۔ اس لیے پرویز صاحب کا یہ نظریہ غلط ہے کہ صلوٰۃ کے لیے آزاد

ملکت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بغیر یہ فرض ادا نہیں ہو سکتے۔

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
تِلْكَ مَرْثٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
العِشَاءِ فَنَّ تِلْكَ عَوْرَتٌ لَكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَئِذٍ ط طَوْفُونَ ط
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝ (24/58)

”اے ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے
ہوں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے
وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت
اور پردہ کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماسوا نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے
کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا
ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔“

﴿ یہاں نماز کے تین اوقات کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ اوقات شروع سے متعین چلے
آ رہے ہیں۔ اس لیے عربوں کو ان میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوا۔ اور آج تک ان احکامات پر
اسی انداز میں عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کسی عربی نے ان اصطلاحات کے مفہام پر اعتراضات نہیں
اٹھائے۔

☆ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْحَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝ (33/33)

”اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ
کرو۔ اور نماز ادا کرتی رہو۔ اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔
اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو! تم سے وہ ہر قسم کی نجوبات کو دور کرے اور تمہیں خوب
پاک کر دے۔“

﴿ لیجئے وہ سارے احکامات جن کے لیے پرویز صاحب آزاد مملکت کا حصول لازم قرار دیتے ہیں۔ ان کو گھر کے اندر پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق خواتین سے ہے۔ اب پرویز صاحب سے پوچھا جائے کہ گھر کے اندر کونسا ”اجتماعِ صلوٰۃ“ ہے یا وہ کونسے فرائضِ منصبی ہیں جن کو صلوٰۃ کہا جا رہا ہے؟

☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (10-62/9)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

﴿ اس آیت میں جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے دنیاوی معاملات چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور پھر نماز کے بعد دوبارہ سے دنیاوی معاملات شروع کرنے کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صاحب تو دن بھر کے معاملات کو ہی صلوٰۃ قرار دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں جس تجارت کے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ قوانینِ خداوندی کے مطابق ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ مگر اس کو چھوڑ کر نماز کی تاکید ظاہر کرتی ہے کہ صلوٰۃ کا تعلق خرید و فروخت اور تجارت اور دن بھر کے معاملات سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ کی عبادت کا ایک جزو ہے۔

اس آیت کی تفسیر کے لیے پرویز صاحب کا ویڈیو درس دیکھئے تو سب سے پہلے پرویز صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اور اب تک نماز کے حق میں جتنے بھی پرویز صاحب کے بیانات ہم نے درج کئے ہیں ان کے علی الرغم درس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے صریحاً نماز کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ان کے الفاظ اس طرح ہیں

”نماز پڑھنے والے مصلّین کی تعداد تو کم نہیں ہے۔ کم ہو بھی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے۔ وہ جتنا کچھ کر رہے ہو۔ اس نے کیا کر کے دکھا دیا کہ جو اور ان میں اضافہ کر دو

گے تم۔ اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا اور پڑھنے والے اپنے طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ تاہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔“
(ویڈیو درس سورۃ جمعہ آیت 9 کیسٹ نمبر 3)

اس کے علاوہ بھی اس درس میں بہت سی باتیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پرویز صاحب کی شعوری کوشش تھی کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ مگر یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے پرویز صاحب کو اس کے حق میں بھی بیانات دینے پڑے۔ اور یہ کہنا پڑا کہ میں حنفی طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ مگر مجموعی طور پر پرویز صاحب کی کیفیت دوغلی رہی۔ وہ کبھی بھی ایک طرفہ رائے کا اظہار نہ کر سکے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے دروس میں بارہا کہا کہ میں موجودہ نماز کا انکار نہیں کرتا۔ مگر دوسری طرف ایسے ایسے نکات اٹھائے جو لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا باعث بنے۔

صلوٰۃ اور فحشاء و منکرات۔

قرآن کریم کی آیت ہے **إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ** (29/45) بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے ”جہاں تک ہماری نمازوں کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ ان سے فحشاء اور منکرات نہیں رکتے۔ بے نمازوں کو تو چھوڑیے کتنے ہی نمازی ہیں جو بڑی باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منکرات کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔“

یہاں بات آتی ہے منافقت کی۔ اور منافق تو نبی کریمؐ کے دور میں بھی موجود تھے جو ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے مگر ان کے دل کفر کے ساتھ تھے۔ اب کوئی یہ دلیل دے کہ چونکہ اسلام میں منافق ہوتے ہیں اس لیے اسلام سچا دین نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ تو یہ بڑی عجیب منطق ہوتی۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جس کے وہ جوابدہ ہونگے۔ لیکن ان کی آڑ میں جو پکے سچے مومن ہیں ان کا بھی بیڑہ غرق کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی نمازی برائی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو نیک، پرہیزگار لوگ ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے سے روک دیا جائے؟ اس میں قصور اس نمازی کا ہے یا نماز کا؟ یہ تو ایسی ہی دلیل ہے کہ آج کل دنیا میں جتنے اسلامی ملک

ہیں وہ انسانوں کے حقوق کما حقہ پورا کرنے سے عاری ہیں یا اسلامی معاشرے مادی ترقی کی معراج کو نہیں پہنچے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا جائے؟ یا عیسائیت کو قبول کر لیا جائے؟ معاذ اللہ! اس میں تو اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔

پرویز صاحب اکثر ایک دلیل دیتے ہیں ”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔“ اس کی توضیح میں پرویز صاحب اور ان کے تابعین یہی کہتے ہیں کہ ”ہم صحیح مومن نہیں ہیں اور قرآن کی بات سچ ہے۔“ مگر نماز کے مسئلہ پر اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ”لوگ صحیح نماز پڑھتے ہیں مگر یہ نماز غلط ہے۔“ یہ کیسا تضاد ہے۔ لوگوں کو اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہئے نہ کہ اس کے کسی اصول کو ہی جھٹلا دیا جائے۔

موجودہ نماز تفرقہ کا مظہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرویز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ”قرآن کریم نے صلوٰۃ کو امت میں۔۔۔۔۔ وحدت پیدا کرنے اور رحمت برقرار رکھنے کا ذریعہ بتایا تھا۔ لیکن وائے بد نصیبی کہ اب وہی صلوٰۃ (نماز کی شکل میں) امت کے تفرقہ کا مظہر قرار پائی۔“

بات پھر وہی ہے کہ اس میں نہ تو اسلام کا کوئی قصور ہے نہ ہی نماز کا۔ لوگوں نے خود ہی اس میں تفرقے پیدا کر لیے ہیں۔ اور مختلف حکمرانوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان کو پروان چڑھایا ہے۔ اور پھر فرقہ بندی کا یہ سلسلہ اسلام کے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرقوں کے جو اختلافات ہیں ان کا اساسات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فرد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے۔ کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو کوئی نہیں کر رہا۔ اس سے نماز کی ہیئت پر فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی باتیں رکوع، سجود، قیام اور تسبیح میں تمام فرقے ایک ہی جیسا عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ عمل عبادت کی شکل (نماز) میں بہ احسن و خوبی سرانجام پا رہا ہے۔ خدا کرے کوئی ایسی حکومت آئے جو ان کو ایک جگہ بٹھا کر پوری قوم میں ایک ہی طریقہ کار پر راضی کر لے۔ مگر اس چیز کو بنیاد بنا کر نماز کو ہی رد نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس بارے میں تو پرویز صاحب نے خود کہا ہے۔

”جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا، میرا مسلک یہ ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس جس انداز سے

ان پر کار بند ہیں وہ ان پر اسی طرح کار بند ہیں۔“

جزئیات۔ بہت سے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم نے اس کی جزئیات کا تعین نہیں کیا۔ یعنی کتنی رکعتیں ہوں، اور ان کے اندر کیا کچھ پڑھا جائے۔ تو ان لوگوں سے عرض ہے کہ قرآن کریم کو وحی کی پہلی کتاب نہ سمجھیں۔ بلکہ قرآن کریم تو وحی کی آخری کتاب ہے۔ اس میں اگر جزئیات بیان نہیں ہوئیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ جزئیات مقصود بالذات نہیں ہیں۔ پھر پہلی تمام امتیں نماز اور عبادت کے دیگر فرائض سرانجام دیتی آرہی ہیں اور خود عربوں میں بھی یہ مسئلہ (حضور کے زمانے میں) کبھی نہیں اٹھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں کل تیرہ سوال ہوئے ہیں جیسے ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“ وغیرہ۔ مگر نماز کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لیے کہ ان کے باپ دادا ایسا عمل کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں یہ تمام احکامات درج تھے۔ پھر ابراہیم اور اسمعیل نے جو دعائیں ”وَأَرْسَلْنَا مَناسِكَنَا“ تو اس کے بعد تو اتر کے ساتھ ہی وہ سارے احکامات بعد میں آنے والی امتوں میں منتقل ہو گئے۔

یہ تو ایک آرڈر ہے جس کا Obey کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں ایسے سوالات پیدا کر دیں جیسے موسیٰ کی قوم نے پھڑے کے بارے میں کئے تھے تو پھر تو معاملہ سلجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ order کو Obey کریں۔ چاہے کسی بھی رنگ میں کیوں نہ ہو۔ مگر ایسے سوالات پیدا کر کے اپنے آپ کو فریضہ نماز سے بری الذمہ قرار نہ دیں۔ نماز نہ پڑھنے کے تو آپ سینکڑوں عقلی دلائل دے سکتے ہیں۔ مگر کیا آپ کے دلائل کو قرآن کریم کی support میسر ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو طریقہ کار میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو جس طرح جمہور اہل امہ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اس کے مطابق ادا کریں۔



ہنرش نیز بگو

اب تک ہم نے پرویز صاحب کی قرآنی بصیرت سے متعلق چند اساسات کا تجزیہ قرآنی آیات کی روشنی میں کیا ہے۔ لیکن یہ سارے وہ موضوعات تھے جن پر میری سمجھ کے مطابق پرویز صاحب کا نقطہ نظر درست نہ تھا۔ لیکن میری پرویز صاحب سے کوئی ذاتی خلش نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بددیانتی ہوگی اگر میں ان کی خوبیوں اور ان کے اچھے کام کو سامنے نہ لاؤں۔ اس لیے اب میں چند ایسے موضوعات پر قلم اٹھاؤں گا جن کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر از روئے قرآن کریم بالکل درست ہے۔ گو معاشرہ کے کچھ طبقات نے ان کو غلط سمجھا۔ وہ موضوعات اس طرح ہیں۔

تصوف

تصوف ہمارے معاشرے میں جیسے رچ بس گیا ہے۔ کوئی شہر اور قصبہ ایسا نہیں جہاں کوئی مزار نہ ہو اور مردوں اور عورتوں کا ہجوم نہ لگا ہو۔ انبیاء علیہم السلام نے تمام عمر توحید کا پرچار کیا اور قرآن کریم نے بارہا اس چیز کو اجاگر کیا کہ خدائے واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ سنتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے اور اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی حاجت ہو صرف اسی کے سامنے پیش کرو کیونکہ فقط وہی حاجت روا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کی اکثریت پر اس تعلیم کا کوئی اثر نہیں اور عمومی رویہ یہ ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو فلاں بزرگ سے تعویذ لے آؤ۔ کسی عورت کے اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں مزار پر جا کر منت مانو۔ اور مرید اپنے پیر کی ایسی صفات بیان کرتے ہیں کہ عام تو ہم پرست لوگ صرف انہی کو حاجت روا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس چیز نے معاشرے کو بری طرح اپنی پکڑ میں لپیٹا ہوا ہے۔ ہر دوسرے شخص نے گلے یا بازو میں تعویذ لٹکا رکھا ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی سے دم کروانے جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس مسئلے میں قرآن کریم کی راہنمائی کیا ہے اور سادہ لوح عوام اور تو ہم پرست لوگوں کی وجہ

سے ان حضرات کی دکانداریاں اپنے عروج پر ہیں اور اس میں ان پڑھ طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کا طریقہ۔ اور نہ ہی علم کی بارگاہ سے ان کو مدد حاصل ہے۔

اب تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کا عرس جاری رہتا ہے۔ اور وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ حالانکہ نہ تو انبیاء کرام کی تعلیم ایسی تھی اور نہ ہی بزرگان دین کا شیوہ۔ نام سے یہ لوگ مسلمان ہیں مگر عملی طور پر خدا کی وحدانیت سے انکار اور اس کی صفات میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ط ۚ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ قٰلِیْلًا مَّا تَدَّكُرُوْنَ ہ (27/62)

”کون ہے جو تکلیف زدہ کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارے، اور سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اور تمہیں زمین کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے۔ بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔“

تصوف کے موضوع پر پرویز صاحب کی تصنیف ”تصوف کی حقیقت“ ایک مبسوط کتاب ہے۔ جس میں انہوں نے نہ صرف تصوف کے فلسفہ کا علمی محاکمہ کیا ہے بلکہ ان تمام عقائد کا قرآن کریم کی روشنی میں ابطال کیا ہے جو اس وقت رواج پا چکے ہیں۔ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ”تصوف اور اسلام“ اور دوسرا حصہ ”تصوف اور اقبال“ ہے۔ دوسرے حصے میں پرویز صاحب نے تصوف کے معاملے میں اپنے ممدوح علامہ محمد اقبال پر کڑی تنقید کی ہے۔ کتاب کے شروع کے صفحات میں پرویز صاحب لکھتے ہیں

”اپنے مطالعہ اور عملی تجارب سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جو کچھ ”روحانیت“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک فن ہے۔ جس طرح جسمانی کسرت سے انسان کی طبعی قوتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قسم کی ذہنی مشقوں سے انسان کی قوت ارادی اور تخیلی میں ایسا اضافہ ہو جاتا ہے جس کا عام حالات میں تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ جسمانی قوت کا مشاہدہ محسوس طور پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسے کوئی فوق الفطرت تصور نہیں کرتا۔ لیکن قوت ارادی غیر محسوس اور غیر مرئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے مظاہر فوق الفطرت سمجھے جاتے ہیں۔ جو

تو میں علمی میدانوں میں آگے بڑھ گئی ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہو گئی ہیں۔ جہاں ہنوز تو ہم پرستی کا دور دورہ ہے۔ وہاں اسے ”روحانیت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں اس نتیجے پر اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر پہنچا ہوں۔ لیکن میں انہیں بطور سند نہیں پیش کرنا چاہتا۔ میری سند قرآن کریم ہے۔ اس میں اس قسم کی روحانیت کا کوئی ذکر نہیں۔ میرے ذاتی تجربات، قرآن کے اس دعویٰ کی صرف تائید کرتے ہیں۔ لیکن تصوف کے خلاف میرے نظریات کی وجہ یہی نہیں کہ اس میں اس قسم کے ذاتی تجربات اور واردات کو فوق الفطرت روحانی مشاہدات سمجھ لیا جاتا ہے۔ میرے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصوف کے عقائد، اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی رو سے الدین (اسلام) کا مقصود دو مانتی یہ ہے کہ

۱۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے۔ اور

۲۔ ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے۔ جس کی رو سے قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان قوتوں کو نوع انسان کی منفعت، بہبود اور نشوونما کے لیے اس طرح صرف میں لایا جائے کہ یہاں کی زندگی بھی سرفرازیوں اور کامرانیوں کی ہو۔ اور انسان اخروی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بھی ہو جائے۔

یہ ہے دین کا حاصل۔ تصوف ان ہر دو مقاصد حیات کے خلاف ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ۱۔ یہ کائنات باطل ہے۔ اس کا درحقیقت وجود ہی نہیں۔ لہذا فطرت کی قوتوں اور ان کی تسخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور

۲۔ انسانی زندگی کا مقصد ایک فرد کی ”روحانی“ ترقی ہے جو مختلف قسم کے مراقبوں اور ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں اجتماعیت کا تصور ہی نہیں۔ کشف والہام اور کرامات اسی روحانی ترقی کے مظاہر ہیں۔

۳۔ قرآن اپنی تعلیم اور پیام کو علم و بصیرت کی رو سے پیش کرتا ہے۔ اور دلائل و براہین کی روشنی میں منواتا ہے۔ تصوف علم و عقل کا دشمن اور دلیل و برہان کا نفیض ہے۔

آپ نے دیکھا کہ مسلک اور عقیدہ کے لحاظ سے تصوف اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ (تصوف کی حقیقت۔ صفحہ م۔ ن)

اب ہم ذیل میں کتاب کے مشمولات درج کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔
حصہ اول (تصوف اور اسلام)

۱۔ علم بالحواس کی اہمیت ۲۔ وحی و خداوندی ۳۔ تصوف (قدیم مذاہب میں)

۴۔ روحانیت ۵۔ اسلام میں تصوف کہاں سے آیا

۲۔ مسلمان صوفیاء اور ان کے عقائد (۱)

۱۔ حلول ۲۔ وحدت الوجود ۳۔ وحدت الشہود

۷۔ مسلمان صوفیاء اور ان کے عقائد (۲)

۸۔ کرامات

۱۔ پیشین گوئیاں ۲۔ جادو کی حقیقت

۳۔ مسمریزم ۴۔ ہپناٹزم

۹۔ یہ ہوتا کیسے ہے ۱۰۔ اولیاء اللہ کون ہیں۔

۱۱۔ مقام نبوت و منصب امت

حصہ دوم (تصوف اور اقبال)

۱۔ اقبال نثر میں ۲۔ معرکہ اقبال و تصوف

۳۔ شعر کی زبان میں

۱۔ وحدت الوجود ۲۔ باطنی معانی ۳۔ عقل و عشق

۴۔ فقر ۵۔ دو قسم کا تصوف ۶۔ اقبال کا فلسفہ تصوف

یہ تھے مشمولات ”تصوف کی حقیقت“ کے۔ اس کتاب نے قوم کے پڑھے لکھے طبقے کو تصوف سے
نچنے اور پیری فقیری کی راہ سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔

ختم نبوت

ختم نبوت کے موضوع پر بھی پرویز صاحب نے انتہائی قابل تعریف کام کیا ہے۔ ان کی تصنیف کا نام ”ختم نبوت اور تحریک احمدیت“ ہے۔ اس میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہبی تصورات کو علمی اور عقلی طور پر غلط ثابت کیا ہے۔ آئیے اس کتاب کے کچھ اقتباسات دیکھتے ہیں۔

”میرا تعلق کسی فرقہ سے نہیں، میں سیدھا سادھا مسلمان ہوں اور قرآن کا ادنیٰ طالب علم۔ اور اس کی تعلیم کا مبلغ۔ ختم نبوت چونکہ (میری قرآنی بصیرت کی رو سے) دین کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے میں اسے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کو قرآن کریم کی روشنی میں واضح طور پر سامنے لاؤں۔ میں نہ کسی بحث میں پڑنا چاہتا ہوں نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا۔ میں اس موضوع کو علمی سطح پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب کی تحریروں میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جسے ”عام بازاری سطح“ پر بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن میں اس سے احتراز کروں گا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہو یا مثیل مسیح وغیرہ کا۔ میری تحقیق کی رو سے یہ تمام دعویٰ قرآن کریم کے خلاف اور کذب و افتراء ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک جماعت کے نزدیک واجب الاحترام ہیں اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم مشرکین کے معبودوں کے متعلق بھی کوئی دلائل بات نہ کرو۔ (6/109) اس لیے انہیں ”مرزا صاحب“ کہہ کر پکاروں گا۔ مرزائی حضرات اپنے آپ کو ”احمدی“ کہتے ہیں۔ لیکن میں ان کی اس نسبت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کیونکہ احمد، حضور نبی اکرم کا اسم گرامی تھا۔ اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جہت سے اپنے آپ کو احمدی نہیں کہتے بلکہ مرزا غلام احمد صاحب کی نسبت سے ایسا کہتے ہیں۔ بایں ہمہ میں انہیں ”احمدی“ کہہ کر ہی پکاروں گا۔ کیونکہ یہ مرزائی کہلانے سے گریز کرتے ہیں۔“

(ختم نبوت اور تحریک احمدیت، سٹوڈنٹ ایڈیشن صفحہ 11)

”قرآن کریم میں نہ کسی مجدد کا ذکر ہے، نہ مہدی کا۔ اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ بذات خود تشریف لانے کا۔ یا ان کے مثیل کے آنے کا۔ ”مسیح موعود“ کی اصطلاح بھی غیر قرآنی ہے۔ اس میں کسی مسیح کے آنے کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ یہ تمام نظریات ہمارے ہاں روایات کے ذریعے جزو

اسلام بن گئے۔ چونکہ یہ تصورات بنیادی طور پر ختم نبوت کے نقیض تھے اس لیے انہوں نے بھی دعوائے نبوت کے لیے راستے کھول دیئے۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ریاست بہاولپور کی عدالت میں یہ مقدمہ قریب نو سال تک زیر سماعت رہا اور ہندوستان کے جید علما کرام نے حصہ لیا۔ لیکن فاضل جج کو یہ کہنا پڑا کہ ان حضرات کی اس قدر طول طویل بحثوں کے باوجود ان پر مقام نبوت واضح نہیں ہو سکا۔ اور وہ ختم نبوت کی کئہ و حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام حضرات مانتے تھے کہ براہ راست خدا سے علم حاصل کرنے کا امکان، رسول اللہ کے بعد بھی باقی ہے اور ایسا علم حاصل کرنے والے حضور کے بعد آتے رہیں گے۔ اس عقیدہ کی موجودگی میں نہ حقیقت نبوت واضح ہو سکتی ہے نہ ختم نبوت کی اہمیت مبرہن۔ اس کے برعکس، یہ عقیدہ دعوائے نبوت کے حق میں دلائل مہیا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔“ (صفحہ 42)

”حقیقت یہ ہے کہ ”احمدیت“ کی تحریک مذہبی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک سیاسی تحریک تھی جو انگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی۔ تفصیل اس اجمال کی غور سے سننے کے قابل ہے۔

انگریز نے سات سمندر پار سے آکر ہندوستان میں حکومت قائم کی۔ اپنی حکومت کے استحکام میں اسے اگر کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ وہ سید احمد (شہید) بریلوی اور شاہ اسمعیل (شہید) دہلوی کی تحریک جہاد میں دیکھ چکا تھا کہ امت مسلمہ کے اس راکھ کے ڈھیر میں ابھی وہ چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جو تھوڑی سی موافق ہو اسے شعلہء جوالہ بن سکتی ہیں۔ بظاہر وہ تحریک بالاکوٹ میں ذفن ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی روح بدستور زندہ تھی اور 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد ”وہابی تحریک“ کی شکل میں سلگ اور سرک رہی تھی۔ انگریز اس سے خائف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تشدد سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اسے مذہب ہی سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے پہلے انہوں نے چند علماء کو تیار کیا کہ وہ جہاد کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں۔ لیکن یہ حربہ کارگر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلائی جانی چاہئے۔

مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آخری زمانہ میں امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ان کی زیر سیاست و امامت اسلام کا پھر سے غلبہ ہو جائے گا۔ اس تحریک کے لئے

حدیث

اب آتا ہے حدیث کا موضوع۔ اس کی وجہ سے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شخصیت بڑی متنازعہ رہی۔ پرویز صاحب نے مجموعہ روایات کو بھی قرآن کریم اور عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کی اس حیثیت کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا جو اس وقت معاشرے میں رائج ہے۔ ان کی اس موضوع پر تصنیف ”مقام حدیث“ ہے۔ اور ہمارا علماء کا طبقہ بجائے اس کے کہ عقل و بصیرت اور دلائل و براہین کی روشنی میں پرویز صاحب کے اعتراضات کا جواب دیتا۔ الٹا ایک ہزار علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جتنے بھی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روایات ہی ہیں۔ اور مذہبی طبقہ کی یہ کمزوری (فرقہ بندی) پرویز صاحب کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوئی اور اس پر انہوں نے مذہبی علماء کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور قوم کا پڑھا لکھا طبقہ ان دلائل کو قبول کرنے لگا۔

اس وقت جتنے بھی فرقے موجود ہیں۔ ان کا مختلف مسائل پر آپس میں شدید اختلاف ہے۔ اور ان مسائل کی بنیاد روایات ہیں۔ اور عملی طور پر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی روایات کا منکر ہو رہا ہے۔ اور اس بنیاد پر تمام فرقوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن پرویز صاحب کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو معیار بنایا جائے اور اس کے مطابق جو روایات ہیں انہیں قبول کیا جائے۔ اور جو اس کے خلاف جاتی ہیں انہیں رد کر دیا جائے۔ اور ایسی بہت سی روایات پرویز صاحب نے ”مقام حدیث“ میں بیان کی ہیں۔

صحاح ستہ میں سب سے اعلیٰ مقام بخاری شریف کو حاصل ہے۔ جسے ”اصح الکتب بعد از کتاب اللہ“ کہا جاتا ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ میں بذات خود بخاری شریف خریدنے بازار گیا تو دکاندار نے تین قسم کی ”بخاری شریف“ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دکاندار بولا۔ ایک بخاری شریف ”اہلسنت“ حضرات کی ہے۔ دوسری بخاری شریف ”الجمہدیت“ حضرات کی ہے۔ اور تیسری بخاری شریف ”دیوبند“ حضرات کی ہے۔ میں تو سر پکڑ کر

واپس آگیا۔ یعنی ہر فرقے نے اپنی پسند کی احادیث کے مجموعے متعین کئے ہوئے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے تو ایک ہی کتاب تحریر فرمائی تھی۔

اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث کی رو سے ہی جائز ہے اور یہ وہ تفسیر ہے جسے حضورؐ نے خود بیان کیا ہے۔ اس چیز نے من پسند تفسیر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا مظاہرہ آپ قرآن کریم کی ان تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں تراجم میں تو کم ہی اختلاف ہے مگر حاشیہ پر اپنی پسند کی روایات کے ذریعے قرآن کریم کو اپنے مسلک کے نظریات میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ کہ ان کتب روایات کے اندر حضور نبی کریمؐ، امہات المؤمنینؓ اور صحابہ کبارؓ کی ذات پر جو کچھ اچھا لگا گیا ہے۔ اس کے متعلق علماء حضرات خاموش ہیں۔ اکا دکا کسی عالم سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کتب میں وضعی روایات یا اسرائیلیات بھی موجود ہیں۔ مگر اس بات کا سہرا علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے سر ہی جاتا ہے جنہوں نے ایسی غلط روایات کو جن میں انبیائے کرامؑ، امہات المؤمنینؓ اور صحابہ کبارؓ کی سیرت داغدار ہوتی ہو، ان کتب سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کتب روایات میں موجود ”باب الغسل، باب الحیض، باب النکاح، باب الطلاق“ وغیرہ میں ایسی روایات بیان کی گئی ہیں جو معاذ اللہ کوئی باپ بیٹی کے سامنے نہیں پڑھ سکتا اور کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”شرع میں کوئی شرم نہیں“۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ اور رسولؐ سے زیادہ بھی کوئی حیا دار ہے؟ پورے قرآن کریم میں کوئی ایک ایسی بات جو اخلاقی لحاظ سے قابل گرفت ہو تو کوئی نکال کر دکھائے۔ یہاں تک کہ نئی زندگی کے معاملات میں بھی اشارے کنائے استعمال ہوئے ہیں۔ جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ** اے نبی کریمؐ! آپ تو اخلاق کی بلند یوں پر فائز ہیں۔“ وہ ذات کس طرح اخلاق سے گری بات بیان کر سکتی ہے۔ یا اپنی نجی زندگی کی تفصیلات بیان کر سکتی ہے۔ علمائے کرام کی قیامت کے روز اس بات پر سخت پکڑ ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علمائے کرام کو توفیق دے کہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں ان روایات کی حدود کا تعین کر سکیں۔

آئیے اب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب ”مقام حدیث“ کے کچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ اصل میں ”حدیث“ کے موضوع پر پرویز صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے۔

”پھر سن لیجئے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کے متعلق یقین سے کہا جاسکے کہ وہ رسول اللہ کا ارشاد ہے تو اس کے سامنے کونسے مسلمان کا سر نہیں جھکے گا؟ لیکن جب واقعہ یہ ہو کہ آپ کسی حدیث کے متعلق بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ قول رسول ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کی یہ تفسیر رسول اللہ کی نہیں ہے تو وہ رسول اللہ کی بیان فرمودہ تفسیر سے انکار نہیں کرتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے صرف یہ ہے کہ جس تفسیر کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ درحقیقت رسول اللہ کی ہے نہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر امام بخاریؒ پانچ لاکھ چورانوے ہزار احادیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ ان کی دانست میں وہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتیں۔ اور اس سے وہ منکر حدیث قرار نہیں پاتے۔ تو اگر آج کوئی شخص ایک حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ اس کی بصیرت قرآنی کی رو سے وہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کافر اور خارج از اسلام کس طرح قرار پا سکتا ہے؟ وہ درحقیقت ایک جامع حدیث کے فیصلے یا راوی کی روایت کے صحیح ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد نبویؐ سے انکار نہیں کرتا۔ وہ قول رسول سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جس قول کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کا قول نہیں ہو سکتا۔ حضورؐ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں۔“ (مقام حدیث 31)

”ہمارے احادیث کے مجموعوں میں ایک حصہ ایسی روایات کا بھی ہے جن کا تعلق نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ کے حالات و کوائف سے ہے۔ حضورؐ کی سیرت اقدس، انسانی شرف و مجد کی معراج کبریٰ تھی۔ لیکن بد قسمتی سے ان روایات میں بعض ایسی بھی ہیں جن سے آپ کی سیرت داغدار ہوتی ہے۔ اس کے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ حضورؐ کی سیرت مقدسہ قرآن کریم کی روشنی میں از سر نو مرتب کی جائے۔ اور کتب روایات میں سے صرف وہی حصہ لیا جائے جو قرآن کریم کے مطابق ہو۔ جو روایات قرآن کریم کے خلاف ہوں یا ان سے حضورؐ یا صحابہ کرامؓ کی سیرت پر کسی قسم کا طعن پڑتا ہو۔ انہیں مسترد کر دیا جائے۔“ (صفحہ 49)

”حدیث کے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں میرا مسلک یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کریم کے خلاف ہو، میں اسے صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم کا کوئی ارشاد یا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا۔ ایسی حدیث کے متعلق میں کہتا یہ ہوں کہ وہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اسے آپ کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ میں حضور کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ خلاف قرآن حدیثوں کے متعلق کہتا یہ ہوں کہ حضور کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں۔ جو حدیثیں قرآن کریم سے نہیں ٹکراتیں، میں انہیں صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ میری متعدد تصانیف میں اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔“ (قرآنی فیصلے، جلد پنجم، صفحہ 318)

”جو شخص رسول اللہ کے کسی ارشاد یا حضور کے کسی عمل کی صداقت سے انکار کرتا ہے۔ میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا۔ اسلئے کہ حضور کے ارشادات و اعمال حیات سے تو وہ ماڈل ترتیب پاتا ہے۔ جسے خدا نے تمام انسانیت کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس اسوۂ حسنہ سے انکار نہ صرف انکار رسالت ہے بلکہ ارشاد خداوندی سے انکار ہے۔ اس انکار کے بعد کوئی شخص مسلمان کیسے رہ سکتا ہے۔“ (سوچا کرو)



نقد امتیاز*

صفحہ نمبر 147-

قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد چار پرندے پکڑے ہوں اور پھر انھیں اپنے سے مانوس کرنے کے بعد انھیں ذبح کیا ہو یا انھیں الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر انھیں بلایا ہو۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جوں ہی اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا۔ بات ابراہیمؑ کی سمجھ میں آگئی۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے آیت مباہلہ میں نصاریٰ کو چیلنج دیا گیا مگر وہ مقابلہ پر آئے ہی نہیں۔ لہذا جس طرح مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی وہ انھیں سمجھ میں آگئی کہ روزمرہ کے مشاہدہ میں یہ آنے والی بات ہے۔

صفحہ نمبر 149- پہلا پیرا

ہماری رائے میں یہ پیرا گراف حذف کرنا چاہیے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ ہی پرندے پکڑے گئے نہ ہی ذبح کئے گئے جیسا کہ پیچھے حاشیہ دیا گیا ہے۔

صفحہ نمبر 158-

عبدالکریم اثری صاحب تفسیر عروۃ الوثقی نے ان آیات کی الگ سے توجیح کی ہے۔ آں محترم کی رائے ہے کہ سلیمانؑ کو شرعاً ملکہ کے تخت کو بغیر بتائے اٹھوانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیونکہ اس طرح تو ایک نبی پر سرفہ کا الزام آتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیسے منگوا یا۔ اور ہم کہتے ہیں کس حیثیت سے منگوا یا؟ اس کے لیے تخت یعنی پروٹوکول کے حساب سے جس پر اس نے آکر بیٹھنا ہے اور تخت بھی بعینہ وہیسا ہی بنوایا بس تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی۔ ہم روزمرہ کی زبان میں تمہاری چائے بولتے ہیں تو تمہارے لیے چائے۔ کسی مہمان سے

* محترم امتیاز صاحب (راولپنڈی) نے اس کتاب پر یہ تبصرہ لکھا ہے۔ جو من و عن شائع کیا جا رہا ہے۔

کہتے ہیں تمہارا کمرہ یہ ہے تو اس سے مراد اس کے لیے کمرہ ہوتا ہے نہ کہ کمرہ کی ملکیت مراد ہوتی ہے۔ بس اس اسلوب پر ”بعرشہا“ سے مراد اس کے لیے تخت اور ”الذی عندہ علم من الکتب“ سے مراد وہ شخص ہے جو اعلیٰ درجہ کا کاریگر تھا۔ جو اس کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب نہیں بلکہ اس علم کی کتاب تھی جس سے فنی کام لیا جائے۔ آج بھی ہر شعبہ کی تکنیک کے لیے کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر آسمانی کتاب مراد لیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک آدمی کو کتاب کا علم دیا گیا تھا؟ اور ایسی کون سی کتاب تھی جو دیگر رسولوں کو نہیں ملی؟ نہ کسی اور رسول کے صحابی ایسا علم جانتے تھے کہ سینکڑوں میل دور کی منوں وزنی چیز سینکڑوں میں اٹھا لائیں؟

شیخ عبدالکریم کی تاویل از حد قابل غور ہے۔

صفحہ نمبر 162-

قرآن میں کہاں ہے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے؟ 114 سورتوں میں تو نہیں۔ وفات عام انسانوں کی طرح نہیں یہ کہاں ہے؟ قرآن تو انکی وفات کا ذکر کرتا ہے۔ 3/55، 19/33، 5/117۔ رفع کا معنی اگر حقیقی کرتے ہیں تو پھر الیہ کا معنی بھی حقیقی کرنا چاہیے۔ جو ہو نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کی طرف (الیہ) جہاں اللہ وہاں ہی مسیح کو بھی ماننا پڑے گا۔ فافہم فند بروا لہذا آیت کا معنی مجازی ہی ہو سکتا ہے۔

صفحہ نمبر 173-

قرآن کریم میں بن باپ کا لفظ نہیں بلکہ کسی حدیث میں بھی بن باپ کا لفظ نہیں۔

صفحہ نمبر 175-

دونوں کو ایک طرح کے جواب سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے مکی پیدا ہوئے۔ ماں باپ کے ملاپ سے۔ ویسے ہی سیدنا عیسیٰ بھی پیدا ہوئے۔ فافہم فند بروا

دیکھیں جو قانون پیدائش و حیات و موت کا صحیحی کے لیے بتایا ہے وہی سیدنا عیسیٰ کے لیے بھی اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دونوں انبیا کی پیدائش و حیات و موت میں کوئی فرق نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عدل سے بات کرنے اور عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کی ولادت و وفات عیسیٰ سے متعلق تقریباً تمام شرح غلط ہے۔ اگر صرف زکریا کی بیوی ہی درست کی گئی تھیں اور زکریا درست نہیں کئے گئے تھے تو پھر تو صحیحی بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ قرآن میں ہے ”اصححنا له زوجہ“ ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ لہ کے لفظ نے صاف اشارہ کر دیا کہ نقص صرف بیوی تھا۔ جسکی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ زکریا میں سوائے بڑھاپے کے کوئی نقص نہیں تھا اور بوڑھا آدمی جماع کر سکتا ہے۔ آج کل تو میڈیا پر آئے دن خبریں آتی ہیں۔ کہ 75-70 سالہ بوڑھے نے جوان لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ پھر انکی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ مان لیں کہ صرف بیوی کو درست کیا تھا اور زکریا کو درست نہ کیا جاتا تو یا تو یہ مانیں کہ صحیحی بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یا یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بیوی کو ٹھیک کیا خاوند کو نہ کیا پھر تو اللہ تعالیٰ کی غلطی نکلی۔ اور پھر یہ بھی بتانا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ صحیحی کیسے پیدا ہوئے؟ اگر آپ کہیں کہ بطور معجزہ تو پھر بیوی کو بھی ٹھیک کر نیکی کیا ضرورت تھی۔ پھر غور فرمائیں زکریا کو بشارت دینے کے بعد ولادت صحیحی کا ذکر نہیں بلکہ فرمایا جاتا ہے۔ اے صحیحی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، نبی بنائے گئے یہ سب باتیں بدیہی تھیں لہذا حذف کر دی گئیں۔ صحیحی کو نبوت جب دی گئی تو قرآن نے اس عمر کے لیے جیسا کہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا ترجمہ لڑکپن کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لڑکپن سے مراد 8-10 سال کی عمر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کتاب عاقل بالغ سمجھ دار انسانوں کو ہی دی جاتی ہے یہاں صبیٹا سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ دیگر انبیا کے مقابلہ میں کم عمری میں (مثلاً 20 سال یا اسکے قریب ہی کی عمر) نبوت دی گئی۔ اسی طرح عیسیٰ سے متعلق جو گود میں بولنا مراد لیا جاتا ہے تو درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انھیں گود میں

ہی نبوت عطا فرمائی اور جو بچہ کتاب اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تبلیغ کتاب پر مامور کیا تھا۔ سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اگر الزام سیدہ مریم پر بدکاری کا تھا۔ تو پھر عیسیٰ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ میں بن باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہوں۔ میری ماں بے قصور ہے اور پاکہ ماں ہے۔ مگر قرآن میں تو یہ جواب نقل نہیں ہوا۔ بلکہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ بتائیں ماں کی براۓ اس جواب سے کیسے ثابت ہوئی؟ لہذا نہ ہی عیسیٰ دودھ پیتے بچے تھے نہ ہی مریم پر بدکاری کا الزام تھا نہ ہی عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے ہوئی۔ ہذا ما عندی والعلم عند اللہ۔

مزید دیکھیں سیدہ مریم کو بھی جب بچہ بشارت دی گئی تو انھوں نے بھی دو وجہ سے بچہ پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کیا۔ 1۔ لم یمسسني بشر 2۔ لم اک بغیا انسان کو بچہ صرف دو طرح ہو سکتا ہے جائز یا ناجائز۔ لم اک بغیا میں ناجائز بچہ کی نفی کی اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے لم یمسسني بشر میں جائز بچہ کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں بشر سے مراد خاوند ہے کہ اس کے مقابل زنا یا بدکاری کی نفی کی گئی ہے۔ پھر یہاں مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی بات کہی گئی جو زکریا کو کہی گئی تھی 'کذلک' اب اگر عیسیٰ کذلک کے نتیجے میں فطری طور پر پیدا ہوئے تو عیسیٰ کی پیدائش بھی کذلک کے لفظ کی وجہ سے اسی طرح ہوئی۔ جیسے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ سورة الانعام آیات 84-87 میں 18 انبیاء کا ذکر ہے جن میں عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ اور ان سب کے آباء کا ذکر ہے لہذا قرآن میں عیسیٰ کے والد کا ذکر آیا ہے۔ پھر انہی کے بہن بھائیوں اور اولادوں کا بھی ذکر ہے۔ اب عیسیٰ کے اولاد تھی تو پھر شادی بھی ہوگی۔ بہن بھائی تھے تو انکی والدہ کی شادی بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔

صفحہ نمبر 180۔

1۔ عیسیٰ کے لیے بھی یہی لفظ صبیبا آیا ہے وہاں کوئی بھی شیر خوارگی مراد نہیں لیتا۔ اس میں عیسیٰ کو صبیبا اللہ تعالیٰ نے کہا اور عیسیٰ کو فی المحمد صبیبا لوگ کہہ رہے ہیں جو مریم سے بھی بڑے ہیں۔ قرینہ اس کا یہ ہے کہ وہ مریم کے ماں باپ کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ لہذا عیسیٰ کے

جواب سے کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماں کی صفائی پیش کر رہے ہیں؟ لہذا فی المحدث صلباً اللہ کا قول نہیں مریم کے قبیلہ کے بزرگوں کا ہے۔

2- قرآن میں ہے اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ اس مقام سے ظاہر ہے وہ جس کو بھی ولد کہیں اس کے لیے ماں باپ کا ہونا لازم ہے۔ دیکھیں الانعام

101

3- یہ بھی کمزور بلکہ غلط دلیل ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ کا ذکر ہے۔ اور جگہ جگہ ام موسیٰ۔ موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے والد کا ذکر ایک مقام پر بھی نہیں۔ والدہ کی نسبت سے تذکرہ کی دو وجہیں ہیں۔ 1- انکی ماں بھی انسان تھیں الہ نہیں۔ 2- تمام مصائب کو سیدہ مریم نے ہی جھیلا۔ آپ غور فرمائیں عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنا تھا تو قرآن میں کہہ دیا جاتا کہ بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ معجزہ بھی لوگوں کو اس وقت دکھایا جاتا ہے جب نبی کی نبوت کو چیلنج کیا جائے۔ یہاں ایسی بھی کوئی بات نہیں۔

صفحہ نمبر 181-

1- اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ عیسائیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ بھی رسول ہیں الہ نہیں۔ اور تین نہ کہو میں مریم کی الوہیت کی بھی نفی ہے باقی روح کے معنی کے لیے 78/38، 26/193، 40/15، 16/2، 42/52 وغیرہ آیات پر تدریجاً فرمائیں۔

مائدہ آیت نمبر 75 میں بھی اثبات رسالت عیسیٰ اور ابطال الوہیت عیسیٰ و مادر عیسیٰ کی تعلیم ہے کھانا۔ کھانے والے انسان ہوتے ہیں۔ ام موسیٰ کے حوالہ جات کے لیے 7/150، 28/10 اور 20/94 میں ہارونؑ موسیٰ کو اے میری ماں کے بیٹے کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ انکی والدہ کی بہت قربانیاں تھیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 150 میں بھی ہارونؑ نے انھیں اے میری ماں کے بیٹے ہی کہا ہے۔ اب اگر عیسیٰ ابن مریم سے عیسیٰ بغیر باپ کے ثابت ہوتے ہیں تو پھر موسیٰ بھی بن باپ کے بلکہ ہارونؑ بھی بن باپ کے ثابت ہوتے ہیں۔

2۔ اس آیت سے پیدائش آدم و عیسیٰ میں مثلیت ثابت کرنا قرآن سے حد درجہ عدم تغافل کی دلیل ہے۔ آیت میں پیدائش کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ آدم پیدا ہوئے ہی نہیں کیونکہ ان کے ماں باپ تو تھے ہی نہیں۔ اور نہ ہی قرآن میں انھیں ولد کہا گیا ہے۔ عیسیٰ کو ولد کہا گیا ہے۔ لہذا آدم سے پیدائش میں مثلیت ہو نہیں سکتی۔ حق بات یہ ہے کہ آدم سے مثلیت انسان ہونے کی حیثیت میں ہے نہ آدم الہ تھے نہ ہی کسی نے آدم کو الہ مانا۔ ویسے ہی عیسیٰ بھی انسان ہیں الہ نہیں۔

صفحہ نمبر 184۔

مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ ابراہیم و زکریا کو بھی بچے فطری عمل کے ذریعہ ہی عطا ہوئے۔ اور انسانی ضابطوں کے تحت ہی اولاد دی گئی۔

صفحہ نمبر 189۔

ولادت مسیح کے باب میں اگر پرویز صاحب کمزور باتیں لکھ گئے تو آپ بھی وہی خطا کر رہے ہیں پہلے لکھا کہ صرف زکریا کی بیوی تندرست ہوئیں۔ اب صرف 'بوالدتی' سے استدلال پھر ایسی ہی بات ہے قرآن عربی مبین میں ہے اور تمام ضروری باتوں کو کھول کھول کر بیا کرتا ہے۔ 6/114، 10/37، 12/111 بے شمار بچوں کے باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ لکھا جا چکا ہے کہ موسیٰ کی بھی صرف والدہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ معاملہ ہے۔ قرآن صاف کہہ سکتا تھا کہ بن باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ صفحہ 146 پر آپ نے لکھا ہے کہ 'عیسیٰ خدا کی قدرت سے بن باپ کے پیدا ہوئے'، اب صرف بوالدتی سے بن باپ کے پیدائش ثابت کرنا اسی غلطی کا اعادہ ہے۔ جو حضرت پرویز کر گئے ہیں۔ یعنی اپنی بات کو خدا کے کلام میں ڈالنا۔ آپ سورۃ النعام پر غور فرمائیں۔ ومن ابائهم و ذریعتهم و اخوانهم یہ تینوں رشتے عیسیٰ کے والد، ان کی والدہ، ان کی والدہ کی شادی اور عیسیٰ کی اولاد بتا رہے ہیں۔ حیرانی اور افسوس کہ مسلمان مسیح علیہ السلام کے لیے تینوں رشتوں کے منکر ہیں۔ عیسیٰ کی ذریت مانیں تو انکی

شادی اور بھائی بہن مانیں تو مریم کی بھی شادی ثابت ہو جاتی ہے۔

صفحہ نمبر 193۔

دھیان رہے رفع کا معنی اگر حقیقی کریں تو الیہ کا بھی حقیقی کرنا پڑے گا۔ جو ناممکن ہے
لہذا رفع کا معنی بھی مجازی ہی کرنا پڑے گا۔

صفحہ نمبر 200۔

یہودی الزام لگا رہے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے اور قتل بھی صلیب پر چڑھا کر، بہت بد
ترین موت۔ بس قرآن سیدنا عیسیٰ کے قتل و صلیب کی نفی فرما رہا ہے نہ کہ موت کی۔ یہود کا دعویٰ
غلط تھا۔ قرآن نے قطعی طور پر فرما دیا و ما قتلوه یقیناً۔ آپ جو معنی فرما رہے ہیں ”میں تجھے پورا پورا
لے لوں گا“ یہ معنی قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ محمد اور یوسف علیہما السلام کے لیے بھی
یہ لفظ آیا ہے۔ وہاں موت ہی معنی کئے گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر عیسیٰ کو زندہ جسد مادی
کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ تو اب کبھی زمین پر واپس نہ آئیں گے۔ کیونکہ اگر واپس
نزول فرمائیں تو قرآن میں ان آیات کے مفہوم میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ قرآن میں ان آیات
کے تحت مان رہے ہیں کہ عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں دراصل حالانکہ وہ زمین پر زندہ چل پھر رہے
ہوں گے۔ اور کچھ عرصہ بعد انکی وفات ہوگی تو پھر ہم قرآن میں پڑھ رہے ہونگے کہ عیسیٰ آسمانوں
پر زندہ ہیں دراصل حالیکہ انکی قبر زمین پر ہوگی۔ پھر سورہ صف میں بھی ان کا قول نقل ہوا ہے۔ کہ
”مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد“ اب وہ تو کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد احمد آئیں
گے۔ جبکہ احمد کے بعد پھر عیسیٰ آئیں گے۔
”متوفیک“ کا معنی ابوالکلام آزاد اور عبدالحق حقانی نے اپنی اپنی تفاسیر میں ”جب تو نے میرا
وقت پورا کر دیا“ جب تو نے مجھے وفات دی“۔ کیا یہ بھی درست لگتا ہے 13/40 میں محمدؐ کے
لئے موت ہی مانا گیا ہے۔

الیہ کا معنی آپ بھی مجازی ہی کر رہے ہیں۔ تو رفع کا بھی معنی مجازی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آیت کے آدھے ٹکڑے کا معنی مجازی کریں اور آدھے کا حقیقی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ کسی بھی قاعدہ سے وہ نہیں بنتا جو آپ اور جمہور علما کر رہے ہیں۔ تنقلب کا معنی قرآن میں اٹھنا آیا ہی نہیں۔ 33/66، 3/144، 6/110 اور فی السماء کا معنی آسمان کی طرف ہو ہی نہیں سکتا۔ فلنولینک بغیر کسی صلہ مثلاً عن یا الی کے آئے تو اس کا معنی بھی پھیرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ تولیت کا معنی دیتا ہے۔ انفال آیت 34 پڑھیں اور البقرہ 142 میں صلہ کے ساتھ (عن) آیا ہے۔ وہاں 'پھرنے' مراد ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا آیا ہے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی طور پر ہی بلند ترین ہستی کے لیے بلند ترین مقام کے طور پر آیا ہے۔ خود آگے آپ کی وضاحت بھی کمزور ہے کہ ذہن اوپر اللہ کی طرف ہی جائے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پر تو انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ جبکہ عیسیٰ انسان ہیں وہ اگر آسمان پر ہوں تو کسی ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ حق بات یہی لگتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے لیے توفی کا وہی معنی کرنا چاہیے جو محمد اور یوسف علیہما السلام کے لیے کرتے ہیں۔ اور رفع کا معنی تو مجازی ہی ہو سکتا ہے۔ حقیقی کی گنجائش نہیں کہ رفع کا معنی حقیقی کریں اور الیہ کا مجازی۔

1- صرف عیسیٰ کیلئے رفع کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ صرف عیسیٰ کو لعنتی کی موت (نعوذ باللہ) مارنے کا دعویٰ کیا گیا۔ نہ صرف دعویٰ بلکہ یقین کر لیا گیا کہ عیسیٰ کو صلیب پر کیلیں ٹھونک کر مار دیا گیا۔ ان کے لیے قرآن میں مطہرک من الذین کفروا 3/55 کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اس آیت میں متوفیک کا معنی پورا پورا لے لوں گا غلط ہے۔ کوئی مثال قرآن سے یا کلام عرب سے پیش کریں کہ کسی انسان کو پورا جسم سمیت لے لینے کے معنوں میں یہ لفظ آیا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت میں ہم اللہ کو پابند نہیں بنا سکتے مگر قرآن میں جو بات اللہ تعالیٰ بتا دیں تو وہ

قانون بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں پھرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ متوفی موت کے لیے ہی آتا ہے۔ اسماء الرجال کی کتب اٹھائیں۔ ہر راوی کے حالات میں پیدائش کا سند اور مرنے کا سند لکھا ہوتا ہے۔ مرنے کے لئے المتوفی لکھا ہوا ہے۔ مثلاً ابن تیمیہ المتوفی 728ھ۔
متوفیک کا صحیح معنی جس میں ”پورا“ کا لحاظ ہو وہی ہے۔ جو ابوالکلام نے کیا ہے
جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا۔

صفحہ نمبر 218-

قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کو صرف قرآن ہی معجزہ (آیت) کے طور پر ملا تھا۔
العنکبوت 50-51 اور نبی کریم سے معجزات روک دیئے گئے تھے۔ 17/59۔ اور اسرا کے لیے بھی
”الرویا“ خواب کا لفظ آیا ہے۔ 17/60۔ لہذا ”اسرا“ بھی خواب تھا۔

صفحہ نمبر 219-

بے شک پرویز صاحب کا مفہوم ناقابل قبول ہے۔ مگر چونکہ قرآن میں محمدؐ کے لیے
معجزات کی نفی ہے۔ (دیگر انبیاء کو معجزات دیئے گئے مگر محمدؐ کو بطور معجزہ صرف قرآن دیا گیا۔)
لہذا چاند پھٹنا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ و جمع
الشمس والقمر القیامۃ آیت 9۔ چاند پھٹنے کا وقوع قیامت کو ہوگا۔

صفحہ نمبر 224-

1۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ”اللہ تعالیٰ بھی قانون کا
پابند نہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عذاب و ثواب اور مغفرت یا عدم مغفرت کے متعلق قرآن
میں تفصیلی احکام بیان کر دیئے ہیں۔ مذنب و متقین و صادقین کو یقیناً نجات ملے گی اور کفار و فاسقین
و ظالمین کو یقیناً جہنم۔ 128-127/3 میں بھی نبی کریم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ جب ان کے
مخاطبین ایمان نہ لا کر مستحق عذاب ٹھہر رہے تھے۔ تو نبی کریم از حد رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ قرآن

میں جگہ جگہ یہ آیات ملیں گی جنہیں شیخ القرآن حسین علی اور ان کے تلامذہ آیات تسلیہ کہتے تھے۔ لہذا بلاشبہ پرویز صاحب کی بات اپنی جگہ غلط ہے مگر اللہ تعالیٰ قانون کا پابند نہ ہو تو پھر کوئی عقیدہ اپنا یا ہی نہیں جاسکتا۔

2۔ ہو سکتا نہیں بلکہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ تائب کی توبہ یقیناً قبول ہوگی اور اسکی نجات بھی یقینی ہے۔

صفحہ نمبر 399۔

ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کتب احادیث میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر (جو نبی کریمؐ سے منسوب کی گئی ہے) سے متعلق بھی چند آیات کی تفسیر ہی موجود ہے۔ اگر نبی کریمؐ کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر تھی تو لازم تھا کہ ہر آیت کی تفسیر کر کے تشریف لے جاتے۔ حد یہ کہ مشکلات قرآن سے متعلق کسی بھی مشکل مقام کو حدیث سے حل نہیں کیا گیا۔ مثلاً سورۃ ص میں ایوبؑ سے متعلق 41 تا 44 کوئی صحیح روایت موجود نہیں حالانکہ اس مقام کا تقاضہ تھا کہ اسے روایت سے حل کیا جاتا۔ اگر نبی کریمؐ کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر بھی تھی تو اس جیسے بہت سے مقامات کی تفسیر کیوں نہیں کی گئی؟ سورۃ البقرہ 102 میں قصہ ہاروت و ماروت والا مقام بھی مشکلات قرآن میں سے ہے۔ اہل حدیث حضرات اس آیت کے حاشیہ میں تسلیم کرتے ہیں۔ ”لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارہ میں ثابت نہیں۔“ تفسیر احسن البیان صفحہ 42۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن مقامات پر قرآن کی تفسیر میں روایات آتی ہیں۔ ان میں بیشتر روایات درست نہیں۔ مثلاً سورۃ قیامتہ 19-16، سورۃ جمعہ آیات 9 تا 11 اور سورۃ ابراہیم آیت 27 کی تفسیر میں جو روایات آئی ہیں وہ قرآن کی غلط تفسیر کر رہی ہیں۔ جو ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نبی کی تفسیر نہیں۔

